

اردو مرثیے میں  
جیگت اور موضوع کے تحریکات

شمسا حیدر زیدی

قومی کوسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی



# اردو مرشیہ میں ہلپیٹ اور موضوع کے تجربات

شمشاہ حیدر زیدی



قومی کوسل برائے فروغِ اردو زبان

وزارتِ ترقی انسانی و سائل، حکومتِ ہند  
ویسٹ بلک-1، آر. کے. پورم، نئی دہلی - 110 066

© قومی کنسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

نومبر 2009	:	پہلی اشاعت
550	:	تعداد
227/- روپے	:	قیمت
1320	:	سلسلہ مطبوعات

## Urdu Marsiya Haiyat aur Mauzoo ke Tajarbat

by

Dr. Shamshad Haider Zaidi

ISBN : 978-81-7587-299-8

ناشر: ڈائرینٹری، قومی کنسل برائے فروغ اردو زبان، ویسٹ بلک-1، آر. کے. پورم، نئی دہلی۔ 110066

فون نمبر: 26108159, 26103381, 26103938, 26179657، فکس: 26108159

ای-میل: [urducouncil@gmail.com](mailto:urducouncil@gmail.com), ویب سائٹ: [www.urducouncil.nic.in](http://www.urducouncil.nic.in)

طابع: بج۔ کے۔ آفسیٹ پریس، گلی ۱۰۷ حصیا، نیا محل، جامع مسجد، دہلی۔ 110006

اس کتاب کی چھپائی میں TNPL Maplitho 70GSM کاغذ استعمال کیا گیا ہے۔

## پیش لفظ

انسان اور حیوان میں بنیادی فرق نقطہ اور شعور کا ہے۔ ان دو خداداد صلاحیتوں نے انسان کو نہ صرف اشرف الخلقات کا درجہ دیا بلکہ اسے کائنات کے ان اسرار اور موز سے بھی آشنا کیا جو اسے ڈھنی اور روحانی ترقی کی معراج تک لے جاسکتے تھے۔ حیات و کائنات کے فتنی عوامل سے آگہی کا نام ہی علم ہے۔ علم کی دوساری شاخیں ہیں باطنی علوم اور ظاہری علوم۔ باطنی علوم کا تعلق انسان کی داخلی دنیا اور اس دنیا کی تہذیب و تطہیر سے رہا ہے۔ مقدس پیغمبروں کے علاوہ، خدا رسیدہ پر زرگوں، پچھے صوفیوں اور سنتوں اور فکر رسار کھنے والے شاعروں نے انسان کے باطن کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ سب اسی سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں۔ ظاہری علوم کا تعلق انسان کی خارجی دنیا اور اس کی تشكیل و تغیرے ہے۔ تاریخ اور فلسفہ، سیاست اور اقتصاد، سماج اور سائنس وغیرہ علم کے ایسے ہی شعبے ہیں۔ علوم داخلی ہوں یا خارجی ان کے تحفظ و ترویج میں بنیادی کردار لفظ نے ادا کیا ہے۔ بولا ہوا لفظ ہو یا لکھا ہوا لفظ، ایک نسل سے دوسری نسل تک علم کی منتقلی کا سب سے موثر و سیلہ رہا ہے۔ لکھے ہوئے لفظ کی عمر بولے ہوئے لفظ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان نے تحریر کافن ایجاد کیا اور جب آگے چل کر چھپائی کافن ایجاد ہوا تو لفظ کی زندگی اور اس کے حلقة اثر میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔

کتابیں لفظوں کا ذخیرہ ہیں اور اسی نسبت سے مختلف علوم و فنون کا سرچشمہ۔ قومی کنوں برائے فروغ اردو زبان کا بنیادی مقصد اردو میں اچھی کتابیں طبع کرنا اور انھیں کم سے کم قیمت پر علم و ادب کے شائقین تک پہنچانا ہے۔ اردو پورے ملک میں کبھی جانے والی، بولی جانے والی اور

پڑھی جانے والی زبان ہے بلکہ اس کے سمجھنے، بولنے اور پڑھنے والے اب ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ کوئی کو شش ہے کہ عوام اور خاص میں یہاں مقبول اس ہر لغزیز زبان میں اچھی نصانی اور غیر نصانی کتابیں تیار کرائی جائیں اور انھیں بہتر سے بہتر انداز میں شائع کیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کوئی کوئی نے مختلف النوع موضوعات پر طبع زاد کتابوں کے ساتھ ساتھ تنقیدیں اور دوسری زبانوں کی معیاری کتابوں کے تراجم کی اشاعت پر بھی پوری توجہ صرف کی ہے۔

یہ امر ہمارے لیے موجبطمینان ہے کہ ترقی اردو یورو نے اور اپنی تکمیل کے بعد قوی کوئی برائے فروع اردو زبان نے مختلف علوم و فون کی جو کتابیں شائع کی ہیں، اردو قارئین نے ان کی بھرپور پذیرائی کی ہے۔ کوئی نے ایک مرتب پروگرام کے تحت بنیادی اہمیت کی کتابیں چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ کتاب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو امید ہے کہ ایک اہم علمی ضرورت کو پورا کرے گی۔

اہل علم سے میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ اگر کتاب میں انھیں کوئی بات نادرست نظر آئے تو ہمیں لکھیں تاکہ جو خامی رہ گئی ہو وہ اگلی اشاعت میں دور کر دی جائے۔

**ڈاکٹر محمد حمید اللہ بحث  
ڈائرکٹر**

## فہرست

xiii ..... ابتدائیہ

### باب اول فن مرشیہ گوئی

1	.....	۱- مرشیہ صفتِ مخن کی حیثیت سے
11	.....	مرشیہ کی جماليات
13	.....	مرشیہ اور پیکر
16	.....	مرشیہ کی نفیات
19	.....	۲- ہیئت اور موضوع کے چند ابتدائی نقوش

### باب دوم

ہندوستان میں اردو مرشیہ کا ارتقا

23	.....	۱- دکن میں اردو مرشیہ کا ارتقا
25	.....	قلی قطب شاہ، وجہی، نوری
29	.....	مرزا
33	.....	ہاشم علی
35	.....	درگاہ قلی

39	.....	2۔ شمالی ہندوستان میں مرثیہ گوئی
39	.....	(الف) دہلی میں مرثیہ گوئی
46	.....	فضل علی فضلی
48	.....	مسکین
51	.....	غمگین
52	.....	حزیں
53	.....	محبت
57	.....	سودا
61	.....	میر
63	.....	میر حسن
65	.....	حیدر بخش حیدری
72	.....	(ب) فیض آباد اور لکھنؤ میں مرثیہ گوئی
72	.....	حیدری
73	.....	سکندر
75	.....	گدا
76	.....	احسان
80	.....	افرودہ
81	.....	خلیق
82	.....	فتح
84	.....	ضیر
90	.....	ولگیر
96	.....	انہیں
125	.....	دیر

134	..... دا جد علی شاہ
136	..... (ج) مرشیہ بعد اپنیں
138	..... عشق
140	..... تعشق
141	..... مونس
142	..... صفائی
142	..... رفیع

### باب سوم

بیسویں صدی میں مرشیہ گوئی

(1901-1936ء)

145	..... (الف) میراث انیس اور دوسرے اثرات
146	..... میراث انیس
147	..... سودا کے تقیدی نظریات
147	..... انیس کے تقیدی انکار
148	..... حالی کا مقدمہ
156	..... (ب) دبتان انیس
157	..... نقیض
159	..... جلیس
159	..... عارف
163	..... (ج) دبتان دبیر
163	..... اونج
168	..... شاد
174	..... حامد

175 .....	(د) دہستان عشق
175 .....	رشید

☆

181 .....	جدید مرثیے پر علامہ اقبال کے اثرات
184 .....	دولار ام کوثری
187 .....	بہار حسین آبادی
195 .....	اٹکھنوی
196 .....	نقوی لال وحشی

### باب چہارم

اردو مرثیہ 1936 کے بعد

205 .....	(الف) قدیم طرز کے مرثیہ نگار
207 .....	مہذب لکھنوی
208 .....	شدید لکھنوی
209 .....	جدید بارہ بنگوی
210 .....	(ب) جدید طرز کے مرثیہ نگار
210 .....	جوش
219 .....	جمیل مظہری
233 .....	سید آل رضا
239 .....	شیم امر دھوی
246 .....	زار سیتاپوری
250 .....	ثغم آندی
257 .....	فیض احمد فیض
264 .....	سردار جعفری

	(ج) آزادی کے بعد ہندوستان میں مرشیہ گوئی
268	..... مہدی نظمی
268	..... وحید اختر
	(د) آزادی کے بعد پاکستان میں مرشیہ گوئی
287	..... صبا اکبر آبادی
291	..... قیصر بار ہوی
300	..... ڈاکٹر سید صدر حسین
303	..... ڈاکٹر یاور عباس
309	..... امید فاضلی
312	..... ہلال نقوی
317	..... تصویر فاطمہ
322	..... اختتامیہ
325	.....

☆

326	..... کتابیات
335	..... اشاریہ





## انتساب

ان مصنفین کے نام  
جن کی کتابوں کے اقتباسات  
اس کتاب میں شامل ہیں



## ابتدائیہ

رٹا کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے، جتنی انسانی زندگی۔ حضرت آدم جب زمین پر آئے تو فراقی حوا میں مدتلوں روتے رہے اور بعد کو اپنے بیٹے قابیل کے قتل پر، جسے خود انھیں کے بیٹے قابیل نے انجام دیا، اس کی میت پر آنسو بھائے۔ یہ سلسلہ انبیاء کرام میں بھی چنان رہا۔ جناب یعقوب بھی جناب یوسف کے محض گم ہو جانے پر اتنا روزے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔

تقریباً ہر زبان میں مریمیہ کی روایت موجود ہے۔ چونکہ فارسی شاعری عربی شاعری کے زیر اثر اور اردو شاعری فارسی شاعری کے زیر اثر پروان چڑھی اس طرح اردو مریمیہ کی تاریخ بھی عربی مرثیوں سے جاتی ہے۔ لیکن اردو مرثیوں کا عربی اور فارسی مرثیوں سے دور کا تعلق ہے اور وہ تعلق ہے اس کے موضوع کا۔ مریمیہ واقعہ کر بلاء سے پہلے بھی لکھے جاتے تھے لیکن واقعہ کر بلاء کے بعد مریمیہ اصطلاحی معنی میں شہادت حصین اور ان کے اصحاب کے لیے مخصوص ہو گیا۔

قدیم مرثیوں سے لے کر جدید مرثیوں کی منزل تک مریمیہ نے کئی کردھیں بدی ہیں۔ مریمیہ نے اردو شاعری کے ساتھ ساتھ اپنا ارتقا ای سفر طے کیا۔ اردو شاہیری کی دیگر اصناف پر سماجی، سیاسی اور نفسیاتی روحانیات کا اثر نمایاں ہے۔ مریمیہ بھی اس سے متاثر ہوا۔ جس طرح عربی فارسی اور قدیم دکھنی مرثیوں میں صرف نفس مضمون کی ممائنت ہے، اسی طرح

آج کے جدید مرثیے بھی انہیں کے مرثیوں سے کافی مختلف ہیں۔ اب مرثیہ مربوط خیالات کی ایسی نظم بن گیا ہے جو اپنے نفس مضمون شہادت حسینی سے ہم آہنگ ہے اور اس دور کے مذکاووں کی حوصلہ مندی کا باعث بھی۔ مرثیے کی اس تہذیلی کو اکثر پسند نہیں کیا گیا اور اسے، مسدس کا نام دیا گیا۔

اردو شاعری میں مرثیے کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں لیکن صنف مرثیہ پر سمجھا گئتابوں کا فتقان ہے۔ کچھ تو اس لیے کہ مرثیے کی مذہبی حیثیت کو زیادہ اور اس کی ادبی حیثیت کو نسبتاً کم اہمیت دی گئی۔ دیگر یہ کہ مرثیے پر لکھنا اتنا آسان بھی نہیں جتنا عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ مرثیہ پر لکھنے کے لیے ادبی معلومات کے علاوہ قرآن، احادیث، تاریخ اسلام کا اور روایات کا علم بھی درکار ہے۔

شبلی نعمانی کی کتاب ”موازینہ انیس و دییر“ (1906) کے بعد اس کتاب کے رد میں ”روال موازنہ“ (میرفضل علی)، ”تردید موازنہ“ (حسن رضا و محمد جان عروج) اور ”المیزان“ (نظر الحسن فوق) جیسی کتابیں منظر عام پر آئیں۔ انیس و دییر کی بحث کے ایک حصے بعد مرثیہ پر باقاعدہ کتابیں بیسویں صدی کی ساقتوںیں دہائی سے منظر عام پر آئی شروع ہوئیں، جن میں سفارش حسین، علی عباس حسینی، اظہر علی فاروقی اور مسیح الزماں کی کتابیں شامل ہیں۔ ان میں مسیح الزماں کی کتاب ”اردو مرثیے کا ارتقا“ خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ سفارش حسین کی کتاب ”اردو مرثیہ“ کیا ہے ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں کے بعد مرثیہ نگاروں کا سرسری جائزہ پیش کرتی ہے۔ علی عباس حسینی اور اظہر علی فاروقی کی کتابیں شاید لاہوری پوسٹ میں بھی آسانی سے نہیں لکھیں۔ پروفیسر مسیح الزماں نے مرثیہ پر بڑا کام کیا مگر ان کی کتاب ”اردو مرثیے کا ارتقا“ عہد انہیں تک کا احاطہ کرتی ہے، یہی حال اکبر حیدری کی کتاب ”اوده میں اردو مرثیے کا ارتقا“ کا ہے۔ مرثیے نے انہیں کے بعد کیا صورت اختیار کی اس کا ذکر ان کتابوں میں نہیں۔ ”مرثیہ بعد انہیں“ صدر حسین کی تخلیق ہے، لیکن یہ کتاب بھی اب نایاب ہے۔ اس کے علاوہ رشید موسوی کی کتاب ”دکن میں مرثیہ اور عزاداری“ (1857ء 1957ء) ایک صدی کا احاطہ کرتی ہے، وہ بھی صرف دکنی شعر اکا، علی جواد زیدی کی کتاب

”دہلوی مرثیہ گو“ دو جلدیں میں ہے اور کافی کار آمد ہے۔ لیکن یہ دہلوی شعر اتنک محدود ہے۔ اس کے علاوہ دہلوی کون؟ لکھنؤی کون؟ کی بحث الگ۔ ”مرثیہ بعد انہیں“ اور جدید مرثیوں پر بھی کتابیں آئیں مگر ان میں قدیم مرثیہ نگاروں کا ذکر نہیں کے برابر ہے۔ ہلال نقوی کی کتاب ”بیسویں صدی اور جدید مرثیہ“ (1994) خاصی ضخیم ہے۔ اول تو یہ کہ یہ کتاب ہندوستان میں آسانی سے دستیاب نہیں، دیگر یہ کہ کئی غیر ضروری ادوار میں منقسم ہونے کے باعث طبا کے لیے زیادہ کار آمد نہیں۔ یہ کہتا غلط نہ ہوگا کہ ابتداء سے حال تک مرثیہ گوئی پر باقاعدہ جائزہ کسی کتاب میں اب تک نہیں لیا گیا۔

یونیورسٹی کے نصاب میں بیسویں صدی کے چند مشہور مرثیہ نگاروں کی شامل ہیں اور طبا کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی کو جھوسوں کرتے ہوئے میں نے اولاد مرثیے کے اہم موز پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی اور مختلف ادوار میں ہیئت اور موضوع میں جو تبدیلیاں ہوئیں، انھیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس راہ میں جو دشواریاں آتی ہیں اس کا اندازہ انھیں حضرات و ہوگا، جھنوں نے طبا کی ضرورتوں کے پیش نظر اس طرح کی کوئی کتاب مرتب کرنے کی کوشش کی ہو۔

بہر حال میں نے قدیم مرثیوں سے لے کر آج تک کے مرثیوں میں ہیئت اور موضوع کے اعتبار سے جو تبدیلیاں ہوئیں، ان کا جائزہ لینے کی بساط بھر کوشش کی ہے۔ قارئین سے گذارش ہے کہ وہ اپنے مفید مشوروں سے مجھے فوازتے رہیں۔ کتاب میں چند اہم شعرا کا ذکر نہیں آسکا۔ ان کا تفصیلی جائزہ لینے کی ضرورت تھی۔ طوالت کے خوف سے انھیں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ انشاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں انھیں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ جناب پروفیسر فضل امام رضوی صاحب کا بے حد شکر گذار ہوں جن کے تعاون کے بغیر اس کتاب کی تکمیل ممکن نہیں تھی۔

### ڈاکٹر شمس الدین حیدر رزیدی

22-1/12 بی، کرامت کی چوکی، الہ آباد



باب اوّل

فنِ مرثیہ گوئی



## ۱- مرثیہ: صنف سخن کی حیثیت سے

انسان اشرف اخلاقوں ہے۔ جن چیزوں کی بدولت اسے یہ فضیلت حاصل ہے  
وہ ہیں عقل اور زبان۔ عقل کے ذریعہ وہ حیات و کائنات کے رازوں کو دریافت کرتا  
ہے، زندگی کے مسائل حل کرتے ہوئے ترقی کی راہیں تلاش کرتا ہے اور زبان کے ذریعہ وہ  
اپنے تجربات، مشاہدات و احساسات کو ادب کی شکل میں منتقل کرتا جاتا ہے۔ اپنے ذہنی ارتقا  
کے ابتدائی دور میں اسے ایک ایسے نظام کی ضرورت ہوئی، جس میں وہ انسانوں کی طرح جی  
سکے۔ اسی کوشش میں اس نے چند اصول مرتب کر لیے، جسے مذہب کے نام سے تعبیر کیا گیا۔  
مختلف ادوار میں اور سماجی و علاقائی ضرورتوں کے پیش نظر ان میں اختلافات بھی پیدا ہوئے  
اور معرکے بھی گرم ہوتے رہے۔ انھیں میں عرب اپنے اسلاف پر فخر یہ اشعار ”رجز“ پڑھتے  
اور ان کی موت پر اظہار رنج و غم کرتے، یہی ان کے مرثیے تھے۔

”مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شخص کی موت پر اظہار رنج و غم کیا جائے اور  
اس کے اوصاف بیان کیے جائیں۔“

جب جب ظلم کا بازار گرم ہوتا ہے اور معاشرے کوئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے  
تو اسے اپنے اسلاف کا دھیان آتا ہے۔ وہ ان کے کارنا موں کو یاد کرتے ہیں اور ان پر آنسو  
بہاتے ہیں اور زندگی کی جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ اس طرح انھیں ایک  
نتی طاقت حاصل ہوتی ہے۔

موت انسانی زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ موت ہی وہ تصور ہے، جس سے انسان اپنی صحیح حیثیت کا جائزہ لینا شروع کرتا ہے۔ انفرادی موت، اجتماعی موت، انحطاط، بے عملی، غلامی اور خوف یہ سب موت ہی کی مختلف شکلیں ہیں، جن کے خلاف جنگ کرنا ہی اصل زندگی ہے۔ ظلم، جبر، معافی اور رہنمائی اتحصال کے خلاف مصیبتوں اٹھانے والا ہی قوم کاراہ نما اور ہبر ہوتا ہے۔ ادب چونکہ زندگی کی تفسیر بھی ہے اور اس کی تعبیر بھی، اس لیے وہ اپنی تمام آرزوؤں اور تمناؤں کے باوجود اس حقیقت پر نظر رکھتا ہے۔

بارے دنیا میں رہ غم زدے یا شادر ہو

ایسا کچھ کر کے چلو یاں کہ بہت یاد رہو (میر)

دوسری طرف اپنی اتنا کی تفہی کے لیے ایسے غلط راستے اختیار کرتا ہے کہ انسان اپنے بلند مقام سے گر کر بدتریں مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ دولت، حکومت اور اقتدار کی تمنا کے سبب تو وہ ایک دوسرے کا اتحصال کرتا ہی ہے، کبھی کبھی وہ ایسی شخصیتوں کا دشمن بھی بن جاتا ہے جنہیں نہ حکومت سے کوئی داسطہ ہوتا ہے اور نہ اقتدار سے۔ ہاں ان میں کچھ باطنی اوصاف ہوتے ہیں جو تنگ نظرؤں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں اور وہ ان قابل احترام ہستیوں کو تباہ کرنے پر تل جاتے ہیں۔ واقعہ کر بلاؤ اس بات کا ثبوت ہے۔ واقعہ کر بلاؤ ایک غیر مسلم کے خیالات ملاحظہ ہوں:-

”اسلام کی تاریخ میں بالخصوص اور انسانیت کی تاریخ میں بالعموم کوئی قربانی اتنی عظیم، اتنی ارفع اور اتنی مکمل نہیں ہے، جتنی صیئن ابن علی کی شہادت، جو کارزار کر بلاؤ میں واقع ہوئی۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور سیدۃ النساء فاطمہ زہراً اور حضرت علی مرتضیٰ کے جگر گوشے صیئن کے گلے پر جس وقت چھری پچھری گئی اور کر بلاؤ کی سرز میں ان کے خون سے لہولہاں ہوئی، تو درحقیقت یہ خون ریت پر نہیں گرا بلکہ سنت رسول دین ابراہیم کی بنیادوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہنچ گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نیز خون ایک ایسے نور میں تبدیل

ہو گیا جسے نہ کوئی توارکاٹ سکتی ہے اور نہ کوئی نیزہ چھید سکتا ہے اور نہ زمانہ مٹا سکتا ہے۔<sup>1</sup>

دنیا ایک مثالی کردار کی تلاش میں تھی کہ اسے صین ابن علی کے روپ میں ایک کردار مل گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد مرثیہ صرف امام حسینؑ کے بیان کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ اردو زبان میں عام طور پر مرثیہ کے لفظ سے شہادت اہل بیت کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ اصل میں مرثیہ واقعات کربلا کے بیان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ دوسروں کے مرنے پر بھی نظمیں لکھی گئی ہیں اور ان کو مرثیہ ہی کہتے ہیں، لیکن انہیں ”شخصی مرثیہ“ کہتے ہیں۔ مرثیہ کا مقصد گریہ و بکار سے زیادہ بلند ہے۔ اس سے ہمیں اس عظیم هستی کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ مرثیہ کا اجتماعی اثر ہماری اصلاح کرتا ہے۔ ڈاکٹر سید صدر حسین نے مرثیہ کی تعریف یوں کی ہے۔

”ایک متین درد آنگیز اور موثر زبان میں اس انداز سے ان کے کارنا نے بیان کیے جائیں کہ جذبات کے ساتھ ساتھ واقعات کی شاعرانہ تصویریں بھی شامل ہوں اور اس کا جگہ اثر ہمارے یہ جانات کی صحت و اصلاح کرے۔<sup>2</sup>

مرثیے کی حیثیت مذہبی بھی ہے اور تاریخی بھی۔ مرثیے کے سلسلے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ مرثیہ ایک مذہبی صنفِ خن ہے اور مذہبی شاعری اعلیٰ درجے کی شاعری میں شمار نہیں ہوتی۔ کلیم الدین احمد لکھتے ہیں۔ ”مذہبی شاعری عموماً اعلیٰ درجے کی شاعری نہیں ہوتی۔ عام مذہبی جذبہ اچھی شاعری کا محرك نہیں“<sup>3</sup> دوسرے یہ کہ تاریخ سے مرثیہ نگار کو مودا تو مل ہی جاتا ہے، اس کا کارنامہ تو زبان و بیان تک ہی محدود ہے۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں کوئی خاص وزن نہیں رکھتیں۔ یہ بات کوئی مغدرت کی نہیں کہ مرثیہ مذہبی صنفِ خن

<sup>1</sup> ”واقعہ کربلا بطور شعری استعارہ“ گوپی چندر ناراگ۔ ”شب خون“ شمارہ 1466، اگست 1987

<sup>2</sup> ”مرثیہ بعد انش؟“ ڈاکٹر صدر حسین

<sup>3</sup> ”میر انس“ کلیم الدین احمد

ہے۔ گوئے کے مطابق زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو شاعری کے لیے مناسب نہ ہو۔ عوای زندگی میں آج بھی مذہب کا ایک اہم کردار ہے۔ مذہبی عقیدت ایک قومی اور عوای جذبہ ہے۔ مذہبی شاعری میں رسومات سے لے کر فلسفیانہ خیالات اور اخلاقی مضامین تک مل جاتے ہیں۔ اعلیٰ شاعری کی بنیاد مذہب پر بھی رکھی جاسکتی ہے لیکن شرط تحریب کی ہے۔ اگر شعرفن کی کسوٹی پر کھرا ہے تو خواہ اس نے مذہب سے مفاد حاصل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ شاعری جذبات کی پروش کا نام نہیں بلکہ جذبات کی تہذیب کا نام ہے اور جذبات کی تہذیب کی گنجائش مرثیوں میں دوسری اصناف کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ بقول انتظار حسین ”کربلا تو انسانی روح کی جدوجہد کا جاؤ داں استعارہ ہے، جو ہمارے ادب کا موضوع رہا ہے۔“<sup>۱</sup> اردو غزل میں بھی واقعہ کربلا کو استعارے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

دست کش نالہ پیش رو گر یہ  
آہ چلتی ہے یاں علم لے کر



زیر شمشیر تم میر ترپنا کیا  
سر بھی تسلیمِ محبت میں ہلایا نہ گیا



اپنے جی میں ہی نہ آئی کہ پئیں آب حیات  
ورنہ ہم میر اسی چشمے پے بے جان ہوئے



واں سے سر حرف تو ہو گو کہ یہ سر جائے  
ہم حلقی بریدہ ہی سے تقریر کریں گے




---

<sup>1</sup> ”انیں کے مرثیے میں شہر“، انتظار حسین۔ ”انیں شناسی“، مرتبہ: گوپی چند نارنگ۔

اس دشت میں اے سیل سنجھل ہی کے قدم رکھ  
ہر سمت کو یاں دُن مری تشنہ بی ہے  
(میر)



حقیقت ابدی ہے مقامِ شبیری  
بدلے رہتے ہیں اندازِ کونی و شامی  
(اقبال)



غريب و ساده و رنگیں ہے داستانِ حرم  
نہایتِ اس کی حسین ابتداء ہے اسما عیل  
(اقبال)



ہزار بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں  
وہ ایک قطرہ خون جو رگِ گلو میں ہے (سید سلیمان ندوی)



وہی پیاس ہے وہی دشت ہے وہی گھرنا ہے  
مشکیزے سے تیر کار شستہ بہت پرانا ہے  
صح سویرے رلن پڑتا ہے اور گھسان کارن  
راتوں رات چلا جائے جس جس کو جانا ہے  
(افتخار عارف)



اہی کے خون کی چھینٹیں ہیں میرے داں پر  
جورن میں چھوڑ گیا تھا گلے لگا کے مجھے  
(سید عارف)



خیمرہ گاہ تشنگاں میں پیاس کی اہروں کے ساتھ  
تیر دریا کی طرف سے رات بھر آئے بہت  
(امید فاضلی)



پیاس نے آب روائ کو کر دیا موج سراب  
یہ تماشا دیکھ کر دریا کو حیرانی ہوئی (عرفان صدیقی)



یہ ہوا کا وقت، یہ جنگل گھنا، یہ کالی رات  
سنو یہاں کوئی خطرہ نہیں تھہر جاؤ (عرفان صدیقی)



ان دنوں لوگ ہیں سب کل طلب کیا معنی  
پس زندگی بھی نہیں گریے شب کیا معنی (سید ارشاد حیدر)



چھوڑ دے دامنِ مرا زنجیر دراب<sup>۱</sup>  
لوٹ تو آؤں گا لیکن سر شکستہ (سید ارشاد حیدر)



یہاں یہ باتِ دھیان دینے کی ہے کہ جدید شاعری میں ایسے اشعار خاصی تعداد  
میں مل جاتے ہیں۔ چونکہ ہندوستان میں آج کل مرثیے کم لکھے جا رہے ہیں، اس لیے یہ  
رہنمای جدید غزل میں نہایاں ہے، یا اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غمِ ذات نے کربلا  
کے دامن میں پناہی ہے۔

یہ بات بھی درست نہیں کرتا رخ نے مرثیہ نگاروں کو مواد فراہم کر دیا ہے۔ تاریخ  
سے تو صرف اشارے ملتے ہیں، ان میں صداقت کارنگ بھرنا تو شاعروں کا کام ہے۔ یہاں  
موضوع اور مواد میں فرق جان لیتا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ ادبی مواد کو موضوع اور  
مرکزی خیال میں خلط ملتط کر دیتے ہیں۔ ایک ہی موضوع کی ادبی تحقیقات کا مواد الگ الگ  
ہو سکتا ہے۔ مرکزی خیال سے مواد کا ایک ہلکا خاکہ نظر آتا ہے، لیکن اسی مرکزی خیال کے

---

۱ یہ غزل فاعلان فاعلان فاعلن (رمل مسدس مخدوف) کے وزن پر نہیں ہے بلکہ اس کا تیرارکن بھی  
فاعلان ہے یعنی رمل مسدس کو سالم الارکان بنایا گیا ہے۔

ارد گرد بہت سے موضوعات پیش کیے جاسکتے ہیں۔ حضرت یوسف کی کہانی کا مرکزی خیال ایک فقرے میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ اسی مرکزی خیال پر بہت سی کہانیاں لکھی جاسکتی ہیں۔ ادب میں مرکزی خیال کی کوئی غیر معمولی اہمیت نہیں۔ پروفیسر سید محمد عقیل رضوی لکھتے ہیں:

”رثائی ادب کا تمام تر حصہ امر واقعہ کے لحاظ سے سب کچھ ماضی ہے۔ مگر ہر دور کے فنکار نے اسے اپنی تہذیبی صورتوں، اپنی تاریخ، اپنے سماج اور اپنی تعبیروں سے اپنے حال میں اس طرح ختم کر لیا ہے کہ اس کے یہ رثائی تاریخی واقعات، اس کی اپنی تہذیب اور اس کا اپنا حال بن گئے ہیں اور اس طرح رثائی ادب کا فن کار اپنی تخلیقات میں ماضی کی بازیافت اپنی حال کی زندگی میں کرتا نظر آتا ہے۔“

(مرثیے کی ساجیات، ص ۱۱)

اکثر ناقدین کا خیال ہے کہ شاعری اظہارِ ذات ہے اور مرثیہ، غزل کی طرح کا اظہارِ ذات نہیں۔ یہ بات تو سہی ہے کہ شاعر اپنے تجربات اپنی ذات کے آئینے میں پیش کرتا ہے اور مرثیے میں اس بات کی گنجائش کم ہے کیونکہ مرثیہ نگار کی مجبوری یہ ہے کہ وہ بیانیہ کو ساتھ لے کر چلے۔ بیانیہ شاعری میں داخلی اور خارجی عناصر گھل مل جاتے ہیں۔ ویسے بھی انسان کی شخصیت اتنی واضح نہیں ہوتی اور نہ سطح ذہنیت کو آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے لیکن واقعہ کو کس شدت سے محسوس کیا گیا، کن حالات میں کس طرح کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، اس کا یقین بہر حال شاعر کرتا ہے اور اس کا اظہار کسی حد تک شاعر کی اپنی ذات پر منحصر ہے۔ بیزیدی فوج کے حملے کے بعد اہل حرم کی یہ تصویر ہے

ہے ہے علیٰ کی بیٹیاں کس جا ہوں گوشہ گیر

اصغر کے گاہوارے تک آ کر گرے ہیں تیر

یہ تصویر اس تصویر سے بہت مختلف ہے۔

سر کو اٹھا کے دختر زہرا نے یہ کہا

میں آپ کی بہن ہوں مرا امتحان نہ لیں

اس طرح بیانیہ کے ساتھ ساتھ مرئیے میں اظہارِ ذات بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک کسی موضوع کے شعر کے پیکر میں ڈھلنے کا سوال ہے، زمانہ قدیم سے کوئی تاریخی واقعہ یا شخصیت، شاعری کام موضوع رہی ہے۔ ڈاکٹر وحید اختر نے ایک بند میں اس بات کی وضاحت کی ہے۔<sup>۱</sup>

ہر تجربہ زیست ہے بے بیت و اسلوب احسان کو ہر طرح کے الفاظ میں مطلوب  
مخصوص کوئی طرز نہیں فکر کو مرغوب کیوں صنفِ خن ہے کوئی خوب اور کوئی ناخوب  
ہو پھوٹا چشمے کو تو پھر بھی نہیں سخت  
پھر شعر پہ کیوں قافیے ہوں تگز میں سخت

ہے نش کم آہنگ پ جب شعر کا الزام کیوں مریثہ و مثنوی وہ جو سے ابرام  
ناشاعروں کے تجربے کا شعر نہیں نام تیسرا ہوتا ہر سنگ میں بے تاب ہیں اصنام  
کہہ دے جو قلم کن تو ہو عالم نیا پیدا  
مٹی سے بھی کر لیتا ہے فن دیوتا پیدا

اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شاعری میں اول تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا جذبہ ہے، جس نے شاعر کو شعر کہنے پر مجبور کیا اور کس طرح اس کا اظہار ہوا۔ جذبہ اپنی صداقت سے ہمیں متاثر کرے، اس کی زبان اور طرزِ ادا میں تناسب ہو۔ جذبہ تو داخلی یا شخصی ہو سکتا ہے، لیکن ان میں عام انسانی قدروں کی مصوری بھی ہوتا ہے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ گویا اس کے ذاتی تجربات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اُسی۔ ایسی۔ ایسی اپنے مضمون "مذہب اور ادب" میں لکھتا ہے :

"میں اس بات کو واضح کرتا چلوں کہ جب مذہب اور ادب  
پر گرفتگی کر رہا ہوں تو میرا تعلق بنیادی طور پر مذہبی ادب سے ہرگز نہیں  
ہے۔ میرا تعلق اگر ہے تو صرف اتنا ہے کہ مذہب اور تمام ادبیات میں  
کیا تعلق ہونا چاہیے.... میرا خیال یہ ہے کہ ایسکی تحریروں پر مذہب اور

<sup>1</sup> "کربلا کربلا" ڈاکٹر وحید اختر

ادب کے تعلق سے کسی سمجھدہ غور و فکر کی چند اس ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تحریریں ایک ایسے شعوری فعل کی حیثیت رکھتی ہیں، جہاں یہ مان لیا گیا ہے کہ مذہب اور ادب کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو وہ شعوری اور محدود قسم کا ہے..... اب سوال یہ ہے کہ آیا عام طور پر لوگوں نے مذہب یا مذہب کے خلاف کوئی متعین رائے قائم کر لی ہے، اور کیا وہ اپنے دماغوں کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر اسی مقصد کی خاطرناول یا شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں۔”<sup>1</sup>

مذہب اور قصیدہ کہانیوں میں روایتی اور طریقہ عمل ایسی چیزوں ہیں جو مشترک ہیں۔ مذہب ہمارے اخلاق اور فصلوں کو متعین کرتا ہے، ہمیں اپنی ذات کا جائزہ لیتا سکھاتا ہے اور ساتھ ساتھ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارے طریقہ عمل کو متعین کرتا ہے اسی طرح وہ کہانیاں جو ہم پڑھتے ہیں ہماری ذات کو ممتاز کرنی ہیں اور ہمارے طریقہ عمل کو بنالی بگاڑتی ہیں۔ جب تم ان قصہ کہانیوں میں لیے انسانوں کو دیکھتے ہیں، جو مخصوص اندازے عمل کر رہے ہیں اور مصنف خود بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے عمل کو جسے ہم نے خود ترتیب دیا ہے پسندیدہ نظر سے دیکھ رہا ہے تو ہم بھی اس طرح عمل کرنے کی طرف مل ہو جاتے ہیں۔

مریئے میں تمام موضوعات ہوتے ہیں۔ جو ہر زبان کی اعلیٰ شاعری میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ ”بڑا موضوع“ بڑی شاعری کا ضامن ہے کہ نہیں، لیکن مرثیوں کی عظمت مرثیوں میں نہیں بلکہ ان اعلیٰ انسانی قدروں میں ہے، جو مرثیوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ وقارع کر بلاؤ جو مستند تاریخی کتابوں سے ثابت ہوتے ہیں، ان میں سے بہت کم ہیں، جو مرثیوں میں بیان کیے جاتے ہیں، ہر واقعہ کی جو تفصیلات لکھی جاتی ہیں، ان میں بہت سی قریں قیاس ہیں۔ ڈاکٹرو جیدا ختر نے اپنے مضمون ”انیس کی سیرت نگاری“ میں انیس کی شاعری پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے، یہ بات تمام مرثیہ نگاری پر صادق آتی ہے:

”اگر رواتیوں سے اس طرح کے واقعات کی سند نہیں ملتی تو کی ہم

---

<sup>1</sup> ”ایلیٹ کے مضمین“ (مذہب اور ادب)، فی۔ ایس۔ ایلیٹ، مترجم: جیل جالبی۔

تک پہنچنے والی رواتیوں میں ہے۔ واقعات کوفطری طور پر یونہی ہونا چاہیے تھا،  
جس طرح انہیں کے تخلی نے دیکھا اور لکھایا ہے۔<sup>1</sup>

یہ کہنا بھی درست نہیں کہ واقعہ کر بلماں میں حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء مافوق البشر طاقت رکھتے تھے اور دونوں طرف کے لوگ برابر کے نہ تھے۔ اس لیے بیان میں حسن پیدا نہیں ہوتا۔ کربلا میں جتنے بھی کروار منظر عام پڑتے ہیں، سب کے سب پیکر شریعت میں عام انسانی سیرت کے حامل ہوتے ہیں۔ صرف امام حسین اور ان کی شہادت کے بعد حضرت زین العابدین، جو شیعی عقائد کے مطابق معصوم ہیں، اس کے علاوہ سارے کروار غیر معصوم ہیں۔ لیکن سیرت کی ان بلند یوں پر ہیں کہ معصوم نظر آتے ہیں۔ امام حسین کی مجزے سے کام نہیں لیتے۔ مریئے میں ہم صرف واقعہ کر بلکہ یہیں دیکھتے بلکہ پوری اسلامی مملکت کو ایک بحران سے دوچار دیکھتے ہیں، جس میں معاشرے کا سکون تباہ ہو چکا ہے۔ جبر کا دور ہے اور انسانی روح ایک کرب کے عالم میں ہے۔ مرثیوں کو تہذیبی اور سیاسی زندگی سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ پھر آج کا مریئہ تو واقعات کو بیان بھی نہیں کرتا، اس کی منزل تو واقعہ کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ آل احمد سرور لکھتے ہیں:

”ادب میں پہلی اور بنیادی شرط ادبیت ہے۔ شاعری میں  
شعریت۔ لیکن شعریت کے جس نظارہ جمال پر ہم وجد کرتے ہیں اس  
میں زندگی کی دوسرا قدر یہ بھی آسکتی ہیں اور آتی ہیں۔ شعر اخلاقی بھی  
ہو سکتا ہے، سیاسی بھی اور مذہبی بھی..... ہاں اگر یہ شاعری ہو..... تو وہ  
مذہب، اخلاق اور سیاست کے کسی سرچشمے سے فیض حاصل کر سکتی ہے۔“

(پہچان اور پرکھ، ص 122-123)

مختلف ادوار میں مریئے کے موضوعات کیا رہے ہیں اور ان کی کیا ہیئت رہی اس کا ذکر تو ہم آگے کریں گے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مریئے کے مطالعہ کے امکانات پر روشنی ڈالی جائے۔

1 ”انہیں شناہی“، مرتبہ گوپی چند نارنگ۔ ص 198

### مرثیے کی جماليات

حسن پرستی انسان کی فطرت ہے۔ تدبیم یونانی مفکرین کے مطابق فن ذاتی خداوندی کا مظہر ہے۔ اسے وہ ازی، ابدی اور لا تائی مانتے تھے۔ ان کے نزدیک حسن، خیر اور صداقت ایک ہی چیز تھی۔ تصور حسن تو بدل تارہا، آج پرسکم چند کامقولہ مشہور ہے۔ ہمیں حسن کے معیار کو بدلنا ہوگا۔ یہ انسان کسی غیر محسوس شے پر زیادہ دیر تک اپنے ذہن کو مرکوز نہیں رکھ سکتا اور کوئی فرضی جسم تلاش کر لیتا ہے۔ فطری حسن کی جلوہ گری سے اسے تسلی نہ ہوئی تو اس نے دل انکانے کے لیے بت تراش لیے، کیونکہ تخلیق انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ فطرت انسانی کے اسی تقاضے کے سبب مصوری، بت گری، رقص، موسیقی اور شاعری نے جنم لیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں:

”انسان خدا کے ماوراءِ تعقل اور غیر شخصی تصور پر زیادہ  
دیر قانع نہ رہ سکا اور کسی نہ کسی شکل میں اپنے انکار و احساسات کے  
مطابق ایک شخصی تصور پیدا کرتا رہا۔ غیر صفاتی تصور کو انسان پکڑ نہیں  
سکتا اور طلب اسے ایسے مطلوب کی ہوئی، جو اس کی پکڑ میں آسکے۔ وہ  
ایک ایسا جلوہ محبو بائی چاہتا تھا جس میں اس کا دل انک سکے، جس کے  
حسن گریزیاں کے پیچھے دہ والہانہ دوڑ سکے، جس کا دامن کبریائی  
پکڑنے کے لیے دستِ عجز و نیاز پیش کر سکے۔“

(غمبار خاطر، آزاد اکیڈمی، دہلی ص 162-166)

شاعری جو سر اپا حسن ہے اس کی تفسیم جمالیاتی القدار پر نگاہ رکھے بغیر نہیں کی جاسکتی۔ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا کسی غیر مرکی شے کی تصور یا تاریخ جاسکتی ہے۔ پام گارٹن حقیقت اور حسن کو ایک ہی شے مانتا ہے اور کہتا ہے کہ ”جس چیز کا علم احساس کے ذریعے ہو، اسے حسن اور جس چیز کا علم عقل کے ذریعے ہو، اسے حقیقت کہتے ہیں۔“ بولوحق کو سب سے زیادہ حسین کہتا ہے۔ سرود نے تابع دہم آہنگی کو حسن کی روح بتایا ہے۔ افلاطون [مصری فلسفی پلینیس کو اردو میں افلاطونیں لکھتے ہیں] کے نزدیک حسن ایک ایسا نور ہے جو سب

چیزوں سے افضل ہے۔ اسطو کے نزدیک حسن اس چیز کا نام ہے، جو کسی غرض کو پورا کرے۔ اشیفنسن بری کے مطابق حقیقی حسن صرف وہ ہے، جو انسانی اعمال میں پایا جاتا ہے۔ بیگل کہتا ہے کہ اگر اصل شے تصور ہی ہے تو مادی یا جسمانی مظاہر کے بغیر اس کا ہونا نہ ہونا برا بار ہے۔ بیگل اسی بیست کو حسن مانتا ہے، جو اپنے تصور کا مکمل انہیار ہو۔ کروچے کے نزدیک ”روح“ سے اس کی مراد ذات خداوندی کا مظہر ہے اس کے نزدیک ساری کائنات میں روح بر قی روکی طرح دوڑتی رہتی ہے اور اس کے اظہار ذات سے فن کار کے عالم و مجدان میں فن وجود میں آتا ہے۔

مرشیہ کا موضوع ایک ازلی اور ابدی داستان ہے۔ اس کے ہیر و امام حسین ہیں، جو سراپا انسانی خصوصیات کے حامل ہیں اس لیے ان کے اعمال کا جواہر ہوتا ہے، وہ دلوں کو خیالی پیکروں سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ سوائے حق کے کوئی چیز حسین نہیں ہو سکتی تو مرشیہ سے بہتر کوئی صنف نظر نہیں آتی۔ محبت اور محبوب کی غیر دائی جدائی سے غزلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن ہمیشہ کی جدائی کسی قدر دلوں کو متاثر کرتی ہے، نہ کہ ایسی شخصیت جو حق پرستی اور انسانی اور الہی خصوصیات کی حامل ہو۔ شجاعت، سخاوت، عدل و انصاف، ہمدردی، حق پرستی اور راست گوئی ان کے ہر عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ مرشیہ میں جو تصویریں امام حسین کی دکھانی گئی ہیں وہ شخصی ہوتے ہوئے بھی الہی فطرت کا مظہر بن جاتی ہیں۔ کہیں کہیں جلوہ امام حسین فطرت سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔

صحح صادق کا ہوا جرخ پہ جس وقت ظہور زمزے کرنے لگے یادِ الہی میں طیور مثل خورشید ہر آمد ہوئے نیموں سے حضور یک بیک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور

شش جہت میں ریخ مولائے ظہور حق تھا

صحح کا ذکر ہے کیا چاند کا چہرہ فن تھا

ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوا کیں، وہ بیباں وہ سحر دم بد جھومتے تھے دجد کے عالم میں شجر

اوں نے فرش زمرد پہ بچھائے تھے گھر لوٹی جاتی تھی لپکتے ہوئے بزرے پ نظر

دشت میں جھوم کے جب باد صبا آتی تھی

صف غنچوں کے چلنے کی صدا آتی تھی (میرانیس)

شاعر تمام تخلیقات، کائنات کی ہرشے میں حسن اور حسن کے کسی نہ کسی پہلو کو پاتا اور  
محسوں کرتا ہے۔ حسن سے انبساط حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن خدا ہے، خالق  
ہے، حسن خدا ہے اور خدا حسن، ہرشے میں اسی کی تصویر نظر آتی ہے۔ مرثیہ گو کربلا کے ایسے کا  
درد سینے میں لیے رہتا ہے اور منفی القدار سے گریز کرتا ہے۔ وہ حسن کائنات پر بھی نظر رکھتا  
ہے، زندگی کے حسن پر بھی اس کی نظر ہوتی ہے۔ اور افراد کے حسن کو بھی بیان کرتا ہے۔ واقعہ  
کربلا میں اعلیٰ اور افضل القدار کے حسن پر بھی نظر رکھتا ہے۔ حسین ابن علیؑ کی ذات اس کا  
مرکز ہے اور ان کا ہر عمل زندگی کے حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ کربلا کے موضوع میں جو معنی خیزی  
ہے، وہ حسن کے احساس کی دین ہے۔

چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا

گذری شب فراق دن آیا وصال کا (میرانیس)

مرثیہ گو کربلا جیسے ایسے کو، زندگی اور موت کے فلسفے کو اور ایسی پر عظمت شخصیتوں پر اظہارِ خیال  
کرتے ہوئے حسن کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔

### مرثیہ اور پیکر

الفاظ کے ذریعے کسی جاد، متحرک، مرئی یا غیر مرئی شے کی تصویر بنا، پیکر تراشی  
کہلاتا ہے۔ اس سے قطع نظر پیکر تراشی ہی شاعری کا دوسرا نام ہے یا نہیں، شاعری میں  
پیکر تراشی کی اہمیت سے انکار کرنا مشکل ہے۔ اردو مرثیہ کی بنیاد تاریخی واقعہ پر قائم ہے اور  
اس کے کردار مذہبی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اپنی جدا گانہ خصوصیات کے مالک ہیں۔ ان کی جو  
امیج عوام کے ذہنوں میں محفوظ ہے مرثیہ نگار ان سے انحراف نہیں کر سکتا، پھر بھی ان کی  
تصویر یہ اصل تصویروں سے کسی حد تک ملتی ہیں۔ اور سماجی حالات نے اس میں کس قدر رنگ  
آمیزی کی ہے، اس کا مطالعہ بھی پیکر تراشی کے باب میں کیا جاسکتا ہے۔ پھر مختلف مقامات پر  
حسینؑ اور ان کے رفقاء کی تصویر یہی مرثیوں میں اس قدر ملتی ہیں، جس کا ذکر ایک مستقل کتاب  
کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ اس کے علاوہ غالف گروہ کی تصویر یہی اور ان کے احساس بخست  
کی تصویر یہی بھی جا بجا دیکھی جاسکتی ہیں۔ میرانیس کے کلام سے چند مشاہیں ملاحظہ ہوں۔

پاؤں ہر بار کابوں سے نکل جاتے ہیں  
یا علیٰ کہتی ہیں نسب تو منجل جاتے ہیں



بala قد و کلفت و تنومند و خیرہ سر	روئیں تن و سیاہ دروں آہنی کر
ناوک پیام مرگ کے ترکش اجل کا گھر	تغییں ہزار ٹوٹ گئیں جن پہ وہ پس
دل میں بدی طبیعت بد میں بگاڑھا	
گھوڑے پہ تھاشتی کہ ہوا پر سوار تھا	
اس سوچ میں پھرتی تھی سراسیمہ و مضطرب	اس کا بھی نہ تھا ہوش کہ کب گرائی چادر
رخ زرد تھا دل کا نپتا تھا سینے کے اندر	وہڑ کا تھا کہاب کیا کہیں گے آن کے سرور
یارب نہ سنوں میں کہ جدا ہو گئے عباش	
یہ غل ہو کہ بھائی پہ فدا ہو گئے عباش	(انیں)
میرا نیں نے واقعات کی تصویر کشی اور احساسات کی تشکیل اس قدر مہارت سے کی	
ہے کہ بے جان چیزوں میں جان ڈال دی ہے اور وہ مناظر جن کا تعلق احساس سے تھا، لفظوں	
میں اتار دیا ہے۔	

بلبلوں کی وہ صدائیں وہ گلوں کی خوشبو	دل کو الجھاتے تھے سنبل کے وہ پرخم گیسو
قریاں کہتی تھیں شمشاد پہ یا ہو یا ہو	فاختہ کی یہ صدا سرو پہ تھی کو، کو، کو
وقت تسبیح تھا اور عشق کا دم بھرتے تھے	
اپنے محبوب کی سب حمد و شکر تے تھے	
مرزا اونج کے یہاں بھی اس طرح کی مثالیں ڈھونڈھی جاسکتی ہیں۔	
پوکے پھٹتے ہی ہوا دشت میں اک عالم نور	ذرے ذرے سے ہوا جلوہ قدرت کا ظہور
سن کے آوازہ تسبیح امام جہور	حمد حق پر ہوئے مصروف درختوں پہ طیور
جنہ نہ خوش لجن تھے منقار تھے کھولے وہ بھی	
دل پھر کرنے لگا اس طرح سے بولے وہ بھی	

جدید مرشیہ میں تو واقعات کا مسلسل بیان بھی نہیں ہوتا، بلکہ اکثر موضوعاتی مرثیوں میں علامتوں اور پیکروں کے سہارے کردار کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ کردار کے پیکر جو ابھارے جاتے ہیں، کچھ تو قدیم مرشیہ نگاروں کے بنائے ہوئے ہیں اور کچھ سماجی ضرورتوں کے پیش نظر وضع کیے گئے ہیں۔

ڈاکٹر سید طاہر کاظمی لکھتے ہیں :

”در اصل دور جدید کا مرشیہ گو واقعات کر بلا سے سید ہے یا علامتی انداز میں سرفوشان اسلام کے کارناموں کے پیش نظر، عام انسانی صفات یا اس میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، اس کے عمل میں ضمنی طور پر کربلا کی عظیم شخصیتوں کا روحاںی وقار اور اقدار نمودہ بتا ہے..... لیکن کربلا کے مختلف کرداروں کی سیرت اور ان کا طرز زندگی اور عمل باقاعدہ روزمرہ زندگی کے پیرائے میں قاری یا سامع کے سامنے نہیں آتا۔<sup>1</sup>

بھولے بھالے وہ کئی روز کے پیاسے بچے تری آنکھوں میں گڑھے، ہاتھوں میں خالی کونزے پاس بستے ہوئے دریا کی صدائیں سن کے دیکھنا چاہئے والوں کی طرف حضرت سے کہتی تھی برصغیر ہوئی تشنہ دہانی مانگو  
شرم کہتی تھی، کہ مر جاؤ نہ پانی مانگو (آل رضا)



آنکھیں انگلوں سے ہیں نہ روح حریز قلب اس بال چہرے پر پریشان ہیں مگر جمع حواس ہاتھ میں نیزہ نظری لیے باحالت یاں کبھی اس لاش کے پاس لونکھی اس لاش کے پاس کبھی خیسے میں ہیں عابد کی چٹائی کے قریب کبھی عباش کے لاشے پر تراہی کے قریب (جبیل مظہری)



<sup>1</sup> ”مرشیہ بعد ایں“: ڈاکٹر سید طاہر حسین کاظمی، ص 106

عباس کو یہ سن کے جری ہیں غیور ہیں      طوفانِ اٹھ کے دیکھتے ہیں کتنی دور ہیں  
گیسو حسین زخم پر جانب پڑے ہوئے      جیسے درِ حرم میں پیغمبر کھڑے ہوئے



### مرشیہ کی نفیات

شعر کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بار بار دہراتے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔  
مرشیہ بھی بار بار دہراتے جاتے ہیں، لیکن اس کی مقبولیت میں آج تک کمی نہیں ہوئی۔ گذشتہ  
پانچ سو سالوں سے مرشیہ پڑھے اور سنے جا رہے ہیں۔ اصل واقعہ تو وہی ہے، لیکن انسان کی  
پوری زندگی مرشیہ کے ظرف میں سمائی ہوئی ہے۔ اعلیٰ انسانی قدروں کی بدولت مرثیوں میں  
آج بھی زندگی پائی جاتی ہے۔ انسان فطرتاً بھلائی کی طرف مائل ہوتا ہے یہ بات الگ ہے کہ  
باہری طاقتیں اسے کسی دوسری سمت لے جائیں، لیکن فطرتاً وہ کسی کردار کو ظلم کا شکار دیکھ کر اس  
کی ہمدردی میں آنسو بہاتا ہے اور طالبین سے بے زاری اختیار کرتا ہے۔ کلیم الدین احمد کا  
خیال ہے کہ: ”مرشیہ گوندہ ہی جذبے سے کچھ اس طرح لا چار ہوتا ہے کہ غیر جانبِ دارانہ طور  
پر واقعہ نگاری کرنا اس کے بس کی بات نہیں..... اس لیے اس کی باتوں میں وہ امکن نہیں جو  
کسی غیر جانبِ دار شخص کے بیان میں ہوتا ہے<sup>۱</sup>۔“ حالانکہ خیر و شر کے تصادم کے دوزان کوئی  
شخص غیر جانبِ دار کس طرح رہ سکتا ہے۔ یہاں یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی فن کاراپنی شخصیت سے  
بالکل الگ ہو جائے۔ دراصل واقعہ کی نوعیت، سماجی عناصر اور شاعر کی نفیات مل کر ایک  
وحدت بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرشیہ کے کرداروں میں اعلیٰ انسانی خصوصیات کو دیکھ کر اکثر  
ناقدین کرداروں کی یکسانیت کی شکایت کرتے ہیں۔ ”ڈاکٹر احسن فاروقی<sup>۲</sup>“ کا خیال ہے کہ  
مرثیوں میں مدح سراہی میں کوئی تنوع نہیں۔ امام حسینؑ کی جو تعریف ہو سکتی ہے، وہی حضرت  
عباسؑ کی بھی ہو سکتی ہے جو تعریف حضرت علیؑ اکبری ہو سکتی ہے وہی حضرت قاسمؑ کی ہو سکتی  
ہے۔ کچھ اسی طرح اسی بات مشکل الرحمن فاروقی نے بھی کہی ہے:

<sup>۱</sup> ”اردو شاعری پر ایک نظر“، حصہ اول، کلیم الدین احمد۔ ص 482

<sup>۲</sup> ”مرشیہ نگاری اور میراث“: ڈاکٹر احسن فاروقی

”میر انیس کے مرثیے میں ہزار و سوت سہی، لیکن اتنی  
و سوت سہ تھی (اور نہ ان کا موضوع اس قسم کی و سوت کا متحمل ہو سکتا  
تھا) کہ وہ اپنے کرداروں کو ڈرامے یا ناول کے کردار کی طرح نوکر  
دکھائیں، ان کی پیچ در پیچ ذہنی واردات کا تذکرہ کریں، اس طرح  
ایک کو دوسرے سے فرق کریں۔“<sup>۱</sup>

ڈاکٹر احسن فاروقی اور شمس الرحمن فاروقی کے خیالات سے اتفاق کرنا  
مشکل ہوا جاتا ہے کیوں کہ مرثیوں کے عین مطابعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے  
کہ مرثیوں کے کرداروں میں عام انسانی خصوصیات تو بدرجہ اتم موجود ہیں، لیکن  
ان میں درجات کی بلندی کے اعتبار سے ان کے محاسن متفرق دکھائے گئے ہیں۔  
اکثر ناقدین ڈرامہ کے اصولوں کے پیش نظریہ بات کہتے ہیں۔ شاید وہ کرداروں  
کی کمزوریوں کے متلاشی ہوتے ہیں، جہاں ہیرداپی ہی کسی کمزوری کے باعث  
الیہ کا شکار ہوتا ہے۔

واقعات کر بلاتار بخی کتابوں اور مقالیں سے لیے گئے ہیں۔ ان میں اشخاص کی  
خصوصیات کے ساتھ ساتھ، گفتگو اور مکالمے بھی مل جاتے ہیں۔ جس سے ان لوگوں کے  
بارے میں ایک تصور قائم ہوتا ہے اور ان کرداروں کے پیکر ہیں میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔  
مرثیہ نگار اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ لیکن مختلف ادوار میں مرثیوں میں اہل بیت کی جو  
تصویریں ثابت ہیں، وہ ان تصویریوں سے کتنی مطابقت رکھتی ہیں، اس سلسلے میں ابھی کام ہونا باقی  
ہے۔



<sup>1</sup> ”شعر غیر شعر اور نثر“، شمس الرحمن فاروقی



## ۲- ہیئت اور موضوع کے چند ابتدائی نقوش

اردو شاعری فارسی کے طرز پر ڈھالی گئی اور فارسی شاعری کا مأخذ اور نقش اولین عربی شاعری ہے۔ اس طرح اردو مرثیہ کی تاریخ عربی مرثیہ سے جاتی ہے۔ عرب میں شاعری کا آغاز فخریہ نظموں سے ہوا جس کی ایک صورت مرثیہ ہے۔ ان مرثیوں میں تمہید اور تشیب نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے رنج و غم، صدمہ اور درد دل کا اظہار کرتے تھے اور مرنے والے کے اوصاف بیان کرتے تھے۔ ان مرثیوں میں واقعات اور جذبات، طرز بیان، درد و تاثیر، جو کچھ قہابا لکل اصلی، فطری، صاف اور سچا تھا۔ عربی کے قدیم مرثیے قصیدے کے روپ میں لکھے جاتے تھے۔ عرب کی شاعرہ عورتوں میں خسا کے مرثیے بہت مشہور ہیں۔ چونکہ میرا موضوع کر بلائی مرثیہ ہے اس لیے واقعہ کر بلا سے متعلق مرثیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عرب میں واقعہ کر بلا سے متعلق مرثیے شاذ و نادر ہیں۔ وہ بنی امیر کا عہد تھا۔ حکومت کے خوف سے عام طور پر لوگ اپنے جذبات کا اظہار نہ کر سکے ہوں گے۔ پھر بھی تاریخ میں کچھ مرثیے محفوظ رہ گئے ہیں۔ علی جواد زیدی لے لکھتے ہیں، ”کہ غالباً پہلا مرثیہ بشیر نے لکھا۔ اس کے علاوہ فرزدق کے مرثیے بھی مشہور ہیں۔ ابتدائی مرثیوں میں حضرت نبی نب و ام کلثوم کے علاوہ نعمان بن بشیر کے مراثی تاریخ میں محفوظ رہ گئے ہیں۔ ان کی درد انگیزی مسلم ہے۔ شیخ شوستری نے امام حسین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حسین عاشورہ کے دن چھ بار روئے۔ آخری بار وہ اس وقت روئے جب ان کی صاحب زادی سکینہ اپنا چہرہ باپ کے پاؤں پر رکھ کر زار و قطار روئے لگیں۔ یہ منظر بڑا ہی دل خراش تھا۔ حسین نے بیٹی کو گود میں لے لیا، دست شفقت سے سکینہ کے چہرے اور سر کو سہلاتے رہے اور ایک شعر پڑھا۔

۱۔ ”مرثیے کی ہیئت“ علی جواد زیدی، اعلمنامہ: مرثیہ نمبر۔

لاتحرفى قلبى بدمك حسرة  
مادام منى الروح فى جسمانى  
(اے میری بیٹی اپنے آنسوؤں سے میرے دل کی آگ تیز نہ کر کہ میں ابھی زندہ  
ہوں)

بیشراور فرزدق کے علاوه عبدالخراجی نے ایک طویل مرثیہ لکھا، جو امام علی رضا کے  
حضور پڑھا گیا۔ ساخت کر بلے متعلق سب سے پہلا مرثیہ جس کو ایران میں غیر معمولی شہرت  
حاصل ہوئی وہ شیخ آذری کا کہا ہوا ہے । ایران میں مرثیہ گوئی کا عام رواج صفویوں کے عہد  
میں ہوا۔ صفوی خاندان کے بانی شاہ اسماعیل کے عہد میں ملا حسین واعظ کاشفی نے مجلس عزا  
پڑھنے کے لیے ”روضۃ الشہداء“ لکھی جو بے حد مقبول ہوئی۔ بعض لوگوں نے اس کا پڑھنا پڑا  
پیشہ بنالیا اور یہ لوگ روضہ خال کھلاتے تھے۔ شاہ اسماعیل کے بعد طهماسب کے عہد کا مشہور  
مرثیہ ”مختشم“ کا شی ہے۔ مختشم کا مشہور مرثیہ ایک ترکیب بند نظم ہے، جس میں آٹھ آٹھ شعروں  
کے بارہ بند ہیں۔ اسی سبب سے عام طور پر یہ مرثیہ ”دوازدہ بند“ کے نام سے مشہور ہے۔ مختشم  
کے بعد قبل نے مرثیے لکھے اور ایران میں مرثیہ گوشاعر کی حیثیت سے مشہور ہوا۔ انھوں نے  
سب سے بڑا کام یہ کیا کہ کربلا کے تمام واقعات ابتداء سفر سے الہ حرم کے قید ہونے اور  
رہائی پا کر مدنیے آنے تک نظم کر دیے۔ انھوں نے قصیدہ اور ترکیب بند یا ترجیع بند وغیرہ  
عروضی شکلوں کے بجائے مثنوی کی بیت کو اپنایا۔ اس طرح فارسی میں پہلی بار ایک طویل رثائی  
نظم وجود میں آئی۔ اس کے ساتھ ایران ہی میں دوسرے رثائی اشکال جیسے نوحہ اور پیش خوانی  
وغیرہ کی بنیاد پڑی۔



۱۔ ”ایران میں مرثیہ گوئی“: مسعود حسن رضوی، ص 123 (پیام اسوم)

## پاپ دوم

ہندوستان میں اردو مرشی کا ارتقا



(۱)

## دکن میں اردو مرثیے کا ارتقا

دنیا کے سبھی ملکوں اور زبانوں میں رعنائی ادب کی روایت رہی ہے۔ ہندوستانی ادب میں مرثیے جیسی کوئی صنف نظر نہیں آتی لیکن کرونا (درد) رس کو ایک مستقل جذبے کے تحت تسلیم کیا گیا ہے اور ولادپ اور مین کی روایتیں عام طور پر اور راماین تک میں موجود ہیں۔ ہندوستان میں لکھنے جانے والے مرثیوں میں ان روایات کا شامل ہونا فطری تھا۔ علی جواد زیدی فرماتے ہیں۔ ” غالباً یہی سبب ہے کہ اگرچہ اردو مرثیہ عربی اور فارسی اور کسی قدر تر کی مراثی کی تاسی میں شروع ہوا، لیکن اس صنف میں ہندوستانی شاعروں نے ایسی ایسی جدتیں کیں کہ یہ صنف عربی اور فارسی مرثیے سے کسی نہ کسی حد تک مختلف ہو گئی۔“<sup>1</sup> لشاید یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر احسن فاروقی<sup>2</sup> نے اسے غیر تقليدی صفتِ خن کہہ دیا ہے۔ حالانکہ یہ جدتیں عہد بے عہد، علاقہ بے علاقہ اور زبان بے زبان ہوتی رہتی ہیں۔ علی جواد زیدی لکھتے ہیں۔ ”مرثیے کی ہیئت اور عمومی فضای میں تبدلیوں کے لیے مرثیہ گویوں نے خام مواد، یا تو لوک ادب سے لیا یا غزل، قصیدہ اور مشنوی جیسے مقبول اصناف سے۔ مرثیوں میں رزم، بزم اور مین تینوں عناصر کا بیک وقت جمع ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے۔ ان عناصر کے میل سے ہندوستان کی مختلف زبانوں، بالخصوص اردو زبان میں ایک ایسی صنف مرثیہ ابھری جس کے متوازی کوئی دوسرا

1 ”دہلوی مرثیہ گو“، جلد اول، علی جواد زیدی، ج 10

2 ”مرثیہ نگاری اور میراثیں“، خواجہ احسن فاروقی۔

صنف کی بیرونی زبان میں نہیں ملے گی۔ ہندوستانی زبانوں میں مرثیہ اپنی ہیئت اور اکتساب کے اعتبار سے اپنا جواب نہیں رکھتی۔<sup>1</sup>

اردو مرثیے کے اولین نمونے ہم کو دکن میں ملتے ہیں۔ یہ عموماً قصیدے کے روپ میں ہیں، لیکن مختصر ہیں، اس لیے انہیں قصیدے کے ذمیل میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ اصل میں قصیدہ ہی اصل صنفِ خن تھا۔ اس سانچے میں غزل، بھجو، رثاء سب ڈھل جاتے تھے، اسی لیے عربی میں ہر موضوع کی شاعری قصیدے کے آہنگ سے متاثر ہوئی اور مرثیہ بھی اس سے نفع سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے عناصر ترکیبی میں بنیادی اجزاء مرح، فخر، حماسہ پر غم کی ہلکی سی چادر اڑ جادی جاتی تھی۔ جب نسیب نگاری کا دور آیا تو تغول بھی مرثیہ میں داخل ہوا۔ اس سلسلے میں امیہ بن الجلبات کا وہ مرثیہ نمایاں ہے، جو اس نے ان اعزہ اور رفیقان قریش کے بارے میں لکھا تھا جو بدر میں مارے گئے تھے۔ فارسی میں مشنوی کے اتباع میں واقع نگاری کا عضر بڑھا مگر مقبول نہ ہوا۔ فارسی اور عربی کی ملی جعلی روایت ہندوستان میں آئی اور اردو نے اپنائی۔

اردو کا ابتدائی مرثیہ سبتاً کتر ہاتھوں میں رہا۔ یہ ابتدائی مرثیہ گو عقیدت مند مسلمان تھے، جنہیں رسول کریم اور ان کی آل سے بے پناہ محبت تھی۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی امام حسین کی شہادت انہیں رلا رہی تھی۔ علی جواد زیدی لکھتے ہیں: ”ہندوستانی بھتی کی عام فضائیں گداز کی ہوئی ذہنتیں اتنی جاری و ساری تھیں اور ہندوستان میں انسانی رواداری اور غم گساری اتنی عام تھی کہ واقعہ کر بل اعام ہندوستانیوں کی توجیہات کا مرکز بن گیا۔“<sup>2</sup>

شاعری میں ہیئت کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ تحریکے کو سامنے لانے کا وسیلہ ہے۔ ایلیٹ کے خیال کے مطابق ہر لفظ اپنی پرچھائیاں رکھتا ہے، جس کے پنجے دسرے الفاظ کی پرچھائیوں کی طرف لپکتے ہیں۔ شاعری کی ابتدائی منزوں میں خیالات و جذبات کا مرکب اتنا چیچیدہ نہیں ہوتا، بلکہ سیدھے سادے انداز میں جذبات پیش کیے جاتے

<sup>1</sup> ”دہلوی مرثیہ گو“، جلد اول، علی جواد زیدی، ص 10  
<sup>2</sup> ”مرثیے کی ہیئت“: علی جواد زیدی، مشمولہ ”علم“، مرثیہ نمبر۔

ہیں۔ موضوع سماجی اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں اور زبان موضوع کے اعتبار سے بدلتی ہے۔ ابتدائی مرتبے جو مخلوط مجھ کے لیے لکھے گئے، ان میں وہ کردار اور واقعات زیادہ توجہ کے مستحق قرار پائے، جو جذبات آفی اور محسوسات انسانی کو زیادہ متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ مثلاً نوجوان بچوں عوں و محمد کا حق کی حمایت میں جہاد کرنا، بہن کا بھائی کی محبت میں بیٹوں کو شمار کر دینا، عباش کی شجاعت اور فاداری، ایک رات کے بیانے قائم کامرنے پر کمر کسنا، اکبر جیسے جوان کا باپ کی آنکھوں کے سامنے برچھی کا پھل کھانا، دودھ پیتے بچے کے لگلے پر تیر لگنا، یہ واقعات قدیم مرثیہ نگاروں سے لے کر بعد کے مرثیہ نگاروں تک کے محبوب موضوعات تھے۔ ان پر تاریخی یا واقعی انداز سے کم، انسانی ساخنوں کی حیثیت سے زیادہ توجہ دی گئی۔ یہیہ حصے پڑھتے وقت اس واقعہ کا مذہبی پہلو دب جاتا ہے اور نفسیاتی، آفی اور انسانی پہلو ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب و ملت کے لوگوں کو ان مراٹی میں ایک روحانی اور اخلاقی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔

### قلی قطب شاہ، وجہی، نوری

دکن میں عزاداری کی ابتداء سلطنت بہمنیہ کے عہد سے کی جاتی ہے۔ ایران سے ہندوستان کے تعلقات بہت قدیم ہیں۔ ایرانی علماء کی خاصی تعداد دکن میں سکونت پذیر تھی۔ اکثر یہمنی حکمران اشناشری عقائد کے حامل تھے۔ یہمنی معاشرت میں ایرانی اثرات نمایاں تھے۔ طرزِ تعمیر، زبان، علم و ادب اور تمدن کے مختلف شعبوں میں بھی اثرات کی چھاپ دیکھی جاسکتی ہے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس دور میں مرثیہ گوئی کی مغلیں منعقد کی جاتی ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردو کا پہلا مرثیہ نگار کے قرار دیا جائے؟ نصیر الدین ہاشمی نے ”نوسرہاڑ“<sup>1</sup> کے مصنف اشرف کوارڈ کا پہلا مرثیہ گوئی کو قرار دیا ہے۔ سچ ازماں اور شید موسوی دونوں کا یہ خیال ہے کہ مرثیہ اور شہادت نامہ دو الگ الگ اصناف ہیں۔ شہادت نامے ایک وسیع تجویز کے تحت مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشتوی اس کے لیے مخصوص ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں مرثیہ مختصر اور قصیدے کے روپ میں لکھے جاتے تھے۔ بعد میں ”دکن میں اردو“، نصیر الدین ہاشمی ص 184-185۔

مثلث، مرینج، مخس اور حال میں مسدس کے روپ میں لکھے جانے لگے۔ اس لیے ہائی کی رائے سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا۔ ”نوسراہار“ نو ابواب پر مشتمل ہے۔ جس میں واقعات کر بلہ نظم کیے گئے ہیں۔

دکن میں مریمیے کے اوپر نہ نہیں ہم کو وجہی اور قلی قطب شاہ (1565-1620ء) کے بیہاں ملتے ہیں۔ رشید موسوی نے اس سے بھی قدیم برہان الدین جامن کو پہلا مریمیہ گوقرار دینا چاہا ہے، اس کے بعد وجہی کو جامن اور وجہی کا ایک ایک مریمیہ دستیاب ہو سکا ہے۔ جامن، وجہی اور محمد قلی قطب کے مرثیوں کا تقریباً ایک ہی انداز ہے۔ ان کے مریمیے غزل یا قصیدے کی شکل میں اختصار کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ ان مرثیوں میں واقعہ کر بلکہ طرف اشارے کیے گئے ہیں۔ قلی قطب شاہ کے بیہاں زور بیان نسبتازیادہ ہے۔

وجہی کا مریمیہ ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔

حسین کا غم کرو عزیزان انجوں نین سوں جھزو عزیزان  
نا جو اول ہے غم کا عرش گنگن ہور دہرت ہلایا  
قضا میں جوں جوں لکھیا ابھی گریا حسین پر ادھی سایا  
نیاں ولیاں کے انجوں ہوں لکڑے یوں غمِ حسین کا جنم دھولا یا  
دلائ میں دو گنی چھوہ نے پٹکیاں یو غم نے سلاک ابرک لگایا  
یو کیا ملا تھا یو کیا جفا تھا مگر قضا تھا سو حق دکھایا  
محبت دلائ کوں اجل کا ساقی پیالہ غم کے سو بھر پلایا  
یو کیا اندیشہ اندیش کیجا فلک شہاں پر ستم خدایا  
حسین پو یاران درود بھیجو کہ دین کا یو دیوا جلایا  
تمھارے وجہی کوں یاں اماماں نہیں تمن بن یو اس کو سایا  
محمد قلی کے کلیات میں کچھ مریمیے، نوچے اور سلام بھی شامل ہیں۔ یہ مریمیے غزل کے روپ میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سوز و گداز کا پہلو نہیاں ہے۔ محمد قلی کے مریمیے کے چند شعر نقل کیے جاتے ہیں۔

لہور و تی ہیں بی بی فاطمہ آپنے حسیناں تیئں  
کیا ہے مہانی یوں اماماں کا محروم توں  
مسلماناں کوں نہیں ہے اس برکوں ملا جگ میں  
کہ ان جوان کے لہو سیتی پیا لے بھر پلایا ہے  
کیے ہیں مومناں کسوٹ حسن کے زہر تھے ہریا  
سواں کے چھاؤں تھے اماں اپنارنگ بھریا۔ ہے ۱  
وجہی اور محمد قلی کے علاوہ اس دورے شعراء غواصی اور محمد قطب شاہ کے جاشین عبد اللہ  
قطب شاہ نے بھی مرثیے لکھے ہیں۔ یہ مرثیے مواد اور بیت کی طایا میں محمد قلی اور وجہی کے  
مرثیوں سے مختلف نہیں ہیں۔ افسوس کا ب تک کوئی ایسی کتاب نظر نہیں آئی جو دکنی مرثیوں  
کے عروضی، بیکی ترکیب اور قنی ارتقا پر روشی ڈال سکے۔ گولکنڈہ میں مرثیہ نگاری کا سب سے  
اہم دور آخری حکمران ابو الحسن کا ہے۔ اس کے زمانے میں دکن پر دہلی شاہی حکومت کا دباؤ  
بڑھ گیا۔ اور عادل شاہیوں کے خاتمے کے بعد گولکنڈہ کے حکمران بے اطمینانی کی زندگی گذار  
رہے تھے۔ جس کا اثر شعروادب پر بھی پڑا۔ رئیس اور حکمران اپنی اپنی فکر میں پڑے تھے اس  
لیے شعراء متصوفانہ اور نہیں اور تصنیف میں اپنی صلاحیتیں صرف کرنے لگے۔

اس عہد کے مرثیہ نگاروں میں سیوک، فائز، نوری، افضل، کاظم اور شاہی وغیرہ  
شامل ہیں۔ سیوک، فائز، لطیف اور نوری نے مرثیہ پر خاص توجہ کی لیکن ان میں کوئی نئی بات  
نہیں آنے پائی۔ ان کے مقابلے میں افضل، کاظم اور شاہی کے مرثیوں میں ہم کو کچھ اجزاء  
نئے ملتے ہیں۔ ان شعراء نے مرلن اور مجس کی شکل میں مرثیے لکھے۔

یہ مرلن اور مجس تسبیط کے اصولوں کے پابند ہیں۔ یعنی ان میں ہر بند کے چوتھے یا  
پانچویں مصرع مطلع کے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اس شکل میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی جاتی  
ہے۔ وہ اس طرح کے مجس کا آخری مصرع جو ثیپ کہلاتا ہے ایک ہی ہوتا ہے جسے ہر چار  
مصرعوں کے بعد ہرایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر افضل کے مرثیے کے دو بند تھے جاتے ہیں۔  
حسین کا دلبڑ و دلدار قاسم حسین کا مونس و غم خوار قاسم  
کشیدہ رنج و غم بسیار قاسم جہاں سون دیدہ خوببار قاسم

۱۔ "سلطان محمد قطب شاہ"؛ سید علی الدین قادری زور مص 452۔

گیا از بدعت کفار قائم  
 زمین اس غم سوں ہے درجشِ افضل فلک در دید نیل پوش افضل  
 ملاٹک سب ہوئے بے ہوش افضل کنول زین داستان پوش افضل  
 گیا از بدعت کفار قائم  
 شاہی نے بھی اسی طرح کے مرثیے لکھے:-

بجاپور میں عادل شاہی خاندان ان کے نوبادشاہوں نے تقریباً دو سو سال تک حکومت  
 کی۔ ان حکمرانوں کی سرپرستی میں اردو زبان و ادب کی بھی ترقی ہوئی لیکن بقول رشید موسوی:

”ابتدائی چار حکمرانوں یعنی یوسف عادل شاہ  
 سے لے کر علی عادل شاہ اول کے زمانہ تک  
 برهان الدین جامن کے ایک مرثیے کے سوا ہم  
 کو کوئی معلومات حاصل نہیں ہوئیں..... اب  
 تک کی تحقیق کے مطابق دکن میں برهان  
 الدین جامن نے سب سے پہلے مرثیہ لکھا“ ۱

برہان الدین جامن کے مرثیے کے تین نسخے ملتے ہیں۔ ادارہ ادبیات خلوط نمبر  
 157 سے جامن کے مرثیے کے چند اشعار نقل کیے جاتے ہیں ۔

محرم کا چاند پھر گہن پے لے ماقم ہوا پیدا      محاب کے دلاں میں سب شہاں کاغم ہوا پیدا  
 دوکھی مجھ جب بیان کل وحدت میں آنے      علم اس جگ کوں دیکھانے صفائی آدم ہوا پیدا  
 علی عادل شاہ اول کے جانشین ابراہیم ثانی (1580-1627) کے زمانے میں اردو ادب کو  
 بجاپور میں بہت فروغ حاصل ہوا۔ ایرانی اثرات کے درمیان ابھرتی ہوئی اردو زبان کا دباؤ  
 بھی بہت بڑھنے لگا تھا۔ ابراہیم ثانی کی دلچسپی کی وجہ سے شاہی دفتر کا کام جو فارسی میں ہونے لگا  
 تھا، مقامی زبان میں منتقل کر دیا گیا۔

ابراہیم ثانی کے دربار کے شاعر نوری نے بھی مرثیے کے چند نمونے چھوڑے

۱ ”دکن میں مرثیہ گوئی“ رشید موسوی ص 62

ہیں۔ مثال ملاحظہ ہو۔

کوئی نظم اس میں تو کرتا نہ تھا  
دے سب لعب دیا ہم، مٹا  
نہ کچھ خوف کھایا نہ جھجھکا ذرا  
وہم مریئے سے پہل کر دیا  
شروع میں کیا نظم کل واقعات  
وہم تک احوال پورا کیا  
میں جب اس کو لوگوں کے آگے پڑھا  
عجب حال عاشور خانہ میں تھا  
جن و انس کرتے تھے سب واہ واہ  
دھنی میں لکھا ہے کیا مریئہ  
زبان اپنی میں کس سے پہلے سنانے پڑھا  
اما مان سے اس کا ملے گا صد  
کہ نوری ہے موجد اسی طرز کا ۱  
محمد کا جائشِ علیٰ ثانی (1657-1617) اردو کا اچھا شاعر تھا۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے  
شاعر جیسے نصرتی، قادر اور ایاغی موجود تھے۔ اس زمانے میں مریئے کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔  
مشہور مریئہ گو شاعر مرزا اسی زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔

### مرزا

اپنے زمانے میں مرزا کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ ادارہ ادبیات اردو کے  
منظومات میں بھی مرزا کے کچھ مریئے ہیں اور اڈنبریا یونیورسٹی کے کتب خانہ میں بھی ایک  
بیاض میں مرزا کے کچھ مریئے ہیں۔ سُجَّ الزَّمَانَ لکھتے ہیں۔

”ان مرثیوں کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ  
مرزا میں رزمیہ لکھنے کی اچھی صلاحیت تھی۔“<sup>2</sup>

ان کے کلام میں شان و شوکت بھی ہے اور روانی اور بلند آنکھی بھی۔ اس کے ارد گرد  
عز اداری کے مختلف طریقے اس کے تقلیل کو مفاد فراہم کرتے تھے اور موضوع سے اس کا خلوص  
اسے ایسے ڈھنی تجربے سے گذارتا تھا کہ وہ اپنے تصور کی آنکھوں سے واقعہ کر بلکہ دیکھتا اور  
اس میں بیانات کے لیے نئے نئے پہلو پیش کرتا تھا۔

۱۔ ”دکن میں مریئہ گوئی“، رشید موسوی ص 65۔

۲۔ ”اردو مریئے کا ارتقا“، سُجَّ الزَّمَانَ، ص 63۔

ان کے مرثیوں کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا تسلسل ہے۔ جب وہ کسی ایک شہید کا بیان کرتے ہیں تو اس سلسلے سے اس کے بارے میں مختلف واقعات کو بیان کرتے جاتے ہیں۔ مثلاً جناب قاسمؑ کے حال میں ان کا ایک مرثیہ اس طرح شروع ہوتا ہے۔

کہوں تھے شجاعت کا سو قاسمؑ کی شہادت کا  
بیڈیاں کی عداوت کا کرو زاری مسلمانوں

اس مرثیے میں انھوں نے جناب قاسمؑ کے رخصت ہونے کا حال تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کس طرح وہ اپنے بازو پر بند ہے تھویز دکھا کر امام حسنؑ کی وصیت کے مطابق رخصت طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد جناب قاسمؑ کو دولھا بنانے اور رخصت کا حال بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ان کی آمد و رجز، پھر ارزق کے چار بیٹوں اور ارزق سے لڑائی کا بیان ہے۔ اس کے بعد شہادت کا حال بیان کیا ہے۔ ارزق اور عمر سعدؑ کی گفتگو کا یہ انداز ملاحظہ ہے۔

ارزق نے عمر کے تین ہزاروں نجح مقابل نہیں  
سو کیوں جاؤں یکس پر میں کرو زاری مسلمانوں

☆

یوں مرزا عمر ڈر سوں کیا یو بات ارزق کوں  
نہ دیکھے یو ہل ان کوں توں کرو زاری مسلمانوں  
اس میں ہر بند کا چوچھا مصرع، ”کرو زاری مسلمانوں“ ہر جگہ مناسب نہیں معلوم ہوتا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرثیہ خوانی میں آخری مصرع مرثیہ خوان کے بازو دہرا یا کرتے تھے۔ مرزا کا ایک مرثیہ حضرت علی اصغرؓ کے حال کا ہے۔ اس میں بھی ”کرو زاری مسلمانوں“ ہر تین مصرعون کے بعد آتا ہے۔ اس کا ربط تین مصرعون سے معلوم نہیں ہوتا۔ مرربع میں یہ مصرع ترجیع کی طرح ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کے ذہن میں مرثیہ کی ایک داخلی ہیئت تھی کیونکہ ان کے بڑے مرثیوں میں ایک تمہید ہوتی ہے۔ جس شہید کے حال کا مرثیہ ہوتا ہے، اس کی شہادت کی اہمیت یا شہادت کے پیش نظر دوسرے واقعات کو بیان کرتے ہیں، جس سے شہید کا ذکر

مربوط ہوتا ہے۔ حضرت علی اصغر کے حال کے مرثیہ میں حضرت امام حسین کا دینی اور روحانی مرثیہ بیان کرتے ہوئے روز عاشورہ ان کا تہوارہ جانا، خیسے میں آکر اہل حرم کو صبر کی تلقین کرنا اور اس کے بعد حضرت علی اصغر کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین کے حال میں ایک مرثیہ غزل کی بیت میں ہے۔ حضرت حر کے حال کا مرثیہ قصیدے کی، بھر میں ہے اور قافیوں کی پابندی مشتوی کی طرح ہے، جس میں امام حسین کی عظمت اور کربلا کے میدان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت حر کا بیان شروع ہوتا ہے۔

کیکھڑی چندر نمن پائے ہیں جب دونوں شرف  
کیک چلے سورج نمن اس رین جیسے دل شرف  
حرتب آس رن پا ایسا ہاٹک ماری ہول ناک  
گئی گئی ساتوں اپر جس بناک کی بھیت کی دھاک  
مرزا نے جگہ جگہ اخلاقی مضامین بھی نظم کیے ہیں اور دنیا کی بے شانی کا ذکر بھی بڑی دل کش تشبیہوں اور استعاروں سے کیا ہے۔

حر یوسن بولے کہ ابے مردود دنیا بیچ ہے  
اس طبع اور اس طلب کے نتیج میں کئی بیچ ہے  
مرزا کے مرثیوں میں لڑائی کا بیان دھریوں کا نبرد آزما ہونا اور ایک دلاور کا پوری طرح سے جنگ کرنا بھی کچھ شامل ہے۔

ان کے مرثیوں کی مقبولیت کا خاص سبب ان کے مرثیوں کا درد انگیز پہلو ہے۔ شہیدوں کے حال میں ان کے مرثیے مردی ہیں یا لمبی بھر کی مشنوی کی شکل پر ہے۔ اس کے علاوہ جو غزل کی بیت میں مرثیے ہیں، ان میں ہر شعر میں الگ الگ واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ربط تسلسل نہیں ہے۔ ممکن ازماں لکھتے ہیں۔

”مرزا نے مرثیوں میں نئے نئے پہلو پیدا کیے۔ ایک ایک شہید کے حال میں نہ صرف خاص طویل مرثیے کہے بلکہ ان مرثیوں میں مسلسل واقعات کا بیان، ان کی ڈرامائی ساخت، تمہید، واقعات،

گھریلو زندگی، نفیات انسانی، رخصت، رجز، جنگ اور شہادت کی تفصیل بیان کی اور اپنے عہد کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی زبان و بیان کی خوبیاں پیدا کیں۔<sup>1</sup>

مرزا کی مرثیہ نگاری پر تبصرہ کرتے ہوئے رشید موسوی لکھتی ہیں۔

”مرزا کے مرثیوں کا تفصیل سے مطالعہ کرنے کے بعد واضح

ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی مرثیے میں شہادت سے ہٹ کر دوسرے مخفی جذبات جیسے جنگ کا مفصل بیان، گھوڑے اور تلوار کی تعریف اور رجز بھی شامل ہوتے تھے۔ مرزا کے مرثیوں میں ہم کو ایک نہایت اہم مرثیہ دستیاب ہوتا ہے۔ جو 232 بند پر مشتمل ہے۔ یہ طویل مرثیہ قصیدے کی ہیئت میں لکھا گیا ہے اور تقریباً اس میں وہ سارے جذبات آگئے ہیں، جو بعد کوشودما پائے ہوئے مرثیوں کی خصوصیات سمجھے جاتے ہیں۔“<sup>2</sup>

1686 میں بیجاپور اور 1685 میں گول کنڈہ پر اور گزیب کا تضدد ہو گیا۔ قطب شاہی اور عادل شاہی سلطنتوں کے خاتمے کے بعد شاہی ذاکر اور مرثیہ خواں بھی باقی نہیں رہے، لیکن عزاداری کی رسیمیں جو تہذیبی زندگی کا جز بن گئی تھیں، کسی نہ کسی شہل میں باقی رہیں۔ عبد القادر سروری لکھتے ہیں۔

”تصوف ناکام تمناؤں کے لیے ایک سہارا ہو سکتا ہے اور مذہبی موضوع شاعر کے لیے روحانی تسلی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اس زمانے میں کچھ مرثیہ نگار بھی تھے جو شہدائے کربلا کے مصابح پر آسو بھا کر دراصل اپنے دل کی بھڑاس نکالتے تھے۔“<sup>3</sup>

1 ”اردو مرثیے کا ارتقاء“، سعیح الزماں

2 ”دکن میں مرثیہ اور عزاداری“، رشید موسوی، ص 67

3 ”اردو کی ادبی تاریخ“، عبد القادر سروری، ص 167

اس عہد کے لوگوں میں ذوق، بحری، ندیم اور قبسم احمد متاز ہیں۔

عادل شاہی اور قطب شاہی درباروں کے خاتمے نے بہت سے شاعروں اور مرثیہ نگاروں کو منتشر کر دیا اور وہ دکن کے گرد و نواح میں گجرات، کرناٹک وغیرہ چلے گئے اور وہاں شعروخن کی نئی روایتیں قائم کرنے لگے۔ اور نگزیب کے بعد مغلیہ سلطنت پر بھی زوال آیا۔ صوبے داروں نے اپنی الگ الگ حکومتیں قائم کر لیں۔ 1723ء میں نظام الملک آصف جاہ کی سرکردگی میں دکن کی آصف جاہی سلطنت کا قیام ہوا۔ آصف جاہی سلطنت کے قیام کے بعد عز اداری اور مرثیہ خواں کو بھی ترقی نصیب ہوئی۔

اس دور کے مرثیہ نگاروں میں ہاشم علی اور درگاہ قلی خاں دوران خاص ہیں۔

### ہاشم علی

ہاشم علی 1736ء سے 1747ء تک مرثیہ کہتے رہے۔ انہوں نے اپنے مرثیوں کو رویف وار جمع کر کے اس کا نام ”دیوان حسینی“ رکھا۔ جس کا قلمی نسخہ اذنبرائیونپورشی کے کتب خانہ میں موجود ہے (نسخہ، جس 379)۔ دیوان حسینی میں دو سو اڑتیس مرثیے ہیں، اگر انھیں موضوعات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان میں شہدائے کربلا کے مرثیوں کے علاوہ حضرت رسول خدا جناب قاطمہ، حضرت علی، امام حسن وغیرہ کے بھی مرثیے ہیں۔ ان کے بہت سے مرثیے ایسے بھی ہیں، جو واقعات کربلا کے کسی ایک شہید کے حال میں ہیں، یا کسی واقعہ کا سلسلے سے ذکر کرتے ہیں۔ پرانی مسلم جناب سکینہ، اسیری حضرت عابد، حضرت زینبؓ کی حضرت علیؓ سے فریاد وغیرہ۔ ان موضوعات کے علاوہ حضرت علی اصغرؓ اور جناب قاسمؓ کی شہادتوں کا موضوع ہاشم علی کے نزدیک مرثیہ کا خاص موضوع ہے، ملاحظہ ہو۔

- 1- افسوس ہے ہزار کہ نوشہ گذر گیا۔ روٹی دہن کو چھوڑ گھونگھٹ میں کدھر گیا
- 2- قاسم کہے دکھاؤ شتابی لگن مرا۔ مجھے ہاتھ میں لے آؤ بندھاؤ کنگن مرا  
رزم کے بیانات ہاشم علی کے مرثیوں میں بہت کم ہیں، البتہ طویل مرثیوں میں رخصت تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ چند مرثیے تو پورے ہی نالہ و فریاد پر مشتمل ہیں۔ ان کے عنوانات ہی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم علی در دن اک مضامین کو ہی مرثیہ

کا اصل مقصد سمجھتے تھے۔ اسی لیے وہ مرزا کے رزمیہ مناظر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے اور اپنے اپنے خیال کے دارے سے باہر نہیں نکل سکے۔

دایوان حسینی میں زیادہ تر مرثیے غزل کی بیت میں ہیں۔ نہ ان میں زیادہ وسعت ہے اور نہ تسلسل۔ اسی لیے کسی خاص شہید یاد اوقاتے کا بیان مرثیوں میں نہیں ملتا۔ البتہ موضوع کی مناسبت سے جو مرثیے لکھے گئے ہیں، ان میں موضوع کی یکسانیت موجود ہے، لیکن کسی خاص واقعے کا سلسلہ بیان نہیں ملتا۔ بعض مرثیوں میں مکالموں کی اچھی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مریع کی شکل میں انہوں نے نئی نویلی دہن جناب فاطمہ کبریٰ اور حضرت قاسم کا اس وقت کا مظہر پیش کیا ہے، جب وہ میدانِ جنگ کے لیے رخصت ہو رہے تھے۔ نئی بیانی دہن کی شرم و حیا اور تھوڑے ہی عرصے کی قربت کے بعد زندگی بھر کی جدائی۔ یہ ایسی جذباتی کشمکش کا مظہر ہے کہ جسے ہاشم علی نے بڑے فنکارانہ انداز سے پیش کیا ہے۔

جلوے سے اٹھ کے رن کو چلاتب کبی دہن دامن پکڑ کے لان جسون انجمواں بھرے نین  
مت چھوڑ کر سدھارو تم اس حال میں ہمن تم بن رہے گا ہاے یہ سونا بھون مرا



جاتے ہو چھوڑ رن کی طرف سمجھ کو تم رلا نہیں شرم کا ہنوز یہ سرسوں گھونگھٹ کھلا  
کرتے نیں محبت و جاتے میا بھلا اس زندگی سے آج بھلا ہے مرن مرا  
ایک دوسرا مریع مرثیہ، جس میں آخری مصرع ترجیح بند کی صورت میں ہر بند میں آتا ہے۔  
حضرت علی اصغرؑ کے حال میں ہے۔

آج پر خون کفن ترا اصغرؑ آج سوکھا دہن ترا اصغرؑ  
لال ہے کل بدن ترا اصغرؑ حیف یوں بالپن ترا اصغرؑ



دیکھ اپنا شہید نواعین شہربانو انجموں سے بھر کر نین  
روتی چھاتی کو کوٹ کرتی ہین حیف یوں بال پن ترا اصغرؑ



آج کیوں رن منا ہے مرا لال      ہو بھرے ہیں ترے یہ دونوں گال  
 آج سویا ہے کیوں تو گردن ڈال      حیف یوں بال پن ترا اصر



کس کا اب پالنا جلاؤں گی      لوری دے کے کے سلاؤں گی  
 کس کو چھاتی سیتی لگاؤں گی      حیف ہوں بالپن ترا اصر  
 ایک اور مرشیدہ جس میں جناب شہر پانو کی فریاد و نغایل کھی گئی ہے۔  
 شہر پانو یوں پکاریں ہائے دا اور کیا کروں      بے کسی میں کاں محمد کاں ہیں حیدر کیا کروں  
 فاطمہ خیر النساء نہیں آج حاضر کیا کروں      تشنہ لب مارا پڑا ہے ان میں سرور کیا کروں



انھیں سادہ اور پراثر بیانات کی وجہ سے ہاشم علی مرشیدہ گوئی کی تاریخ میں اہم درجہ رکھتے ہیں۔  
 اگر چہ انہوں نے بیت میں بھی تحریکات کیے، غزل اور مرثیہ کی بیت میں مرثیے لکھے، لیکن  
 مرثیے کے کسی خاص ہیر دیا واقعہ کی طرف ذہن کو مرکوز نہ کر سکے شاید یہ اس وقت ممکن بھی  
 نہیں تھا۔

### درگاہ قلی

خاں دوران درگاہ قلی خاں (1710 - 1766) دکن کے حاکم آصف جاہ کے  
 مقررین میں تھے۔ وہ اصلًا ایرانی تھے۔ اپنے گھرانے کی تہذیبی روایت کے ساتھ انھیں رسول  
 اور آل رسول سے محبت بھی تھی اسی لیے وہ خود بھی عزاداری کرتے تھے اور اپنے یہاں کی  
 مجلسوں میں پڑھنے کے لیے مرثیے بھی لکھتے تھے۔

سالار جنگ کے کتب خانے میں ان کے انیں مرثیے اور اکیس سلام ہیں۔ یہ  
 مرثیے 1753 سے 1766 کے درمیان لکھے گئے ہیں۔ بیت کے اعتبار سے بارہ مرثیے مرثیے  
 ہیں، صرف ایک مفردہ، باقی تینس، تیس، دہرہ بند، مسدس اور ترجمہ بند ہیں۔ بعض ایسے بھی  
 ہیں، جن میں عربی، فارسی کے دو دو مصرع دہرہ بند کے طریقے سے آتے ہیں۔

درگاہ قلی کے مرثیوں پر دنی مراتی کے بجائے شامی ہند کے مراتی کارنگ نمایاں

ہے۔ دکن میں مرشیہ گوئی کی شان دار روایت ہونے کے باوجود انہوں نے دکنی مرثیوں کے انداز سے بہت کردار ہوئی انداز کے مرثیے لکھے۔ بھی مرثیے دہلی سے دکن جانے کے بعد کے ہیں۔ ان مرثیوں کی ساخت میں تسلسل کا وہ انداز نہیں جو دکن کے اور مرشیہ گویوں کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ کسی بند میں واقعہ کربلا کے ایک پہلو کا ذکر کرتے ہیں تو دوسرے بند میں کسی اور پہلو کا۔

پیاس میں بیتاب جان پو تراب آنھ دن میں نہیں ملا اک قطرہ آب  
دیکھ عباش علی یہ اخطراب قصد پانی کا لیے جلد و شتاب  
مشک بھر کر لے چلے مثل سحاب بے مروت ہائے ہو رے کر عتاب  
چھوٹے بڑے نہیں کیا ہے ہے آئی کر  
سارے بالک چلاتے پانی پانی کر  
خوک سگ بیراب و اولاد بقول  
در عطش باصد مصیبت یا رسول

البتہ تسلسل ایسے مرثیوں میں پایا جاتا ہے، جو کسی کی فریادوزاری پر مشتمل ہیں۔ مثلاً  
کہیں سکینہ سرو پا برہنہ جاؤں گی سب اہل حشر میں کیا شور و غل مجاہوں گی  
کفن لہو سے بھرا باپ کا دکھاؤں گی قصاص خون حسین غریب جاؤں گی  
روم بہ حشر و سور جگر کنم فریاد  
جزائے خون پدر رائے گا خواہم داد

فارسی کی بیت سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دہلی میں مرشیہ گوئی کے اثر سے ہی ایسا کیا گیا ہے۔  
درگاہ قلی مرثیے کا مقصد رنج و غم سمجھتے ہیں اور صرف مصائب کے بیان تک محدود رکھنا چاہتے  
ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ درگاہ قلی نادر شاہ کے محلے کے وقت آصف جاہ کے ساتھ محمد شاہ کی  
طرف سے بات کرنے لگئے تھے اور جو ان مردوں کا ثبوت دیا تھا، جس کا ذکر تذکروں میں  
موجود ہے، پھر بھی اپنے مرثیوں میں انہوں نے جنگ و جدل، مناظر کا بیان، واقعہ نگاری کی  
طرف کوئی توجہ نہیں کی، صرف اشک فشانی کرنا ہی ان کا مقصد ہے اور اس میں وہ کامیاب نظر

آتے ہیں۔

حرم اور عابد بیکس کو اونٹوں پر سلاسل میں  
سیاست میں لے آیا ہے ظالم کے مقابل میں  
کہا عابد کو ظالم نے تمنا کیا ہے تھوڑا دل میں  
کہ بھیج ہم غریبوں کو جہاں نانا کی تربت ہے

دکن میں اردو مریہ نے جو ترقی کی اس سے دہلی کے مرشیہ گویوں نے کوئی فائدہ  
نہیں اٹھایا۔ ڈاکٹر مسیح الزماں، اس کا سبب دہلی کی مرکزیت اور ان کا احساس برتری بتاتے  
ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا سبب اور بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ فارسی ان کے  
دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی اور ایرانی تہذیب کی افضلیت کا احساس ان کے رُگ و ریشے میں  
موجود تھا اس لیے انھیں غزل کو تو قبول کرنا پڑا۔ لیکن مریہ کی جور و ایت دکنی سماجی قوتوں نے  
بنائی تھی انہوں نے اسے قابل تقلید نہیں سمجھا۔

دہلوی مرشیہ گو ہیئت اور موضوع دونوں میں تجربے کی منزل سے گذرے۔ ہیئت  
کے اعتبار سے قصیدہ، مریغ، ترجیح بند، ترکیب بند، مخس، مستزاد، مسدس کی صورتوں میں  
مریئے لکھے گئے۔ مسدس اور مخس میں ایسے بھی مریئے لکھے گئے، جن میں فارسی یا برج جھاشا  
کی بیت یا آخری مصرع بھی ترجیح کے طور پر استعمال کیا گیا اور ہر بند کو مختلف مصرع سے  
پوند کیا گیا۔ بعض مرثیوں میں چار مصرع ایک بحر میں ہیں اور ہیئت دوسری بحر میں۔ لیکن  
سب سے زیادہ مریغ کی ہیئت مقبول ہوئی۔ مریغ مرثیوں میں ایک عیب یہ تھا کہ چوتھے  
مصرع میں خواہ مخواہ کی کھنچ تان کرنی پڑتی تھی۔ ہیئت کے چوتھے مصرع صرف بھرتی کے  
ہوتے تھے اور مسلسل بیان کے راستے میں دشواری پیدا کرتے تھے۔ بھی دشواری مثلث اور  
مخس میں بھی تھی۔ مختلف روایف اور قوانین کی پابندی تاریخی واقعے کے دور بیان میں تسلسل کو  
باتی رکھنے میں دشواری پیدا کرتی تھی۔ بہت دنوں کے تجربات کے بعد مسدس کی ہیئت کو قبول  
کر لیا گیا۔ موضوع کے اعتبار سے مسلسل مضامین بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔  
ابتدائی مراثی میں سوز خوانی اور تحتاللفظ کے مرثیوں کا ڈھنگ بھی ہے اور سلام،

نوئے اور زاری کا بھی، ان میں رثائی جذبات سیدھے سادے طریقے سے نظم ہوئے ہیں۔  
 فنی احساس کا خیال کم رکھا گیا ہے اسی لیے یہ کہاوت عام ہو گئی تھی کہ ”بزر اشاعر مرشیہ گو“،  
 حالانکہ یہی ابتدائی مرشیہ گو گزرے شاعرنیں تھے۔ قدیم مرشیوں کے علاوہ مشتیوں میں بھی  
 تاہمواری نظر آئی ہے۔



(۲)

## شمالی ہندوستان میں مرثیہ گوئی

### (الف) دہلی میں مرثیہ گوئی

دہلی میں عزاداری کا اور گزیب سے پہلے کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا۔ جو تاریخیں ہمارے سامنے ہیں، وہ ملک کے سیاسی واقعات پر زیادہ زور دیتی ہیں، نہ کہ تہذیب و تمدن پر۔ ڈاکٹر مسحی الزماں رقم طراز ہیں۔

”عہد اکبر اور چہانگیر میں جب جونپور کے ملائیزدی چھے مجہد اور آگرے کے نوراللہ شوستری ایسے قاضی تھے، جن کے عقائد اور ضمیر کی آواز کو حکومت کی سزا بھی دباتے سکی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس عہد میں عزاداری ہوتی ہی نہیں تھی۔ لیکن اس وقت ہم عزاداری کا مطالعہ ایک معاشرتی رجحان اور ایک عمرانی قوت کی حیثیت سے کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ عزاداری جب ایک سماجی عمل کی حیثیت سے زور پکڑتی ہے تو ادب میں اس کے مظاہر نظر آتے ہیں اور ہمیں اس کے سماجی عمل اور اس کے ادبی مظاہر سے دلچسپی ہے۔“

عہد اور گزیب میں جالس کارواج کافی ہو چکا تھا۔ اور گزیب کے انتقال

کے بعد ان کی اولاد مذہب تشیع کی پیروی کرنے لگی۔ اور نگ زیب کے جانشین بہادر شاہ اول نے حضرت علی کا نام و صی رسول اللہ کے لقب کے ساتھ اذان اور خطبے میں داخل کر دیا اور عزاداری کی حوصلہ افزائی کی، لیکن عزاداری اجتماعی عمل کی صورت اختیار نہیں کر سکی۔ علی جو اوزیدی لکھتے ہیں، ”جو مودا داب تک ہمارے سامنے آ جکا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دہلی کی اردو مرثیہ گوئی اور نگ زیب کے آخری زمانے سے شروع ہو کر فرخ سیر (1712) اور محمد شاہ (1719) کے زمانے میں اپنے انتہائی عروج کو پہنچ چکی تھی۔ ”مرقع دہلی، ”میں درگاہ قلی نے لکھا ہے کہ، اس دور کی دلتی میں (خواجہ سیرا) جاوید خاں کے عز اخانے کی طرح بہت سے عاشور خانے تھے، جن میں مجلسیں ہوتی تھیں۔ کہیں مقتشم کاشی اور حسن کاشی کے مرثیے پڑھے جانتے تھے اور کہیں ”روضۃ الشہداء“۔ نواب اشرف علی خاں کی طرح دوسرے امراء کے گھروں میں تعزیزی خانے تھے، جہاں مراسم عزاداری جالائے جاتے تھے۔ عام طور سے مرثیہ رثائی مضمایں پر ہی مشتمل ہوتا تھا۔ ضمیر و غلیق نے اسے ایک نیا ڈھانچہ عطا کیا، جس میں رزم و بزم کے لیے عناصر نظر آنے لگے۔

ابتدائی مراثی شہادت امام حسینؑ کے فوراً بعد لکھے جانے لگے تھے۔ مرثیے کی روایت مسلمان اپنے ساتھ لائے۔ عراق، جاڑ، مصر، ایران، افغانستان اور ترکی سے آنے والے مسلمان ذکر شہادت عام طور سے کرتے تھے، لیکن ہندوستان میں نئی رسمیں اختیار کی گئیں۔ ان رسوم کا اثر اردو مرثیہ پر بھی پڑا۔ یہ بات بھی درست نہیں کہ اردو مرثیہ گوئی دہلی اور اودھ میں ہی محدود ہے۔ گجرات، دہلی، کشمیر، پنجاب، بہگال، ہر جگہ مرثیے ملتے ہیں اور ہر جگہ کے ماحول اور رسومات سے مוואد حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سید محمد عقیل رضوی نے ان باتوں پر روشنی ڈالی ہے۔ ”ان مراثی میں عربی اور فارسی کے رثائی روایات کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مختلف رثائی رسوم داخل ہوتے گئے۔“ علی جو اوزیدی کا خیال ہے۔ ”اگر گجرات و پنجاب و سندھ و کشمیر کی روایوں سے رثائی روایات آگے بڑھے ہوں گے تو سب سے پہلے شمالی ہندوستان میں بالخصوص دلتی میں ان کا شان قدم ملنا چاہیے۔“

ابتدائی مرثیے مقامی بولیوں میں بہت لکھے گئے اور بعض نئے رثائی اصناف بھی

ایجاد ہوئے مثلاً اتر پردیش کے مشرقی ضلعوں میں "زاری" - یہ زاریاں کئی پتوں سے پڑھی جاتی رہیں ہیں۔ اسی طرح بعض علاقوں میں "دوہے" کا رواج بھی آج تک باقی ہے۔ سوز خوانی کے مقاصد کے لیے مرثیے پڑھے جاتے تھے۔ اور یہ مراثی مختصر ہوتے تھے سلام بھی رثائی اور مختصر ہوتے۔

مراثی کے سب سے اہم ذخیرے دکن ہی میں ملتے ہیں۔ مرثیوں کے علاوہ دوسرے اصناف بھی عوامی بولی میں لکھے جاتے تھے۔ چودھویں صدی عیسوی میں "نوسرہاڑ" جیسی طویل رثائی مشنوی کی تصنیف ہوئی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تیرہویں صدی عیسوی سے مختصر مرثیے لکھے جانے لگے تھے۔ ذکر شہادت کے سلسلے میں مکون، صوبوں اور زبانوں کی کوئی تفریق نہیں۔ سبھی علاتائی زبانوں میں کچھ نہ کچھ مoadل جاتا ہے۔ چونکہ اردو بولنے والوں کا حلقہ نسبتاً وسیع ہے، اس لیے ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ زبان و زبان کے امتحان سے مرثیہ گوئی کی ایک ایسی روایت ابھری جو پہنچا دی طور سے ہندوستانی ہے۔ علی جو اذیتی لکھتے ہیں۔

"اگر واقعہ گربلا کوئی معمولی تاریخی واقعہ ہوتا تو اس کا

ہندوستانی رنگ اور بھی شوخ ہوتا لیکن اس واقعہ کا ایک مذہبی اور عقیدتی پہلو بھی ہے، اس لیے نفس واقعہ میں ادبی ضرورتوں کے تحت رد و بدل، فکر و اضافہ کے امکانات بے انہما محدود ہیں۔ پھر بھی اس عظیم انسانی تریجذی کے آفاقی اور نفیاتی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش میں ہندوستانی مرثیہ گونے بہت سے ضمنی اخراج اور اضافے کپے ہیں۔ ان اضافوں نے گربلا کے ماحول اور کرداروں تک پر ہندوستانیت کی ہلکی کی چادر ڈال دی ہے۔ ان اضافوں سے خالص تاریخی حیثیت مجرور ہوئی ہے۔ لیکن انھیں کی وجہ سے مرثیوں کو ادبی صنف کی حیثیت سے ترقی بھی ہوئی ہے۔"

("دہلوی مرثیہ گو" حصہ اول، ص 20)

رثائی ادب کے سلسلے میں یہ بات تقریباً قبول کر لی گئی ہے کہ مرثیہ ایک مذہبی

صفیٰ خن ہے۔ اور اس کا فروغ شیعہ حکمرانوں کے دور میں ہوا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عزاداری اور مرشیہ گوئی کی ایک فرقہ تک محدود نہیں اور نہ ہی صرف شیعی حکومتوں میں اس کا فروغ ہوا۔ گجرات میں محمد شاہ اول اور دکن میں یعنی دور حکومت میں مرثیے لکھتے رہے ہیں۔ اگرچہ شیعہ اور بعض غیر شیعہ حکومتوں کی وقت طور پر حوصلہ افزائی سے مرثیے کچھ زیادہ لکھتے گئے، لیکن مرشیہ کی اصل سر پرستی عوام نے کی۔ شیعوں ہی کی طرح اہل سنت اور بعض اوقات ہندو بھی مرثیے لکھتے رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز، حضرت معین الدین چشتی کا نام ان میں سرفہrst ہے۔ ان کی سیر باعی آج تک مجلسوں اور تقاریر میں پڑھی جاتی ہے۔

شah است حسین و پادشاہ است حسین

دین است حسین و دین پناہ است حسین

سرداد و نداو دست در دست یزید

حطا کہ بناۓ لا الہ است حسین

محمد شاہی دور تک آتے آتے فضیلی کی ”کربل کتحا“، بھی وجود میں آئی۔ ”کربل کتحا“ سے لے کر ”مخزن“ تک شہادت ناموں کا ایک سلسلہ ہے۔ ان میں صرف نثر نہیں ہے بلکہ منظوم رثائی اجزاء بھی ہیں جنہیں بقول علی جو اذیدی مرثیے کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جاسکتا۔

قدیم تذکروں میں مرشیہ گوئی کا ذکر نہیں ملتا بعد کے تذکروں میں مرشیہ گوئی کا ذکر آگیا ہے۔ البتہ بیاضوں کی شکل میں بہت سا مادہ محفوظ رہ گیا ہے۔ یہ بیاض میں کیمبرج یونیورسٹی، ایڈنبری یونیورسٹی، پیرس یونیورسٹی کی لائبریریوں میں پھر سالار جنگ میوزم کے کتب خانے اور خدا بخش لائبریری، رضا اسٹیٹ لائبریری، کتب خانہ آصفیہ ادارہ ادبیات اردو اور مسعود حسن رضوی ادبی کتب خانہ جواب مولانا آزاد لائبریری مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو منتقل ہو چکا ہے، میں محفوظ ہے۔ ان بیاضوں میں جن شعراء کا کلام ہے، ان میں اکثر کے نام درج نہیں بلکہ صرف تخلص ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہی تخلص کے کئی شاعر مل جاتے ہیں، جس سے یہ طے کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کس دور کے شاعر کا کلام ہے۔ امکانات اور قیاس کو تحقیق کا نام تو نہیں دیا جاسکتا، پھر بھی جو امکانات توی ہیں ان سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔

دہلوی مریمی لکھنؤ اور دکن کے بیچ کی ایک کڑی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس وقت کے ادبی تہذیبی مأخذ کی حیثیت سے ”مرقع دہلی“، ایک اہم دستاویز ہے۔ یہ محمد شاہی دور کی دلی کا آنکھوں دیکھا حال ہے، جسے درگاہ قلی خاں نے ترتیب دیا ہے۔ جو چیزیں انھیں جاذب نظر معلوم ہوئیں، ان میں دہلی کے مرثیہ خواں بھی تھے۔ ان کے ذکر کے ساتھ مرثیہ گویوں کا بھی ذکر آگیا ہے۔ چونکہ فضلی مرثیہ خواں نہ تھے اس لیے فضلی جیسے مرثیہ گو کا ذکر اس میں نہیں ہے، جب کہ فضلی نے اپنی کتاب ”کربل کتحا“ میں اپنے مرثیوں کے اجزا جا بجا نقل کیے ہیں۔ ایک مرثیہ مسکین کا بھی اس کتاب میں نقل ہوا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسکین، فضلی سے پہلے کے شاعر ہیں۔

پروفیسر مسعود حسن رضوی کے کتب خانے میں فضلی کے چھوٹے بھائی کرم علی کے مرثیوں کی ایک جلد موجود ہے۔ کچھ اور قدیم بیاض میں بھی ہیں، جن میں سے ایک میں ندمیم اور دوسرے مرثیہ گویوں کے مرثیے ہیں۔ دوسرے میں اردو کے تقریباً ایس قدمیم مرثیہ نگاروں کے مرثیے ہیں۔ یہ بیاض 1739 کی کتابت شدہ ہے۔ یعنی اس کا اور ”مرقع دہلی“ کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ بیاض میں مرثیوں کی تعداد ایک سو تیس ہے۔ جن مرثیہ گویوں کے نام سے مرثیے اس میں شامل ہیں، ان کے نام حسب ذیل ہیں: ۱۔ اثر، ۲۔ افضل، ۳۔ تحقیق، ۴۔ حیدر، ۵۔ خادم، ۶۔ دلیر، ۷۔ محمد رضا رضا، ۸۔ مبشر علی، ۹۔ صادق، ۱۰۔ میر محمد صالح صلاح، ۱۱۔ عاصی، ۱۲۔ عبداللہ، ۱۳۔ غلام سرور، ۱۴۔ قاسم، ۱۵۔ قربان علی، ۱۶۔ کلیم، ۱۷۔ محمد کلمیان کلمان، ۱۸۔ محبت، ۱۹۔ موسیٰ، ۲۰۔ ہدایت۔

ان میں کچھ نام ایسے ہیں، جو دوسری قدیم بیاضوں میں بھی مل جاتے ہیں اور بعض کا تعلق دہلی سے برآ راست ہے۔ لیکن خاص محمد شاہی دور کے مشہور مرثیہ نگار مسکین کا کوئی مرثیہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس وقت تک اتنے مشہور نہ ہوئے ہوں۔ نور الحسن ہاشمی نے ان سبھی مرثیہ نگاروں کو دہلوی قرار دیا ہے۔

کتب خانہ سالار جنگ میں شہادت ناموں کی بیاض میں ہیں۔ ان میں حسب ذیل مرثیہ گویوں کا کلام دیکھا جاسکتا ہے۔ (۱) مسکین، (۲) مرا ز محمد علی، (۳) جانشناش، (۴)

خادم، (5) حسین، (6) غطی اللہ، (7) محبت، (8) ضیاء، (9) میرن بزداری۔

اس مقاٹے میں انھیں مرشیہ گویوں کو دہلوی مانا گیا ہے، جن کا دہلی سے قلمی لگاؤ رہا ہے۔ یہ مرشیہ نگار نہ صرف مقامی اہمیت کے حامل ہیں بلکہ مرشیہ گوئی کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں اور عقیدہ اور مذہب کا احساس دلاتے ہیں۔ شاعری میں عقیدہ اور مذہب ہر زبان میں اہم حرک شمار کیے گئے ہیں۔ لیکن مرہیے کے سلسلے میں ادبی سوراخ اسے مذہبی صنف تحصیل مانتے آئے ہیں اور اس کی ادبی اہمیت سے انکار کرتے آئے ہیں۔

علی جواد زیدی نے دہلوی مرشیہ نگاروں کو چار ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے ابتدائی دور میں اور نگ زیب کے آخری زمانے سے لے کر محمد شاہ کے زمانے تک کے مرشیہ نگار شامل ہیں۔ اس دور کے مرشیہ نگاروں میں مسکین اور کرم علی جیسے مرشیہ نگاروں کے مرہیے ہیئت کے تنوع کے اعتبار سے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ انھوں نے لفظیات کے ذخیرے میں خاصہ اضافہ کیا ہے۔ محبت کے بیہاں مدرس مرثیوں کی ابتدائی شکل نظر آتی ہے۔ ان کے بیہاں مرلح کی عروضی شکل پر ایک شیپ کا اضافہ کر کے مدرس کی شکل دی گئی ہے۔ یہ شیپ کا شعر بھی سمجھی اردو میں ہوتا اور سمجھی فارسی میں۔

دوسرے دور کو ادبی دور کا نام دیا ہے۔ اس دور میں سودا، میر، فقاں، قائم، قاسم، فراق، ضیاء، ہدایت اور میر حسین جیسے اہم مرشیہ نگاروں کے نام آتے ہیں۔ سودا نے محل کر مرہیہ کی بعض خامیوں پر تنقید کی اور ادبی عناصر مرشیہ میں شامل کیے، جس کی وجہ سے مضافات اور زبان دہیان دنوں ہی میں توازن آیا۔ سودا کے مرہیے ہیئت اور موضوع دنوں کے تنوع کے انتہا سے قابلی ذکر ہیں۔ تیسرا دو رکاوائی دور کا نام دیا ہے۔ اس دور کی خاص بات یہ ہے کہ مدرس کو مرہیے کا مستند ڈھانچا مان لیا گیا، اس سے پہلے تک مرلح کی ہیئت ہی زیادہ مقبول تھی۔ اگرچہ مدرس کی ابتدائی مرشیہ نگاروں کے پہلے ہی دور میں کرچکے تھے لیکن اس دور میں اسے قبول عام حاصل ہوا۔ چوتھے دور کو دور جدید کا نام دیا ہے۔ اس دور میں غالب، ظہیر و فخر جیسے شاعروں کے نام آتے ہیں۔ یہی وہ دور ہے جس میں لکھنؤ میں ائمہ ودیر جیسے مرشیہ گویوں کی دعوم تھی۔ بیہاں ایسے شعراء تو نہیں جنھوں نے اپنی پوری توجہ مرشیہ نگاری کی

طرف مرکوز کر دی، لیکن اشرف، ظہیر، عارف، قادر و قدیر جیسے شعراء موجود ہیں۔ عصر حاضر میں آغا شاعر قزلباش نے متعدد مرثیے لکھے ہیں۔ ان کا مرثیہ بھی قابلی توجہ ہے اس دور میں نئے رجحانات بھی سامنے آتے ہیں اور یہ سلسلہ دور حاضر تک آتا ہے۔ علی جواد زیدی رقطراز

ہیں:

”لکھنوی مرثیہ گوئی کی بساط دتی والوں نے ہی جا کر  
بچھائی۔ کیا خلیق ضمیر اور کیا انیں ودیہر سب کا خیر دتی ہی کا تھا۔ یہ  
لوگ لکھنویں جا کر پھلے پھولے کیونکہ اس آخری دور میں دتی بالکل ہی  
اجڑچکی تھی۔“<sup>1</sup>

پروفیسر سعی الدین نے بھی اس خیال کو اس طرح پیش کیا ہے۔ ”دہلوی مرثیہ گویوں نے دکن کا انداز نہیں اپنایا بلکہ دکنی مرثیہ گویوں نے بھی اس عہد کے بعد دہلی کے انداز اختیار کئے اور اپنی روایت سے ایک طرح کی جسم پوشی کی۔“

(مرثیہ کی روایت ص 32)

اردو مرثیہ گوئی کے کچھ رجحانات دہلی میں ہی ابھرے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو انیں و دیہر کی ایجادات کے لیے فضا ہموار نہ ہو پاتی۔ رثائی مشنیوں کے قدیم نمونے بھی دتی میں ملتے ہیں اور مسدس و مخمس مرلح مراثی زیادہ تر یہیں پائے جاتے ہیں۔ یہ عروضی تجربے یہیں ہوئے۔ اگر یہ تجربے نہ ہوتے تو بیانیہ شاعری کا کوئی فروع نہ ہوتا۔ دہلی میں مرلح مشنیوں کا بہت عروج ہوا اور آخر میں مسدس اور مخمس مرہیے یہیں لکھنے گئے۔ رثائی مسدس کی ایجاد کا سہرا کوئی سودا کے سر رکھتا ہے کوئی سکندر اور کوئی حیدری کے سر رکھتا ہے۔ اب میر حسن اور میر سوز کے مسدس مرہیے بھی قدما میں مل گئے ہیں، یہ سب دہلوی ہیں۔ اس لیے عروضی ہیئت کی حد تک جو تجربات دہلوی مرثیہ گویوں نے کیے، اس لکھنؤی مرثیہ گویوں نے خوب چکایا اور ایک صدی تک اس فن کی آبیاری مسدس ہی کرتا رہا۔

دکن اور لکھنؤ کے ابتدائی مراثی کی طرح دہلوی مرثیہ بھی خاص رثائی رنگ کے

<sup>1</sup> ”دہلوی مرثیہ گو“، جلد اول، علی جواد زیدی، ص 56، 57

تھے۔ سلام، مریئے اور نوحے میں ہلاکا سافرق تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو مریئہ کہہ دیا جاتا کیونکہ ان کا بینیادی موضوع غم و الم تھا۔ لیکن جب مسکین کی طرح کے تفصیلی مراثی لکھے گئے تو مریئے کی اصلاح طویل بیانیہ سانچے کے لیے مخصوص ہو گئی۔ مرثیوں میں ستر، اتنی بلکہ سو بندوں تک کے طویل مریئے لکھے گئے۔ قصیدے کی بیت میں لکھے جانے والے مریئے زیادہ طویل نہیں ہوتے تھے۔ سلاموں میں جو مضامین ہوتے غزل کی بیت میں ہوتے۔ غزوں کی طرح اس میں ہر شعر علاحدہ علاحدہ وجود رکھتا اور ایک مستقل اکائی ہوتا تھا۔ یہ اشعار آپس میں بروٹنیں ہوتے تھے۔ قصیدے کی بیت میں جو مسلسل رثائی مضمون لطم کیے جاتے تھے۔ ان پر مریئے کا اطلاق ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں مسلسل رثائی منفردہ کو نوحہ کہا جانے لگا پھر اس نوحے نے غزل کی عربی بیت اختیار کر لی۔

محضراً دہلوی مرثیوں میں بیانیہ تسلسل بھی ہے اور عرب ماحول سے اخراج بھی ہے۔ ہندوستان کا مقامی رنگ بھی ہے۔ البتہ رزم و بزم کا عنصر دہلوی مرثیوں میں کم ہے۔ لسانی اعتبار سے ان کی اہمیت یہ ہے کہ اردو زبان میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان کا اظہار سب سے زیادہ رثائی ادب میں ہوتا ہے۔ اب اس دور کے نمائندہ مریئہ نگاروں کا جائزہ لیا جاتا ہے:

### فضل علی فضلی

فضلی بہادر شاہ اول (1124ھ / 1712ء) کے آخری زمانے میں 1122ھ کے آس پاس پیدا ہوئے۔ اور کم از کم احمد شاہ کے زمانے تک زندہ تھے۔ اس طرح بہادر شاہ کے علاوہ جہاندار شاہ، فرج سیر، نیکو سیر، ریغ الدراجات، ریغ الدلوہ، محمد شاہ اور احمد شاہ سات اور بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ یہ دو رافتاری کا تھا۔ محمد شاہ کی تخت نشینی کے وقت فضلی کی عمر نو دس برس کی رہی ہو گئی۔ ”کربل کھنا“ محمد شاہ کی تخت نشینی کے چودہ سال بعد یعنی (1145ھ / 1723-33ء) میں تصنیف ہوئی۔ 49-1748ء میں فضلی نے اس پر نظر ثانی کی کہ دلی کے رثائی ادب میں ”کربل کھنا“ ایک اہم کارنامہ ہے۔ اس میں بارہ بیاضیں ہیں۔ اسے بعض لوگ ”محلس“ بھی کہتے ہیں۔ یہ مشہور صوفی ملا حسین واعظ کاشنی کی فارسی تصنیف ”روضۃ الشہداء“

کا اردو ترجمہ میں شخص ترجمہ ہے۔ اس میں فضلی نے کچھ اضافے بھی کیے ہیں۔ فضلی نے اس میں مبکی اشعار کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ مختار الدین احمد اور مالک رام کے قیاس کے مطابق وہ نواب مشرف علی خاں کے بیٹے یا بہت قریبی عزیز تھے۔ نواب مشرف علی خاں شیعہ تھے اور نقیہ کی زندگی گزار رہے تھے۔ علی الاعلان مجلس نہیں کرتے تھے۔ اپنے محل کے اندر زنانی مجلس کرتے تھے، جن میں فضلی روپہ خوانی کرتے تھے۔ چونکہ ”روضۃ الشہداء“ فارسی زبان میں تھی، اکثر عورتیں معنی و مفہوم سمجھ پاتیں، اسی وجہ سے فارسی سے اردو ترجمہ موجود میں آیا۔ ۱ فضلی نے یہ کتاب 23 سال کی عمر میں مکمل کی۔ اس ترجمے کے علاوہ انہوں نے اپنی مرثیہ گوئی کا بھی ذکر کیا ہے:

خاص وہ شخص صاحب التصیف مرثیہ گوئے شہ بصر لطیف  
نام اس کا جو ہوگا فضلی علی اور تخلص کرے ہے وہ فضلی  
فضلی کے بعد کا کلام موجود نہیں ہے۔ ”کربل کھنا“ میں ”روضۃ الشہداء“ کے جن اشعار کا  
فضلی نے اردو ترجمہ کیا ہے، وہ پیشتر منتوی کی شکل میں ہے۔ ان کے علاوہ انہوں نے اپنے  
مرثیوں کے بہت سے حصے داخل کیے جو مرلح اور مفردہ ہیں۔

حضرت علی اکبرؑ کے میدان جنگ میں جاتے وقت ماں کی حالت فضلی نے یوں  
دکھائی ہے۔

آنکھوں سے آنسو چلے جاتے تھے زار	پھرتی تھی خیموں میں روتی بے قرار
جھائکے تھی دروازے پر جا باربار	کہتی تھی اس در پہ بھی کوئی در بان ہے
جو مجھ اکبر کی خبر لاوے شتاب	یعنی کوئیوں پر ہوا وہ فتح یا ب
اس کو دو زر و زیور بے حساب	مجھ بھروس شیرنی سے ارمان ہے
حضرت علی اکبرؑ کے لیے ماں کی اس حالت کا بیان فضلی کی جدت ہے۔ امام حسینؑ کا علی اصرار	
کوئے کرمیدان میں جانا اور سوال آب کرنا فضلی نے اس طرح بیان کیا ہے۔	

ماں اس کی کئی دفعوں سے ازبس کفاقتہ کش ہے سوکھا ہے دودھ اس کا، بن دودھ اب یغش ہے

۱۔ کربل کھنا، فضلی

کچھ نہیں مرض اب اس کوں جو کچھ ہے عطش ہے اس منہ چوانا پانی اب جج اکبری ہے  
پیاسوں یہ مجھ پیاسا اب کھول رہ گیا ہے گردن ڈھلا دیا ہے دیدے پھرا دیا ہے  
مرتا ہے کوئی دم میں دم اک رنگ رہا ہے جیودان دو گے اس کوں یہ رحم گستربی ہے  
اسی طرح شہادت امام حسین کے بعد ذوالجنح کا خیسے میں آنا اور اہل حرم کی گفتگو میں بھی  
واقع نگاری کی گئی ہے۔ فضلی نے یہ مرثیے مختلف شہداء کے حال کی مجلسوں میں پڑھنے کے  
لیے لکھے تھے اور بیان شہادت سے ربط دینے کے لیے مجبور تھے لیکن واقع نگاری اور  
جدبات نگاری کے لیے پہلو پیدا کیے۔

فضلی کی تصنیف کو محمد شاہ کے دور میں شہرت نہیں ملی یا ان کے مرثیہ خوانوں کی  
دسترس سے دور رہے کہ درگاہ قلی خاں کی تصنیف "مرقع دہلی" میں فضلی کا نام بھی نہیں ملتا۔  
علی جو اوزیبی کا خیال ہے کہ "فضلی جوانی شیعیت کے اقراری ہیں، اپنے محسن یا عزیز قریب  
نواب شرف علی خاں کی طرح خود بھی تقدیر کی زندگی گزار رہے ہوں۔"

اس وقت کے مرثیہ گویوں میں درگاہ قلی کے پر لطف علی خاں، ندیم، مسکین، ہزیں،  
غمگین کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ تعریف مسکین، ہزیں اور غمگین کی کی ہے۔

### مسکین

میر عبد اللہ مسکین عہد محمد شاہ کے مشہور مرثیہ گوتھے۔ ان کی ولادت 1110ھ سے  
1115ھ کے آس پاس ہوئی تھی ۱۔ 1115ھ میں جب درگاہ قلی خاں دہلی پہنچ تو اس شہر میں  
ان کی مرثیہ گوئی کا شہرہ تھا۔ سفارش حسین رضوی نے ان کا نام میر محمد سمی اور قدرت اللہ قاسم  
نے محمد مسکین تحریر کیا ہے۔ لیکن گل کرایسٹ نے ان کا نام میر عبد اللہ ہی تحریر کیا ہے، جس کی  
تصدیق اسپر انگر اور کریم الدین نے بھی کی ہے۔ مسکین کی طرح ان کے بھائی ہزیں اور غمگین  
بھی مرثیہ گوتھے۔ درگاہ قلی خاں نے تحریر کیا ہے کہ زبان ریختہ میں انہیں مرثیہ لکھنے میں  
مہارت حاصل تھی۔ تینوں بھائی "الفاظ الم آور" اور "مضامین حضرت آگیں" ایجاد کرتے  
تھے۔ تمام عمر امام حسن اور امام حسین کے مرثیے لکھتے رہے۔

۱۔ "اردو مرثیہ کا ارتفا"، مسیح الزماں

مسکین اپنے وقت کے ممتاز مرثیہ گو تھے۔ ان کی مرثیہ گوئی ضرب المثل بن گئی تھی۔

سودا نے بھی اپنے قصیدے "تحقیق روزگار" میں مسکین کا ذکر کیا ہے۔

اسقطاط حمل ہو تو کہیں مرثیہ ایسا پھر کوئی نہ پوچھے میاں مسکین کہاں ہے  
مسکین فن موسیقی سے بھی واقف تھے۔ جن را گوں میں ان کے مرثیے پڑھے جاتے تھے، ان  
را گوں کی تشریح ایک بیاض 1 میں تحریر کی گئی ہے۔

مرثیہ مقام پوربی۔

جب کہ قاسم نے پہن گلے میں شہانہ باگا      باندھ سر سہرا چلا بیانے شب کا جا گا  
موت کی آنکھ میں کیا خوب یہ نوشہ لاگا      ہو کے خوش وقت لگی کہنے بدھادا گا، گا  
یہ شہادت کی تحسیں آن مبارک باشد  
شادی مرگ مری جان! مبارک باشد

مرثیہ در را گنی پر فق۔

باپ سے اپنے اکبر شر نے رن کی جو رخصت پائی ہے، اسواری منگوانی ہے  
گھوڑے پر اب زین ہوتی ہے، اسواری منگوانی ہے  
پیک کی صورت بن کے قفال گھر سے لیئے آئی ہے      پھاڑ گریاں مالے اپنا پوشاک اسے پہنائی ہے  
مسکین کے چند مرثیوں کے ابتدائی بند تمهید جیسے ہیں۔ تشیب کی طرح اس میں ایسی باتوں کا  
ذکر ہے کہ جسے واقعہ کر بلے سے مربوط نہیں کیا جا سکتا۔ شاعران مضامین کا سلسلہ پھر واقعات  
کر بلے ملا دیتا ہے: مثلاً

یہ عاشورہ نہیں کہتا کہ مجھ کو دیکھ زردیکھو      دیا عشرے کا غم پی جاؤ عشرت کا اثر دیکھو  
یہ کہتا ہے کہ جس دم میری ابردیک نظر دیکھو      رخ لب تشکاں دیکھو دیا چشم ان تر دیکھو  
کلیجہ اس کا گکھرے ہونا معنی اپنے بتلائے      دیا الماس دیکھو تو حسن کا درد یاد آئے  
صفر کا حادث ماہ محرم میں جتا جاوے      کہ پہلے دل کپڑتا ہوں یہ ہے میرا اثر دیکھو



یہ دہ پر خوں گھینٹنے ہے کہ اس سبط نبی اوپر      چلیں چغیں بدن پر، چھائی اوپر برچھیاں جدھر

بدن میں تیر بازو نجح کپڑا حلق پر نجھر گواہی کو گگن کا دامن اس لوہو میں تردیکھو  
صلاح الدین اور ان کے معاصرین قربان علی، خادم، کلیم وغیرہ کے مرثیے پیشتر غزل  
کی بیت میں ہیں، جن میں تسلسل نہیں، اس کے علاوہ فارسی غالب ہے۔ مسکین کے مرثیے  
ان کے مقابلے میں رواں ہیں مسلسل واقعات کا بیان ہے۔ بعض میں متعدد بندوں کے  
ملکڑے ایسے ہیں جن میں کسی واقعہ کا مربوط بیان ہے۔ فاطمہ شہربانو کی فریاد کا بیان ملاحظہ ہو۔  
جدھر اس کے شوہر کی کائی تھی گردن گلا کاٹ جنگل میں تھے ڈال گئے تھے  
ذرا سر اوپر لے کے کرتے کا دامن دکھا کر پھٹا پیراں تب پکاری



کہ اے شاہ نک اپنے گھر کی خبر لے سردوں کی خبر لے چدر کی خبر لے  
جلے گھر کی اہڑے گھر کی خبر لے ذرا دیکھ کیا ہے مری بے وقاری



لوٹھ تیرے پڑی ہے ابھی سیں مجھ اوپر یہ سختی بنی ہے  
چادر مری لوٹ لی ہے اجاڑا ہے گھر سب بہ خواری وزاری



مرا مرتبہ اس نہایت کو پہنچا کہ گھر میں نہ گئے سر سیں مجھ کو نکالا  
اب آگے نہیں جانتی کیا ہوئے گا مرے قید پڑنے کی ہوئی ہے تیاری  
ان مرثیوں میں زیادہ تر ہیں کے مضامین لقم کے گئے، رخصت اور شہادت کا ذکر  
بھی ہے تو ان میں مظلومی کی کیفیت کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے۔

دوسرا مرثیے میں حضرت علی اصغرؓ کی شہادت کا بیان ملاحظہ ہو۔

روتے ہوئے اصغرؓ کو لیا گود میں سرور مرتا ہوا اس قوم کو دکھلایا لے جا کر  
پانی تو کھاں ملتا تھا غیر ازدم نجھر اک تیر جو مارا بچے پیاسے کے گلے پر  
گردن سوں چلی دونوں طرف خون کی نالی

اس واسطے جو موانہ جانے اے اتنا ہاتھ اپنے سے اصغرؓ کا لہو پونچھتا بابا

پیشے اس کی تھکتا ہوا اور دتیا دلاسا پچے کی طرف مصلحت سر کو ہلاتا  
گھر لے چلا لیکن نہ چپسی عمل کی لالی

اس کے کلیج کے اوپر چپسی چل گئی جیوں گودلیا پچے کی گردان وہیں ڈھل گئی  
دیکھا کہ پچے جاں اس کی نکل گئی کیبار جگر پھٹ گیا اور آتما جل گئی  
جب تک ہوسکا سر کے اوپر خاک اڑاںی

مسکین کے کچھ مرثیے ایسے بھی ہیں جن میں مریع کے چار مصر عے اردو کے ہیں  
اور دو فارسی کے، کبھی ان کی بحروہی ہوتی ہے اور کبھی سیت کے صرعوں کی بحرا لگ ہوتی ہے۔  
تھا مصلیٰ بچایا جس جاپ کہا اس وقت ہے یہ میرا گھر  
نقش سجدوں کے کر لیوں اس پر پھر کہاں گھر کہاں یہ بیرات  
ہر کہ آمد عمارتے نو ساخت  
رفت و منزل بدگیرے پر داخت

### غمگین

درگاہ قلی نے ”مرقع دہلی“ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ مسکین کے برادر عزیز تھے۔ غمگین  
بھی دور محمد شاہ کے مرثیہ گو تھے۔ ان کی حیات 1151ھ تک ثابت ہوتی ہے۔ ان کے مرثیے  
نئی نئی طرزوں میں کہنے گئے ہیں۔ مرثیے نہایت درا نگیز ہوتے تھے۔ ایڈنبریونیورسٹی کی ایک  
بیاض میں ان کے چند اشعار ملے ہیں۔

آج نکلا پھر لگن پر غم سوں خم ہو یوں ہلال	کربلا کے حداثے میں ہیں نبی کے پاک آل
تحاصلن کے باغ جاں کا شاہ قاسم نو نہال	خت جلوہ کے لگن میں جھوجھ مکنا مکھ پر ڈال
آج غمگین برج باہر غم سوں رو تا آسمان	آج لزا عرش کری اور زمیں کے سب جبل
غمگین کا ایک اور مرثیہ کتب خانہ خدا بخش لاہری یہی پشنہ کی بیاض مراثی میں ” مجراء“ کے عنوان سے نقل ہے۔ مرثیہ میں جا بجا الفاظ چھوٹ گئے تھے جسے مرتب لے نے پر کیا ہے ملاحظہ ہو۔	

لے ”دہلی مرثیہ گو“، جلد اول، پلنی جواد زیدی، ص 115۔

مجرا اسے جو رن میں یوں بے سر و سامان ہے      سرنیزے پے (منہ) گردن، تن خون میں غلطائی ہے  
 عریاں بدن (اس کا) ہے اور دشت کا دنماں ہے  
 اس غم میں ملائکہ ہیں دستار پلک رو تے      سرد کیھے کے، سرگشت نالاں ہیں، یوں رو تے  
 خورشید یہاں نیزے پے درخشاں ہے  
 اس دوش پے ہیں زہرا سرکھوں کے چلاتی      بالوں کو پریشان کر، رورو ہیں یہ فرماتی  
 اے نور (نظر) تجھ پر یہ کیا ہوا طوفاں ہے  
 اے لال محمد کے کیا حال ہوا تیرا      لوہو سے بدن سارا یوں لال ہوا تیرا  
 اے لال گلے لگ جا، آئی تری اماں ہے  
 اے لال اسی دن کو دکھ درد سے پالا تھا      تجھ لال سے گھر میرا اے لال اجا لاتھا  
 تجھ لال بد خشاں بن تاریک ہے ویریاں ہے  
 دن رات گلے اپنے میں تجھ کو لگاتی تھی      ہے ہے بچ میں تجھ کو ساتھ اپنے سلاطی تھی  
 سوآن ج بدن تیرا یوں خاک پے عریاں ہے  
 اے لال تجھے کیسے پانی نہ دیا ہے ہے      پیاسا تجھے دریا پر یوں ذنک کیا ہے ہے  
 گردن سے تیرے بچ تو خون کا طغیاں ہے  
 اس مریشہ کا مقطع ملاحظہ ہو۔  
 اب شاہ کو مجرما کر خاموش ہوا ہے غمگین      سرپیٹ کے اب رورو بیہوش ہوا ہے غمگین  
 اس دور کے دریا کا نہ حد ہے نہ پایاں ہے

### حزین

حزین بھی مسکین کے بھائی تھے۔ ”تذکرہ آزردہ“ کے مطابق ان کی وفات عہد  
 احمد شاہ (1168-1161ھ) کے قبل 1151ھ کے آس پاس 1737 سے 1739 کے  
 درمیان ہوئی ہو گی۔ حزین مرزا جان جاناں مظہر کے شاگرد تھے۔ میر کے الفاظ میں مظہر کے  
 نصیر یوں میں تھے۔ ان کا دور بھی محمد شاہی کا تھا۔ اکبر آباد کے سادات میں سے تھے۔ حکیم میر قدرت  
 اللہ قاسم کے مطابق ان کا نام میر محمد باقر تھا۔ لیکن ”تذکرہ آزردہ“ میں ان کا نام مقبار الدین

احمد حزین تحریر کیا گیا ہے۔ حزین بھی نئی طرزیں اور نئے نئے مفہامیں ایجاد کرتے تھے۔ لیکن تینوں بھائیوں میں مسکین سب سے زیادہ مشہور و مقبول تھے۔

### محبت

محبت، مسکین کے کم عمر معاصرین میں اور سودا کے ہم عصر تھے۔ آخری عمر میں والی سے حیدر آباد چلے گئے تھے۔ کتب خانہ سالار جنگ میوزیم حیدر آباد کی ایک بیاض میں ان کے کئی مرثیے ہیں۔ سید مجی الدین قادری زور کے خیال کے مطابق یہ بیاض نواب قیام الملک کے لیے تکمیلی تھی۔ نصیر الدین ہاشمی کے قول کے مطابق یہ نوشۃ 1178ھ (1764-65ھ) کا ہے۔ لیکن اس میں کچھ مرثیے 1181ھ کے لکھے ہوئے بھی ہیں۔ اس میں ایک مرثیہ گینزہ بند کا ہے۔ اس مرثیہ کا مطلع اور آخری بند درج ذیل ہے۔

غمگین ہو چڑھا بیاہ پ یہ کس کا بنا ہے      نوبت بھی ماتم کی یہ کیوں؟ سہرا کھلا ہے  
یہ کیسا ہے دوہبہ، کفن سر کو بندھا ہے      دوہن کے چلا گھر کو یا اب گور چلا ہے  
موت مشاطہ ساتھ ہے، لینے والی جان

قاسم اب دن بیاہ کے چلے ہیں تبرستان

تمبو میں لے جا عابد بے کس کو چھپاؤ      ہے نسل محمدؐ میں تھی، ایک بچاؤ  
اس وقت میں حیدر کو شتابی سے ملاو      گھر لوٹنے زہرا کا شترن سے پھرا ہے  
مندرجہ بالا مرثیہ مربع دوہرہ بند میں ہے۔ آخری بند میں شیپ کی بیت دستیاب نہ ہو سکی کیونکہ  
اس کے بعد کے اوراق دستیاب نہیں۔ جناب قاسمؐ کی شہادت سے متعلق دوسرا مرثیہ مربع کی  
شکل میں ہے، اس میں تیرہ بند ہیں۔

ہائے قاسمؐ کی سواری رلن میں پیچی جس گھڑی      لینے سر رسم دھنگانا یک بیک موت آرڈی  
چاندست، منہ پر گلی تردار جیوں گل کی چھڑی      ہولہوکی دھار تھی، دوہنے کے سہرے کی لڑی  
قطع

یا الہی حضرت مہدیؑ کا جلد ہو دے ظہور      تاکوں سے مومنوں کے ہوے سب تشویش دور  
یا علیٰ تم توڑ ڈالو اس کی مشکل کی آرڈی      اتنا کرنا گھڑا، کب سے محبت تیرے حضور

ایک دو ہرہ بند مریشہ اور ملا حظہ ہو۔

رو رو کے سکینہ کبھی عابد کی بلا لے اے بھائی تو جا، جلد محمدؐ کو بلا لے  
منہ لہو بھر اپنا علی حیدر کو دکھا لے زہراؐ کو خبر میری پتی کی سنالے  
گلے میں کفنی پہن کر نبی کے جا دربار  
ماں کو داد حسین کی رو رو گود پسار  
مقطوع

کر ختم یہ غم نامہ سرور کو محبت تو اب اس کے بیان کا نہیں مقدور زبان کو  
روتے ہیں آجھی جن و بشر شاہ کے غم سو اب تو بھی ذرا سر کے اوپر خاک اڑا لے  
محبت نبی کی آل کا جو کوئی ہوئے ہائے

ماتم کر حسین کا سر پر خاک اڑائے

ایک اور مریشہ چالیس بندوں کا ہے۔ یہ مسدس کی شکل میں ہے لیکن ٹیپ کے دنوں مصرے  
یعنی پانچواں اور چھٹا ایک ہی ردیف اور قافیہ میں ہیں۔ جس سے ترجیح بند کا دھوکا ہوتا ہے۔  
اس کا مطلع اور مقطع حسب ذیل ہے۔

مقطوع

چلیں عدن سیتی زہراؐ جورن کو پیٹ کے سر جہاں حسین کا لاشہ پڑا تھا خاک اوپر  
پنچ کے رو رو پکاریں وہ لاش کو بے پر کہ اے حسین تری آئی فاطمۃ مادر  
کہاں تو سر کو کٹا کر پڑا ہے ہائے حسین  
کہیں نہیں میں ترا کھونج پائی وائے حسین  
مقطوع

اب آگے کیا کھوں زہراؐ کی بے قراری کوں دیا کہ پھوپیوں کی اونٹوں پآہ وزاری کوں  
محبت تو لکھ کے دکھا اپنی خاکساری کوں جو تو نے مریشہ تازہ لکھا ہے رو رو کر  
سناوے سارے محبوں کو ماجراء حسین  
جو تیرے حق میں دعا دیویں از برائے حسین

”ادارہ ادبیات اردو“ حیدر آباد کے مخطوطات میں بھی ایک قسمی بیاض میں محبت کے کچھ مرثیے موجود ہیں۔ زور کے اندازے کے مطابق یہ مخطوطہ 120 صفحہ کے قریب کا ہے۔ اس میں بارہ مرثیے ہیں۔ ایک مریع مرثیہ کا مطلع اور مقطع ملاحظہ ہو۔

مطلع

حسین تخت شہزادت پہ بادشاہ قبیل کیے وہ حکم قضا کو، بجاوے کو میں ریل تمام دولت تسلیم جب ہوئی تحصیل گئے ہیں دار فنا سے لیے بقا کی سبیل  
مقطع

شہ ملیخ عرب ہے ذبح جور و وفا محبت خدا ہے وہی نام پر بصدق و صفا جزا کے دن غمِ حسین سیں یہی ہے وفا مرے وہ عفو جرام کے تین ہوا ہے کفیل محبت کے مرثیے، مربجوں کے علاوہ مفرده مثلث، چمٹ، مسدس وغیرہ کی شکلوں میں بھی ملتے ہیں۔ محبت کے مرثیے ہی نہیں بلکہ ان کے سلام اور نوحے بھی تجویں اور مسدسوں کی شکل میں ہیں۔ اس وقت کے مریع اور مسدس مرثیوں اور بعد کے نوحوں اور سلاموں میں خط فاصل کھپینا مشکل ہے۔ لیکن سلام اور اس کے پہلے کے مرثیے پر غزل اور قصیدے کا پرو نظر آنے لگا تھا اور مرثیے کی صنف ادبی عناصر پر متوجہ ہو رہی تھی۔

محبت کی مرثیہ نگاری کے تصور کو واضح کرنے کے لیے ان کے مریع مرثیوں کے اجزاء کا متنوع طرز بیان ملاحظہ ہو۔

دریائے غم کوں طوفاں لایا مہ محرم  
شہ کا محبت ہے گریاں انکھیاں ہیں اٹک میں نم  
ہے جا بجا میں ماتم، شاید سنے ہیں ہر دم  
فریاد کرbla میں بیہات وا حسینا!



اے محبت ذکر شہیداں میں زماں کر موبو  
اور وہی ماتم سیں رو رو کر تو پیدا آبرو

گرم ہے بے مقدار کہ شد کے کرم میں آرزو  
فضل سے بخشش کریں وہ اپنے حب، کا اقتدار

جو مسدس مرثیے ملتے ہیں وہ دراصل ترکیب بند کی نوعیت کے ہیں۔ شیپ کا بند بھی فارسی میں ہے اور بھی اردو میں، لیکن بند کے پہلے چاروں مصرعے ہم قافیہ نہیں ہیں، صرف تین مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن ایک بند کے بعد بدل جاتے ہیں۔ ہر بند کے چوتھے مصرعے باہم ہم قافیہ لیکن پہلے تینوں مصراعوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ چوتھے مصراعوں کے ہم قافیہ ہونے کی قیدروانی میں شایدی خل ہوتی رہی ہو، اس لیے بعد میں ہشادی گئی اور چاروں مصرعے ہم قافیہ ہونے لگے۔ ان کا مسدس بالا مراثی کا نمونہ دیکھئے

روتے ہیں محبت شاہ کے سب تعریف داراں      نت ابر کی آنکھوں کریں اشک کے دھاراں  
ہے آتشِ دوزخ کے بجانے کا یہ باراں      فرمائے ہیں دو تشنہ لب ساقی کوثر  
سر در سر راہ تو فدا شد چہ بجا شد  
ایں بارگراں بود ادا شد چہ بجا شد



ہے قیام الملک میں فرماش مدح امام      جس کے مطلع کو دیے صھاصام دلہنے قیام  
حسن مطلع سے محبت مقطوع کیا ہے اختتام      اور حرم بولہ میں ظالم ستاتے ہو عبیث  
با غ امید علی کا یک قلم پامال ہے  
یا رسول اللہ تمہاری آل کا یہ حال ہے

مندرجہ بالا مراثی سے ظاہر ہوا ہے کہ زبان پہلے سے صاف ہے اور مرثیہ نگار قتل خویوں کی طرف بھی متوجہ ہوئے ہیں۔ ”بیاض سعودی“ میں بھی محبت کے دو مرثیہ ملتے ہیں، دونوں مرثیے بطور قصیدہ لکھے گئے ہیں۔ ممکن ہے یہ دوسرے کوئی شاعر ہوں کیونکہ ان مرثیوں کی زبان فارسی آمیز ہے جو دیگر مراثی سے مختلف ہے۔

اے دریغا ظلم بر سلطان ہوا خاندانِ مصطفیٰ میراں ہوا  
بیت مجھ کوں اے محبت صبر و قرار اس الم سوں جان و دل بریاں ہوا



مارا گئی امام عالی تبار دردا تھا مرتشی علی کا وہ یاد گار دردا  
جب سوں غروب گشته مہر پسہر احمد تب سوں ہوا ہے عالم تاریک دتار دردا  
ہوتا محبت جو میں اس روز کر بلا میں کرتا امام دیں پر جاں را شمار دردا  
مندرجہ بالامحتب کے تمام مرثیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرثیہ کے مروجہ انداز کے علاوہ انہوں  
نے مرلح میں بیت جوڑ نے کی طرف خاص توجہ کی ہے۔ اگرچہ مسکین کے یہاں بھی اس کی  
مثال ہے لیکن محبت نے صرف بر ج ہجاشایافارسی کے ابیات نہیں جوڑے بلکہ اردو کی بیت بھی  
جوڑی ہے اور اس طرح مسدس کی طرف قدم اٹھایا ہے۔

موت نے کی عرض سرو رذوالجناح تیار ہے سرکشانے اب چلوں میں تمہاری بار ہے  
تب کہا شہ نے سکینہ سوی یا ہشیار ہے لاڈل لے بیکسواب ہے جدائی کی گھڑی  
ملنا ہے یہ آخری کر لے مجھ سے میں  
کل روئے گی لاذلی کر کے ہائے صیئن

حضرت قاسم کے مرثیے میں ہندوستان کی مروجہ رسولوں کو واقعات کر بلا سے ملا کر محبت نے  
بڑی خوبی سے اس واقعہ کے درد انگیز پہلو کو ابھارا ہے۔ دکن میں اس قسم کی مثالیں تو نظر آتی  
ہیں، لیکن شمالی ہندوستان میں محبت نے اس میدان میں قدم رکھ کر مرثیہ کو پر اثر بنا�ا ہے۔

#### سودا (1118ھ سے 1195ھ)

سودا نے اپنی فطری صلاحیتوں سے کام لے کر مرثیہ نگاری کو پر تاثیر بنا�ا۔ سودا کے  
مراٹی پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بیت اور مواد میں بہت سے تجربات کیے  
اور اسے طرح طرح کے سانچوں میں ڈھالا۔

سودا کے کلام میں الحاقی عنانصر بھی مل گئے ہیں۔ سودا کا کلیات پہلی بار 1270ھ  
1853 میں چھپا۔ بعد کی اشاعتیں میں اس میں مزید اضافہ اور الحاق ہوتا رہا۔ سودا کے مروجہ  
مطبوعہ کلیات میں اکیانوے مرثیے تھے۔ لیکن ڈاکٹر محمد حسن نے نیا کلیات سودا مرتب کیا ہے۔

اس کی جلد دوم تمام تر سلام و مراثی پر مشتمل ہے۔ ان مراثی وسلام کی تعداد بڑھ کر ایک سو تین تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں اخہارہ مرثیے ایسے ہیں جن میں مہربان خاں بطور تخلص آیا ہے۔ محمد حسن نے لکھا ہے ”اس سے خیال ہوتا ہے کہ یہ مرثیے سودا کے بجائے مہربان خاں کی تصنیف ہوں گے، لیکن یہ بات بھی پیش نظر کمی جانی چاہیے کہ امراء کے نام سے مراثی وغیرہ لیں کہنا قدماء کے یہاں عیب میں داخل نہیں تھا۔ لیکن علی جواد زیدی لکھتے ہیں:

”لیکن انھیں امراء میں ظفر، ناظم، ہوس اور آصف الدولہ بھی

شامل ہیں اور ان کا شاعر ہونا مسلمات میں سے ہے۔ پھر مہربان کیوں نہیں؟ ان کے مرثیے الگ سے بھی ملے ہیں اور میں نے دیکھے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ مہربان تنہا سوداہی کے شاگرد نہیں تھے، سوز کے بھی تھے۔ دونوں کے بارے میں بھی افواہیں تھیں کہ وہ مہربان کو لکھ کر دیا کرتے تھے۔ اگر شبہ ہی کرنا ہے تو ان مراثی میں سے بعض کو سوز کا عطیہ کیوں نہ سمجھا جائے“<sup>1</sup>

بہر حال اگر ان کو کلیات سودا سے خارج بھی کر دیا جائے تو بھی سودا ایک اہم مرثیہ نگارثابت ہوتے ہیں۔

مسجح الزماں لکھتے ہیں:

”سودا کے کلیات میں ان کے مرثیوں کی تعداد 72 ہے تر ہے

جن میں چھ مفرد مسدس اور مختص ہیں۔ چھ متفرق شکلوں میں ہیں اور

48 مرثیں میں۔ ان کے علاوہ 12 سلام ہیں“<sup>2</sup>

سودا مرثیے کو صرف اظہار عقیدت کا آلنہ نہیں بنانا چاہتے تھے، بلکہ وہ اسے شاعری کی ایک صنف سمجھ رہے تھے اور ان نقائص کو دور کرنا چاہتے تھے، جن پر اس وقت دھیان نہیں دیا جاتا تھا۔ مرثیوں کو ایک نیا موڑ دینے میں ان کا بڑا دھل ہے۔ انہوں نے مرثیے کی ساخت

<sup>1</sup> ”دہلوی مرثیہ گو“، جلد اول: علی جواد زیدی، ص 237-238۔

<sup>2</sup> ”اردو مرثیے کا ارتقاء“: مسجح الزماں، ص 110۔

میں تنوع پیدا کرنے کی کوشش کی اور مختلف مضامین شامل ہے۔ مناظر جنگ جنگیں اور انیس کے یہاں ارتقائی منزلیں طے کرتے ہیں، ان کے ابتدائی نمونے سودا کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ سودا نے جنگی مناظر کو باقاعدہ جگہ دی..... افراد مرشید کو ہندوستانی معاشرت کے روپ میں پیش کیا۔ شادی بیاہ کے مراسم، تلگا، لگن، دھرنا، یوہ کے جذبات، افراد مرشید کی رفتار، گفتار پر بھی ہندوستانی زندگی کا رنگ بھر دیا۔ موضوع کے اعتبار سے جتاب قاسم کی شادی سب سے زیادہ ان کی توجہ کا مرکز بنتی۔ مندرجہ ذیل مرثیے اسی سے متعلق ہیں۔

- 1۔ یار و تم تو یہ سنو چرخ کہن کا (مریع)
- 2۔ نی یہ شادی بیاہ کی کس کے تو نے فلک اٹھائی ہے (مریع)
- 3۔ کہایہ دل کو میں راضی ہے کیوں تو چشم پر نہ سے (خیس)
- 4۔ جاؤ بھرے اے بزرے قاسم بزری گھر میں رو دے (مسد)
- 5۔ کیا کروں شادی قاسم کا میں احوال رقم (مسد)
- 6۔ بنے قاسم کو مہدی لگانے کی نہ دی فرصت (مریع)
- 7۔ کس دن اس شادی نے پایا تھا قرار (مریع)
- 8۔ کہوں کس سے فلک کی بے وفائی (مریع)

موضوع کی یکسانی کے باوجود ان کے یہاں بیان کا تنوع قائم رہتا ہے۔

آرائش اب اس بیاہ کی میں کیا کروں اظہار  
کس طرح تختی وہ چشم خلاائق میں نمودار  
ہر زخمی کی وال گھاث تھی اک تختی گلزار  
ہر ہاتھ پ چادر تھی گویا رشک پہن کا



کیا کروں شادی قاسم کا میں احوال رقم واسطے دیکھنے کے آری مصحف جس دم  
بیاہ کی رات رکھا تختت پ نوشہ نے قدم گائے تقدیر و قضا نے یہ بدھاوے باہم  
قاسم امرگ جوانانہ مبارک باشد  
جلوہ شمع پروانہ مبارک باشد

سودا نے اپنے مرثیوں میں سماجی زندگی کا عکس گہرا کیا، رسوم کی تفصیل بڑھادی اور مرثیوں کے لیے ایسی دھنیں اختیار کیں جن میں بعض شادی کے گانوں کے لیے خصوص تھنیں۔

سودا کے زمانے تک مرثیہ میں کوئی تمہید نہیں ہوتی تھی، لیکن سودا نے اپنے اکثر مرثیوں میں تمہید نظم کی۔ قصیدہ گوئی کی وجہ سے انھیں تشیب لکھنے کی عادت پڑی ہوئی تھی، لیکن بعد میں انھیں تمہیدوں میں اضافہ کر کے چھپہ بنادیا گیا۔

کس سے اے چرخ کھوں جا کے تری بیدادی      ہاتھ سے کون نہیں آج ترے فریادی  
جو ہے دنیا میں سو کہتا ہے مجھے ایذا دی      یاں تک پچھی ہے ملعون تری جلادی  
کون فرزید غلی پر یہ ستم کرتا ہے  
کیوں آفات سے اس کے تو نہیں ڈرتا ہے

شہادت کے بیان میں اکثر شعرا امر میئے کو مبکی بنانے کے لیے شہدائے کربلا کو ان کے مرتبے سے گردیتے تھے، سودا نے اس کی مخالفت کی۔

”لازم ہے مرتبہ درنظر رکھ کر مرثیہ کہنے برائے گریے عوام خود کو ماخوذ کرے۔“  
ڈاکٹر حفیظ انجمن نے اپنی کتاب ”مرزا محمد فیض سودا“ میں مرثیے کے اجزاء ترکیبی بیان کرتے ہوئے سودا کے کلام سے مثالیں پیش کی ہیں۔ ان مثالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سودا کے مرثیوں میں مرثیوں کے تمام اجزاء پائے جاتے ہیں مثلاً تمہید، سرایا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور میں۔ لیکن یہ اجزاء مختلف مرثیوں میں بکھرے ہیں۔ سودا کا کوئی مرثیہ ایسا نہیں، جس میں مرثیے کے مذکورہ بالا تمام اجزاء بیجا ہوں، لیکن یہ کی صرف سودا ہی کے یہاں نہیں، تمام مرثیہ گوشے راء کے یہاں ہے۔

ڈاکٹر محمد حسن نے سودا کے مرثیوں کو تین اقسام میں بانٹا ہے:

1- عوامی: ان کا لالب والہ جو نہ صرف روز مرہ کی بول چال سے بہت قریب ہے، بلکہ خیالات و جذبات کی سطح بھی زیادہ بلند نہیں۔ ان میں وہ مرثیے بھی شامل ہیں جو کتنی، پنجابی، بر ج بھاشا کے دوہوں سے مملو ہیں اور ایسے مرثیے بھی ہیں، جو بولی ٹھوپی میں لکھے گئے

ہیں۔ اس ذیل میں متعدد منفردہ مراثی بھی آتے ہیں۔ ۱

۲۔ قصیدہ نما مرثیہ: جن میں ادبی شان پیدا ہو گئی ہے۔ اس قسم کے مرثیوں میں سودا نے تجھیں کی رنگ آمیزی کی ہے اور انداز بیان زیادہ پر جوش اور رنگین ہے۔ ان مراثی میں تشیب و گریز کے ادب کو پوری طرح شان و شوکت کے ساتھ برداشت گیا ہے۔

۳۔ واقعہ نگاری کر مرثیہ: یہ مراثی ہیں جن میں قومی واقعہ یا اس کی جزوی تفاصیل بیان ہوتی ہے۔ کربلا کے واقعات میں جناب قاسم کی شہادت، علی اصغر کی شہادت، محضرات عصمت کی اسیری، امام زین العابدین کا طوق وزنجیر پہن کر کربلا سے شام تک جانا اور خود امام حسین کی شہادت کی تفصیل کا بیان ملتا ہے۔

سودا کے زیادہ تر مراثی ہیئت مرلح میں ہیں۔ مرلح کی شکل میں سودا نے تحریب اور اضافے کیے۔ سراپا، تہہید، رزمیہ وغیرہ کی ابتداء کی اور مرثیے کو مسدس کی شکل میں مقبول بنایا۔ اثر لکھنؤی لکھتے ہیں:

”جہاں تک تحقیق ہو چکی ہے سودا ہی پہلا شاعر تھا جس نے

صرف مسدس میں مرثیہ کہا۔ ۲

سید میر حسن دہلوی کی یہ رائے قابل غور ہے۔

”سودا بظاہر بہت مذہبی آدمی نہیں تھے اور مرثیہ نگاری انہوں

نے حصول دولت کے لیے بھی نہیں کی۔ پھر وہ کون سا محرك تھا جس

نے انھیں اس فن میں باقاعدہ غور کر کے نئی راہیں نکالنے پر آمادہ کیا۔

اس کا سبب سودا کا غیر معمولی تقیدی شعور بھی ہو سکتا ہے۔ ۳

### میر

میر نے مرثیے مسدس، مرلح، ترجیح بند، ترکیب بند اور منفردہ لکھے ہیں۔ جن میں

۱۔ ”کلیات سودا“: مرتبہ محمد حسن

۲۔ ”انہیں کی مرثیہ گوئی“: اثر لکھنؤی، ص ۴۔

۳۔ ”سودا کی مرثیہ نگاری“: میر حسن دہلوی، مشمولہ مضمون ”اردو مرثیہ“، مرتب: شارب رو دہلوی، ص 385۔

مرنج زیادہ ہیں۔ ترکیب بند مرثیہ میں پارہ بند ہیں، جو حتمہ کاشی کے مشہور مرثیے کے انداز میں لکھا گیا ہے۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب کے ذاتی کتب خانے میں کلیات میر کا جو قلمی نسخہ تھا، اس میں میر کے 39 مرثیے اور سلام تھے۔ رضا لاہوری رام پور والے نسخے میں نور اٹی موجود ہیں، ان میں دو ایسے ہیں جو مسعود صاحب والے نسخے میں نہیں۔ یہ آکتا ہے میر اٹی، میر اٹی میر کے نام سے شائع ہو گئے ہیں۔ انھیں معز الزماں صاحب نے مرتب کیا ہے۔

”میر نے واقعہ کر بلا کوسادگی سے بیان کیا ہے۔ سید ہے سادے تعزیت کے مضامین ہیں۔ یہ سب مضامین اقسام شعری سے پاک ہیں۔ کلام صاف سترہ ہے عوام کے ساتھ ساتھ خواص بھی اس سے حظ اٹھاسکتے ہیں۔ حضرت علی اصغر کا حال، امام حسین کی شہادت اور اس کے بعد کی لوٹ، حضرت عباس کی اسیری، حضرت قاسم کی شادی وغیرہ کا بیان سادگی اور دروغگیزی کے ساتھ کیا ہے۔ تسلیم کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔

ان کے مراٹی میں مقصد شہادت کا احساس بھی ہے۔ مرثیے کو صرف بیان مظلومی تک محدود نہیں کیا، بلکہ ان واقعات کا بیان کیا ہے، جس سے امام حسین کی امن پسندی، جاہ و ثروت سے بے نیازی ظاہر ہوتی ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام کے دل میں ملک گیری کی ہوں بالکل نہ تھی اور نہ ہی انھوں نے جان بوجھ کر اپنے کو ہلاکت میں ڈالا بلکہ اصول کی حفاظت کے ساتھ اپنے کو بچانے کی کوشش کی اور ترکِ وطن کی تجویز بھی رکھی لیکن فوج مخالف کا جواب یہ تھا۔

اگر آب ہو جائے سارا جہاں نہ معلوم ہو کچھ زمیں کا نشاں  
تھے بوند پانی نہ دیں اے جوان مگر تو اطاعت کرے لامکاں



یہ سن رکھ کہ ہم لوگ ہیں لشکری نہ جانیں ہیں دیں کو نہ پیغمبری  
ہمیں کوئی کچھ دے کرے سروری اشارت کرے تو کریں قتل عام  
ایک مرچیہ مسدس کی ہیئت میں ملاحظہ ہو۔

حسین ابن علی عالی نسب تھا سزاوارِ عزت و باب ادب تھا  
جنا و جور کا شائستہ کب تھا سلوک اسلامیاں سے یہ عجب تھا  
کہ اس مہماں کی عزت نہ کسیجے  
خیانت آک طرف پانی نہ دیجیے



کرے عابد کہاں تک غم گساری جیسے بیماری و تن کی نزاری  
کچھی ہے دور تک اپنی نہ خواری انھانا پاؤں کا اس پر ہے بھاری  
ہوایے حال میں کیوں کر دلاسا  
کرے کس کی دل داری وہ پاس آ  
علی جو اذی یہی لکھتے ہیں۔ ”سونا ہی کی طرح میر بھی ولی کے رشائی اکتسابات لکھنؤ  
تک پہنچاتے ہیں اور مستقبل میں ہونے والی تبدیلیوں کی راہ، ہمارا کرتے ہیں۔ ۱۔  
میر حسن، شیر علی افسوس، حیدر بخش حیدری، اس عہد کے مرثیہ گویوں میں قابل ذکر  
ہیں۔ انہوں نے دہلوی انداز کے مرثیے لکھے ہیں۔ ان سب میں میر حسن، حیدر بخش حیدری  
متاز ہیں۔

### میر حسن

پروفیسر سعود حسن رضوی ادیب مرحوم کے ذخیرہ مراثی میں (جواب مولانا آزاد  
لامبری علی گڑھ کو منتقل ہو چکا ہے) میر حسن کے تین مرثیے، دو بھکل مرلح اور ایک بھکل  
سدس محفوظ ہیں۔ مرلح مرثیوں میں ایک میں ۳۷ بند ہیں اور دوسرے میں ۳۳ بند ہیں۔  
سدس مرثیے میں 26 بند ہیں۔

37 بند کے مرثیے میں تقریباً آدھے مرثیے میں جناب سکینہ اور ان کی ماں کی گفتگو  
ہے، جس میں امام حسین کی شہادت کی خبر سن کروہ ان کے بارے میں دریافت کرتیں ہیں اور

۱۔ ”دہلوی مرثیہ گو“۔ جلد اول: علی جو اذی یہی، ص 123۔

ماں صبر کی تلقین کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اہل حرم کی شام سے کربلا کی واپسی کا بیان ہے۔

امام سے خطاب کر کے حضرت نبی اور شہر بانو کے میں ہیں۔

جب سکینہ نے شاگھر میں کہ وہ سرو گیا یعنی جنت کو پیاسا سطہ پنیر گیا  
شنتے ہی یہ ماجرا ہوش اس کا تو یکسر گیا رو رو کر بولی اماں! بابا مرا کیدھر گیا



تو تو کہتی تھی کہ جنت کو گیا پیاسا غریب مجھ کو تندہ پھوڑ کر جاتا تو ہے اس سے عجیب  
اور گیا ہے وہ تو بلوائے گا مجھ کو عنقریب یوں ہی ہو گائج، یہ خطرہ اب مرے دل پر گیا  
مرلئے رہیے میں تسلسل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو مریشہ مسدس کی ہیئت میں ہے،  
اس میں یہ دشواری دور ہو گئی ہے اور روانی قطعی طور پر زیادہ ہے۔

جب دشت میں شبیر کا شکر گیا مارا حرقل ہوا، قاسم مضطرب گیا مارا  
اور نہر پر عباش دلاور گیا مارا ابیر گیمارا، علی احتڑ گیا مارا  
کیا دکھلے لو لاک کے پیارے پہنچے تھے  
دروازہ نخیسہ پر کر پکڑے کھڑے تھے



فرماتے تھے ب کیا کھل میں بدے خلیا امت نے محمدؐ کی یہاں تک ہے ستایا  
احتر مرا ترپا کیا پانی نہ پلایا میں لب پر ترے شکر سوا کچھ نہیں لایا  
مرضی وہی میری ہے جو کچھ تیری رضا ہے  
معبدو ترے نام پر گھر بار فدا ہے



خاموش حسن اب کہ ہے رقت مجھے طاری کر عرض یہ سرور سے کہ اے عاشق باری  
حل بہر خدا کر تو مری مشکلیں ساری اس غم سے لگازم مرے دل پر ہے کاری  
سرکار سے اس ذخم کا مرہم مجھے مل جائے  
مطلوب مرا یا شاود دو عالم مجھے مل جائے

زبان میں سلاست روانی بتا رہی ہے کہ ”حرالبیان“ والے میر حسن کی ہے۔ علی جواد زیدی لکھتے ہیں:

”اس میں شک نہیں کہ میر حسن نے زندگی کا بیشتر حصہ لکھنؤ، فیض آباد وغیرہ میں گزارا اور دہلی میں صرف بارہ چودہ برس ابتدائی گذرے، لیکن چونکہ خود میر حسن کو اور عام تذکرہ تو یہوں کو میر حسن کی دہلویت پر اصرار تھا، اس لیے ان کا ذکر دہلوی مرثیہ گویوں کے زمرے میں کر دیا گیا اور نہ جائز طور پر ان کی جگہ مرثیہ گویاں لکھنؤ میں ہے۔“ ۱

### حیدر بخش حیدری

”گل مغفرت“ میں حیدری کے جو مرثیے شامل ہیں، ان میں دو مشتوی کی شکل میں ہیں، باقی تصدیہ اور غزل کے روپ میں۔ فضلی کی ”کربل کتھا“ کے طرز پر ”گل مغفرت“ ترتیب دی گئی ہے۔ چونکہ اس میں بارہ مجلسیں اس مقصد سے ترتیب دی گئی ہیں کہ انھیں عشرہ محرم میں پڑھا جائے، اس لیے عزاداری کے لحاظ سے پہلی چار مجلسیں رسول خدا، حضرت علی، جناب قاطمہ اور امام حسن کے حال میں ہیں۔

حیدری کے مرثیے غزل کی صورت میں ہوتے ہوئے بھی ان میں موضوع کی یکسانی ہے۔

اے عزیز واب علی، اکابر بھی میداں جائے ہے  
یہ تن شیر سے باور کرو جاں جائے ہے  
ہے نظر ہر اک کی جو یعقوب نیچے کی طرف  
اے عزیز و یہ مرا یوسف زکنعاں جائے ہے  
وقت گریہ ہے یہی اے عندلیبِ دل بجوش  
با غ میں آئی خزان یہ گل زبتاں جائے ہے

۱ ”دہلوی مرثیہ گو“، جلد اول، علی جواد زیدی، ص 376۔

چند ایسے مرہیے ہیں جن میں جنگ کا بیان ہے، گھوڑے کی تعریف بھی  
ہے۔ یہ مرہیے منوی کی طرز پر لکھے گئے ہیں۔ مثلاً۔

تئے جو ہردار کا میں کیا کروں اس کا بیان  
آگ قہر کنے میں اور چلنے میں جوں آپ رواں  
کارِ آتش گاہ کرتی گاہ کرتی کارِ آب  
آب و آتش ہی سے تھی اس میں سرسر آب ڈاب  
نعل وہ خارا شکن رکھتا تھا اس کا اسوار  
خون سے روئیں توں کے دشت کرتا لالہ زار

لیکن ایسی مثالیں ایک ہی دو ہیں۔ پروفیسر سعیح الزماں کے الفاظ میں ان میں نوحہ زیادہ  
مناسب ہو گا۔

وہی کے مرہیے غزل کی صورت میں محض مرہیوں سے شروع ہو کر موضوع اور بیت  
دونوں میں تجربوں کی صورت سے گذرتے۔ بیت کے اعتبار سے قصیدہ، مریخ، ترجیح بند،  
ترکیب بند، مقص، ممتاز، مسدس کی صورت میں مرہیے لکھے گئے۔ مسدس اور مقص میں ایسے  
مرہیے بھی لکھے گئے، جن میں فارسی یا بریج بھاشا کی بیت یا آخری مصرع بھی ترجیح کے طور پر  
استعمال کیا گیا۔ بعض مرہیوں میں چار مصرع ایک بھر میں ہیں اور بیت دوسرا بھر میں۔  
موضوع کے اعتبار سے مسلسل مضمایں بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ سودا، میر اور محبت  
کے یہاں سماجی زندگی کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں۔ سودا نے موضوع اور بیت دونوں میں  
تجربات کیے۔ اس دور میں اردو کا مرہیہ گو نویسٹ کی تلاش میں ہے۔ بقول سفارش سین رضوی :

”اس دور میں نظم کی ہر شکل میں مرہیہ کہا گیا، یہاں تک کہ تحریر  
طویل بھی نہیں پہنچی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دور مرہیے کے پیکر کی  
تلاش میں تھا۔ نظم کی ہر شکل کو آزمایا گیا تاکہ جس کو بہتر اور موثر پایا  
جائے اسے اس صفت کلام کے لیے جوں لیا جائے۔“

(ایدیو مرہیہ سفارش سین، جس 193)

## (ب) فیض آباد اور لکھنؤ میں مرثیہ گوئی

اووہ کی مرثیہ گوئی اور عزاداری کے متعلق عام رائے یہ رہی ہے کہ نواب آصف الدولہ 1775 کے آس پاس پایہ تخت فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کرنے پر جہاں اور بہت سی تبدیلیاں اور تمدنی سرگرمیاں شروع ہوئیں، مرثیہ اور عزاداری کا بھی رواج ہوا۔ حالانکہ برہان الملک سید محمد امین نیشاپوری (جو سعادت خاں کے خطاب سے مشہور ہیں) کے دور سے ہی اووہ میں ایرانی اثرات زور پکڑنے لگے تھے۔ شجاع الدولہ کے عہد میں عزاداری باقاعدہ ہونے لگی تھی۔ بجم افغانی کا بیان ہے:

”حرم کے زمانے میں شجاع الدولہ سیاہ پوش ہوئے اور سید

جماعت کے ساتھ جن کے سرو پا برہنہ تھے ماتم کرتے ہوئے احمد شاہ کی فردگاہ کے سامنے سے گذرے۔ ان لوگوں کے کندھوں پر علم تھا اور سینہ کوئی کرتے تھے اور علائی نوحہ کی آواز زبان سے نکلتے تھے۔“ ۱

اس بیان سے ظاہر ہے کہ شجاع الدولہ کے دور میں عزاداری شروع ہو چکی تھی۔

شجاع الدولہ کے انتقال کے بعد (1775) آصف الدولہ نے لکھنؤ کو (1776) پایہ تخت قرار دیا۔ جس سے لکھنؤ میں عزاداری کا رواج زیادہ عام ہو گیا۔ اس رواج میں مذہب کی تینیں تھیں۔ عزاداری لکھنؤ کی زندگی میں ایک تہذیب و ثقافت کی شکل میں رج بس گئی تھی۔

۱ ”تاریخ اووہ“، جلد دوم، بجم افغانی رام پور، ص 56۔

عزاداری کے اس فروغ نے شاعروں کو مرثیہ گوئی کی طرف متوجہ کیا۔ اس دور کے مرثیہ نگاروں میں حیدری، سکندر، گدا، احسان اور افسر دہ اہم ہیں۔  
ڈاکٹر سعیح الزماں نے اس دور کو تین ادوار میں تقسیم کیا ہے:

پہلے دور کو ”دور آغاز“ کا نام دیا ہے، جس میں حیدری، سکندر، گدا، احسان، افسر دہ وغیرہ کو شمال کیا ہے۔ اس دور میں واقعہ کربلا کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر کے پیش کیا گیا۔ مرثیہ ایک شبیہ یا ایک واقعہ پر مبنی ہونے لگا اور اس میں ابتداء اور خاتمے کی منزل دکھائی جانے لگی۔ بیت کے اعتبار سے اس دور میں مسدس کو ترجیح دی گئی۔ گدا اور سکندر کے یہاں البتہ بیت کے کچھ تجربے ملتے ہیں، لیکن اکثر ان لوگوں نے بھی مسدس ہی کی بیت اپنائی۔ مسدس کے پہلے چار مصروعوں کی یکسانی اور شبیہ کے دو مصروعوں میں روایف و قافیہ کی تبدیلی ایک ایسا انتار چڑھا دی پیش کرتی ہے کہ جس سے واقعات کے بیان میں ٹھہرا دی پیدا ہوتا ہے۔ مشتوی کے اشعار کی یکسانی مسدس کے مقابلے میں بے کیف معلوم ہوتی ہے۔ مسدس کا انتخاب اس دور کا اہم قدم ہے۔ محس ساخت کے اعتبار سے ایک مختصر الایہ بلکہ کی صورت میں پیش کیا گیا۔ جذبات کی عکاسی پر زیادہ زور دیا گیا اور رخصت پر خاص توجہ کی۔ جذبات کو ابھارنے کے لیے اس دور میں مقامی رنگ بھی نظر آتا ہے۔ مرثیے چونکہ جن سے پڑھے جاتے تھے، اس لیے میں چالیس بند سے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔

دوسرے دور کو ”دور تغیر“ کا نام دیا ہے۔ اس دور کے اہم شعراء غلیق، ضمیر، فضح اور دلگیر ہیں۔ اس دور میں مرثیے کا ڈھانچہ مکمل ہوا۔ لکھنؤ کے ادبی مذاق نے مرثیہ کو وسعت بخشی۔ تحت اللفظ خوانی کے رواج نے مرثیے کو طوالت بخشی۔ واقعات تفصیل سے بیان ہونے لگے۔ مناظر اور واقعات ایک اندر ورنی ربط کے ساتھ بیان ہونے لگے۔ جذبات نگاری کی طرف توجہ ہوئی اور رخصت اور شہادت کے بیان میں نفیسات کا داخل ہو گیا۔ جنگ کے مناظر کی تفصیل کے علاوہ سماجی زندگی کے بہت سے پہلو و کھانے جانے لگے۔ اس دور میں مرثیہ کی ظاہری بیت تو مسدس ہی رہی، مرثیے کی داخلی بیت بھی متین ہو گئی۔ اس دور کے آخر تک مرثیہ کا جو ڈھانچہ متین ہوا اس کے اجزاء تھے:

(۱) چہرہ (۲) ماجرا (۳) سر اپا (۴) رخصت (۵) آمد (۶) رجس (۷) جگ (۸)

شہادت (۹) بین

مریئے کا یہ ڈھانچہ ایک دن میں مکمل نہیں ہوا بلکہ دکن سے لکھنؤ تک ہیئت اور مواد میں جو تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ مریئے کی صورت انھیں تجربات کا نتیجہ ہے۔ بقول سعیح ازماں:

”مریئے کے اجزاء کا تعین ایک دن میں نہیں ہوا اور نہ یہ کسی

ایک فرد کا کارنامہ ہے۔ اس کی تشكیل ارتقائی طور پر ہوئی ہے۔ مرزاسے

ضمیر تک اردو کا مریئہ گو ہیئت کی تلاش میں سرگردالا ہے، اس کی اندر ورنی

ترکیب کے لیے ایک طرح کے تخفیقی کرب سے گذر رہا ہے۔“<sup>۱</sup>

میر ضمیر تک آتے آتے مریئے کا ڈھانچہ مکمل ہو چکا تھا۔ سفارش حسین رضوی لکھتے ہیں:

”میر ضمیر نے (ان سب باتوں پر غور کر کے) مریئے کا نیا

کینڈا تیار کیا، جس میں چہرے کو سب سے پہلے جنم لی۔ پھر سر اپا آیا،

اس کے بعد گھوڑے اور تھیاروں کی تعریف، جس میں ان کا سر اپا لکھا

جاتا ہے، جگ کا رزمیہ انداز میں بیان۔ واقعہ نگاری، اس طرح ضمیر

نے مریئے کو نیا چولا عطا کیا اور مریئہ گوئی کو مستند فن بنادیا۔“

اس دور میں مریئے کا جو ڈھانچہ مردوج ہو گیا۔ اس میں جو اجزاء ہوتے تھے ان کی

تفصیل کا یہاں موقع نہیں، اتنا ضرور ہے کہ مریئے کے رزمی و صفت کو ضمیر ہی نے چہلی پار

محسوس کیا اور اس کے وسیع تر امکانات پر ان کی نگاہ بھی تھی، مگر جگ کے دوران اس کی

کیفیات چیل کرنے میں انھیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔

اس دور کے مریئے کی عام شکل مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ لمبائی کے لحاظ سے

پونے دوسو بند تک ہے۔ بیت میں ردیف کا اہتمام بھی ہے اور بخروں میں بہت سے تجربے

بھی کیے گئے ہیں۔ مریئے کی اندر ورنی ساخت کی تنظیم ہوئی۔ اندر ورنی ساخت کا اس دور میں

مکمل ہونا مریئے کے مستقبل کے لیے سب سے اہم قرار پایا اور اسی نے آنے والی نسلوں کے

<sup>۱</sup> ”اردو مریئے کی روایت“، ذا کنز سعیح ازماں

لیے راستہ کھولا۔

تیسرا دور انہیں، دیر، عشق اور تعشق کا دور ہے۔ یہ مریشیہ کا دورِ عروج ہے۔  
اس دور میں مریشیہ نے ایک ایسی شکل اختیار کر لی، جس میں الیہ کی طرح ابتداء عروج اور  
خاتمه ہوتا ہے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے بعض مصنفین نے مریشیہ کو ڈرامہ کہا ہے اور دونوں  
میں مانشیت ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ ڈائٹر صدر آہ ”فردوسی ہند“ میں لکھتے ہیں:

”میں مریشیہ کو تمثیل (ڈرامہ) کہنے پر مکر رزور دینا ہوں۔“ ۱

ڈرامے کے سلسلہ عنصر قصہ کردار، مکالمہ، تصادم، کشکش اور عمل ہیں اور اچھے  
مریشیہ کے نمایاں عنصر چہرہ، سر اپا، رخصت، آمد، رجز اور بعد کے واقعات ہیں۔ مریشیہ  
اور ڈرامے میں بعض بنیادی فنی اختلافات کے باوجود کچھ مشابہ عنصر ضرور ہیں۔ انہیں  
مانشیت کی وجہ سے ڈائٹر شارب رو دلوی نے ”مراٹی انہیں میں ڈرامائی عناصر“ میں تحریر کیا  
ہے۔

”یہ بات واضح ہے کہ مریشیہ اور ڈرامہ الگ الگ اصناف  
ہیں۔ لیکن ان کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں گہری  
مانشیت پائی جاتی ہے۔“ ۲

مریشیہ کا سب سے اہم واقعہ امام حسینؑ اور ان کے اصحاب کی یزیدی فوج کے ساتھ  
جنگ کا ہے، جو اس سلسلہ واقعات کا منتهی بھی ہے۔ اس طرح سے مریشیہ میں لازمی طور پر  
رمیہ شاعری کے کچھ اجزاء بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طور کا کہنا ہے کہ:

”اس کا موضوع اس طرح مکمل ہونا چاہیے کہ اس میں آغاز

ہو، درمیان ہو اور انجام سب موجود ہوں۔“ ۳

دونوں اصناف میں قصہ یا واقعہ کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، رزمیہ میں کوئی بھی

۱ ”فردوسی ہند“، ڈائٹر صدر آہ، ص 84۔

۲ ”مراٹی انہیں میں ڈرامائی عناصر“: شارب رو دلوی، ص 144۔

۳ ”فن شاعری“: اس طور۔ ترجمہ عزیز احمد، ص 49۔ 50۔

تاریخی واقعہ بیان کیا جاسکتا ہے، لیکن مرثیے میں صرف واقعہ کر بلاؤ کو موضوع بنایا جاسکتا ہے۔ رزمیہ میں ہیرود کے کردار پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ رزمیہ میں اگر تاریخی واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ ہیرود کی تاریخی حیثیت مسلم ہو اور اس کے کارنا میں اہم ہوں۔ مرثیہ کی بنیاد بھی تاریخی واقعہ پر قائم ہے۔ اس کے کردار بھی تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں اثر لکھنؤی اپنی تصنیف ”انیس کی مرثیہ نگاری“ میں لکھتے ہیں:

”ایپک شاعری کی جو خصوصیات بیان کی گئیں، میر انیس کی شاعری ان تمام لوازم کو پورا کرتی ہے۔ اس کا ہیرود وہ شخص ہے جس کی عظمت دنیائے اسلام کو تسلیم ہے۔ بلکہ دوسرے مذہب والے بھی ادب اور احترام کرتے ہیں اور اس کی قربانیوں کو وقت کی نگاہ سے دیکھتے اور سراہتے ہیں۔“<sup>1</sup>

خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی واقعات کو اس میں سمویا جاسکتا ہے۔ مرثیے میں جنگ اور شہادت کے بیان کے علاوہ دوسرے اجزاء کا بیان واقعہ کی عظمت کو بڑھاتا ہے۔ ایک اور خصوصیت جو دونوں اصناف کے لیے ضروری ہے وہ سلاست اور رخصت بیان ہے۔ پروفیسر سید احتشام حسین نے مرثیہ میں رزمیہ اور ڈرامائی عناصر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کیا ہے:

”جن لوگوں نے مرثیوں کو ایپک یا ڈرامہ بنانا چاہا انھیں بھی الجھنوں کا سامنا ہوا۔ جھنوں نے یہ کہا کہ مرثیہ کو ایپک یا ڈرامہ سے دور کا بھی لگاؤ نہیں سمجھی تاکہ می ہوئی۔ کیونکہ سرسری نظر بھی دونوں میں اچھی خاصی ممتازگت اور مشاہدہ دیکھتی ہے۔“<sup>2</sup>

آگے چل کر اس طرح رقم طراز ہیں:

”واقعہ کر بلاؤ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایپک کا موضوع بنئے

1 ”انیس کی مرثیہ نگاری“: اثر لکھنؤی، ص 31۔

2 دیباچ ”میر انیس کی شاعری میں ڈرامائی عناصر“، ص 7۔

کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور ذرا مے کا بھی۔ لیکن اسے کسی شاعر نے  
بات قاعدہ اپنکا یا ذرا میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کی۔ میر انیس نے  
ایسے مرثیے لکھے جن میں دونوں کی خصوصیتیں ایک حد تک پیدا  
ہو گئیں اور مرثیہ مرثیہ رہتے ہوئے بھی ایسے عناصر جذب کرنے میں  
کامیاب ہوا جن سے اس کی حد میں وسیع ہو گئیں۔<sup>1</sup>

لکھنؤ میں میر انیس تک اردو مرثیہ ہیئت اور موضوع کے جن تجربات سے گذر اس  
کا جائزہ لیا جا چکا۔ لکھنؤ میں مرثیے کے موضوع میں وسعت ہوئی، دوسری طرف اس کی شکل  
میں بھی تبدیلی ہوئی کہ وہ مردی سے مخس اور مخس سے مسدس ہو گیا۔ مرثیے نے ترقی کی یہ  
منزل احسان، افراد اور گدا کی رہنمائی میں طے کی۔ دوسرے دور میں فصح، دلگیر، خلیق، ضمیر کی  
کوششوں سے مرثیے کا ڈھانچہ کھل ہوا۔ تیسرا دور میں انیس و دیر نے اسے اپنے عروج پر  
پہنچا دیا۔

اب ان شعرا کا مختصر اجازہ پیش کیا جاتا ہے۔

### حیدری (وفات 1753)

حیدری کے جو مرثیے ملے ہیں وہ سب کے سب مسدس ہیں۔ اور اس میں صفائی  
اور روانی ہے۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی نے ایک ایسے مرثیے کا ذکر کیا ہے۔ جس میں ہر بند  
کے چار مصروع ایک بحر میں اور بیست دو ہے کی شکل میں ہے۔ مسعود صاحب کے ذخیرے  
میں حیدری کے اکیس مرثیے ہیں۔ ایک کو چھوڑ کر بقیہ مسدس ہیں۔ بندوں کی تعداد چوتیس  
سے بیاں بند تک ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ مسدس کی ہیئت حیدری سے پہلے لکھنؤ میں مقبول  
ہو چکی تھی۔ حیدری کے مرثیے پر تہراہ کرتے ہوئے سچ الزماں رقم طراز ہیں:

”مرثیوں کی ساخت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حیدری  
کے مرثیے اسی عہد کے دہلوی مرثیوں کے مقابلے میں زیادہ منظم اور  
مربوط نظر آتے ہیں۔ ان میں رزم کا بیان بھی ہے۔ رخصت اور

<sup>1</sup> دیباچہ ”میر انیس کی شاعری میں ذرا میں عناصر“، ص 7۔

شہادت بھی اور واقعات کا ربط با قاعدہ نظر آتا ہے۔<sup>1</sup>  
 ایک مرثیے کے چند بند ملاحظ ہوں جس سے مجع الزماں کے اس قول سے انفاق  
 کیا جاسکتا ہے:

حضرت امام حسین عون و محمد کی جنگ کا حال بیان کرتے ہیں۔  
 واہری ان کی شجاعت، واہرے ان کے حواس بے حواسی تھی پھری گویا نہ ان کے گرد و پاس  
 چور تھے زخموں سے چہرے نہ تھے ان کے اداں مثل گل ہر رخصم پر کھلتے تھے یہ خالق شناس  
 سینکڑوں حریبے لعینوں کے مگر کھاتے تھے یہ  
 اور اٹھائے باگیں گھوڑوں کی بڑھے جاتے تھے یہ



جس گھڑی اہد سے لڑتے تھے سینکڑوں رہک ہد  
 تھی زمیں سے عرش تک اس دھمدائے واہ واہ  
 چین نہ تھی ان کی جمیں پر ہے خدا اس کا گواہ گہتی تھی ان کی دلیری دیکھ غلام کی سپاہ  
 سن میں تو چھوٹے ہیں پر پیڑے نالے ہیں بڑے  
 ہیں شجاعت میں یہ دنوں اپنے نانا پر پڑے  
 رخصت، آمد، جنگ، شہادت کا بالترتیب بیان حیدری کے یہاں ملتا ہے۔

سکندر: (زماد تقریباً 1740-1800)

ان کا نام محمد علی اور تخلص سکندر تھا۔ یہ اس عہد کے سب سے مقبول اور  
 معروف مرثیہ گو ہیں، جن کا ذکر اگر تو تذکرہ نگاروں نے کیا ہے۔ انھیں پنجاب کا  
 باشندہ بتایا جاتا ہے، جو بعد میں اودھ آگئے تھے۔ سکندر کے بارے میں میر حسن نے  
 لکھا ہے کہ انھوں نے پوربی، پنجابی اور مارواڑی میں بھی مراثی لکھے۔ <sup>2</sup> سکندر کا  
 سب سے مشہور مرثیہ غ

”ہے روایت شتر اسوار کسی کا تھا رسول“

1 ”اردو مرثیے کا ارقاء“: مجع الزماں، جل 149۔

2 ”تذکرہ“: میر حسن۔

کئی بار شائع ہو چکا ہے۔ یہ مرثیہ مدرس کی شکل میں ہے۔ اس مرحیے کا مضمون یہ ہے کہ امام حسینؑ کی صاحبزادی جناب فاطمہ صفری، جو علات کے باعث سفر میں شریک نہیں ہو سکیں، مدینہ میں اپنی نانی حضرت ام سلمیؓ کے ساتھ ہیں۔ وطن سے ایک قاصد کے ہاتھ خط پھیجتی ہیں، جس میں ماں باپ، بھائی بھن کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ وہ قاصد کر بلایں اس وقت پہنچتا ہے، جب امام حسینؑ تن تھال گاہ میں کھڑے تھے۔ قاصد خط صفری امام حسینؑ کو دیتا ہے، امام حسینؑ اسے پڑھتے ہیں اور ایک ایک شہید کو خاطب کر کے اپنی بیمار بیٹی کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ بڑا درناک منظر ہے جس کی تصور یہ سکندر نے پیش کی ہے۔

ہے روایت شتر اسوار کسی کا تھا رسول ان دنوں شیر مدینہ میں ہوا اس کا نزول

جس محلہ میں بھم رہتے تھے حسین و بتول ایک لڑکی کھڑی دروازے پر بیار و ملوں

خط لیے کہتی تھی پرده کے قریں زار و نزار

ادھر آتھ کو خدا کی قسم اے ناقہ سوار

ناغہاں سن شتر اسوار وہ آواز حزیں بادب آن کے کہنے لگا پرde کے قریں

کوئی اس گھر میں دلاسے کوترے ہے کنیں اتنی سی عمر میں کیا دکھ ہے تجھے اے غم گیں

کون سی قوم کی تو لڑکی ہے بیار و صیر

کیا تر انام ہے تو کس کے لیے ہے دلیر

وہ گلی کہنے کہ سن بندہ جی القیوم میرا ناتا ہے بنی دادا علیؑ باب علوم

یہ محلہ بنی ہاشم کا ہے سب کو معلوم اور میں لڑکی جو بیار ہوں دکھیا مغموم

فاطمہ صفری اسی واسطے ہے میرا نام

دادی زہر آکی اسی صورت ہے مرے منہ کی تمام

اور چچا میرا احسن زہر سے جس کو مارا بعد اس کے کوئی اس ڈیورصی کا وارث نہ رہا

ایک جیتا رہا جو میرا حسینا بابا وہ بھی بیار مجھے چھوڑ سفر کو ہے گیا

اب تلک مجھے کوئی اس کی خبر کچھ معلوم

ام سلمہ مری اب نانی ہے گھر میں مغموم

ایک تو فاقہ کشی دوسرے میں ہوں نادار      گھر میں دانہ نہیں کیا دوں تجھے اے ناقہ سوار  
 ایک مقعن ہے مرے سر پر سودیتی ہوں اتار      میں نے بخششا سے بھائی مراغٹ لے کے سردار  
 کہو بابا سے کہ ہے قاطمہ صفری بے چین  
 نام لے لے کے وہ مرجائے گی کہہ کے چین

اس لیے دیتی ہوں خط میں تجھے اے ناقہ سوار      کربلائی مجھے بو آتی ہے تجھے سے ہر بار  
 میرا بابا بھی گیا ہے گا ادھر کو ناچار      گر کبھی ہوتا اس دشت کے میداں میں گذار  
 کہو رورو کے زبانی تو مراسب سے پیام  
 بندگی میرے ہڑوں کو میرے چھوٹوں کو سلام

سکندر کے اکثر مرثیے ایسے ہیں، جن میں پہلے چار مصریوں سے بیت کے دو  
 مصرع اچھی طرح چپاں نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اکثر صحیح کاذکر کر کے جس شہید کاذکر  
 کرنا ہے، اس کاذکر اس طرح شروع کر دیتے ہیں، جیسے اس سے پہلے کسی کی شہادت ہوئی ہی  
 نہیں۔ لیکن ابتدائی خرابیاں اکثر شعراء کے یہاں پائی جاتیں ہیں۔

اکبر حیدری کے مطابق مسدس کی بہیت میں مرثیہ لکھنے والا پہلا شاعر سکندر ہے۔ وہ

اپنی کتاب ”اوڈھ میں اردو مرثیے کا ارتقاء“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”رقم الحروف کو اس بات میں تالی ہے کہ اردو میں سب  
 سے پہلے مسدس لکھنے کا سہرا سودا کے سر ہے۔ جب تک کوئی شخص  
 شہادت سامنے نہ ہو کہ مہربان کے مسدس مرثیے لکھنے کی روایت کا  
 ہیں۔ رقم الحروف کی رائے میں مسدس میں مرثیہ لکھنے کی روایت کا  
 شرف سکندر کو حاصل ہے، کیونکہ وہ اپنے تمام شعراء سودا، میر، مہربان  
 وغیرہ کے مقابلے میں سب سے اچھے اور بلند پایہ مرثیہ گو تھے۔“<sup>1</sup>

### گدا

”مرزا گدا علی نام، گدا تخلص۔ اُن کا شارقہ نیم مرثیہ گو شعراء“

<sup>1</sup> ”اوڈھ میں اردو مرثیے کا ارتقاء“، اکبر حیدری، 238 صفحہ، 1972ء۔

میں ہوتا ہے۔ گدا کی تاریخ ولادت معلوم نہ ہو سکی البتہ وہ سودا، میر،

میر حسن، افسر دہ، سکندر اور حیدری کے ہم صر تھے۔ ان کا انتقال

1234ھ (1818) میں ہوا۔<sup>1</sup>

پروفیسر سعیج الزماں صاحب کو گدا کے کل چھ مرثیے ملے، جن میں ایک مرثیہ اور

پانچ مسdes میں ہیں۔<sup>2</sup>

اکبر حیدری کو مسعود حسن رضوی کے کتب خانے سے گدا کے مرثیوں کی ایک جلد  
ٹی، جس میں 27 مرثیے ہیں اور یہ تمام مرثیے مسdes ہیں۔<sup>3</sup>

گدا کے مرثیوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مرثیوں کا کوئی مخصوص  
ڈھانچہ نہیں۔ کربلا کے واقعات میں دروانگیز پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہی ان کا خاص مقصد ہے۔  
امتدادیں کی روایت کے بعد مصائب سے ربط دینے کی کوشش نظر آتی ہے۔ سودا ان کے  
معاصر ہیں۔ حضرت قاسم کے حال کے مرثیوں میں شادی کی رسوم کا ذکر سودا نے بھی کیا،  
لیکن گدا کے مرثیوں میں ایک دوسرا سماج سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

سرے پاؤں تک بلا ٹیں مال نے اس تو شکی لے      یوں کہا قربان جاؤں اے میرے قاسم بنے  
سامنے بیٹھی ہے سالی تھوڑی کو بندی باندھنے      لومبارک پاداں کی اور اسے کچھ بیگ دے

سمحیانے کی جو یہ سب یہیاں ہیں نامہ نام

بہنوں کو تسلیم کر ساری چھپیوں کو سلام

گدا کے مرثیوں میں فارسی ترکیبیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ کھڑی بولی الفاظ کا استعمال بھی  
ہے۔ اکثر مرثیوں میں مائی، مائی، سیتی جیسے الفاظ بار بار استعمال ہوئے ہیں۔

### احسان

”میر احسان علی احسان کے حالات زندگی دستیاب نہیں۔ اکبر حیدری کے مطابق“

1 ”اوہ میں اردو مرثیے کا ارتقاء“، اکبر حیدری، ص 238۔

2 ”اوہ میں اردو مرثیے کا ارتقاء“، پروفیسر سعیج الزماں، ص 161۔

3 ”اوہ میں اردو مرثیے کا ارتقاء“، اکبر حیدری، ص 291۔

احسان کا انتقال 1254ھ میں ہوا۔<sup>۱</sup> اکثر ویشنر مرثیے جناب سید مسعود حسین رضوی کے ذخیرہ مراثی میں موجود تھے۔ ان کے یہ مرثیے مولانا آزاد لاہوری مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ میں منتقل ہو چکے ہیں۔ مرثیوں کی تعداد 108 ہے۔ یہ بھی مرثیے مدرس میں ہیں اور بندوں کی تعداد 30 سے 40 تک ہے۔ 43 مرثیے ایسے ہیں، جن کے ساتھ تاریخ کتابت بھی درج ہے۔ سب سے پرانا مرثیہ 1802 کا مکتوب ہے۔

<sup>۲</sup> سعی الزماں صاحبی کو احسان کے جو مرثیے ہیں آباد اور کتب خانہ سالار جنگ میں ملے۔ ان میں ایسے بھی ہیں، جن میں چار صدرے ایک طرح کے ہیں اور بیت کی نہ صرف بھر مختلف ہے، بلکہ اس کی زبان بھی کسی مرثیے میں اودھی سے متاثر اور کسی میں بالکل اودھی ہے۔ مدرس کی اس شکل کو بعض لوگ مدرس دہراہ بند کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مرثیے کی یہ شکل مدرس کی رواج سے کچھ پہلے کی ہے۔ پانچویں صدی کے بعد مدرس دہراہ بند کا رواج ختم ہو گیا۔

قادص صفری کی روایت پر سکندر کا مشہور مرثیہ ہے۔ ”ہے روایت شتر اسوار کسی کا تھا رسول“۔ احسان اور افسرہ نے بھی اسی روایت کو کچھ تغیر و تبدل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مگر جو مجموعات و تاثرات سکندر کے مرثیے میں ہیں، ان کے یہاں نہیں۔ احسان کے مرثیے کا ایک بند ملا حظہ، ہجۃ قادر صفری کے موضوع پر ہے۔

یہ کہہ کے اس نے ہاتھ میں خط دے کے عرض کی صفری ترے فراق میں روتی ہے دل جلی نہ دن کو پیٹھتی ہے نہ شب کو ہے لیتھتی روتی ہے اور راہ تمھاری ہے دیکھتی

آنسو کے داسنے بنا آہ کا تاگا ڈار

اس شیع میں ہے کھڑی چھتی نام تھار

احسان کے ایک اور مرثیے ”بالی سکینہ جاگی ہوئی ساری رات کی“ میں بچوں کی نفیاں کا خیال رکھتے ہوئے احسان نے جناب سکینہ کے خیالات و جذبات کا اظہار کیا ہے

۱۔ ”اودھ میں اردو مرثیے کا ارتقاء“، اکبر جیدری، جلد 203۔

۲۔ ”اردو مرثیے کا ارتقاء“، سعی الزماں، ص 166۔

کہ وہ کس طرح اپنے باپ کو جانے سے روکتی ہیں۔ یہ مظہر جناب سکینہ کی بے پناہ محبت کے ساتھ ساتھ درد والم کو ابھارتا ہے ۔

بابا جی میں تو پہلا تھارا نہ چھوڑوں گی      بابا جی میں تو منہ نہ محبت سے موڑوں گی  
بابا جی میں تو رفتہ الفت نہ توڑوں گی      تم چھوڑ جاؤ گے تو میں سراپا پھوڑوں گی  
بیبا جی زین گھوڑے پر تم کیوں بندھاتے ہو  
بیٹی کا چار سال کی کیوں جی کڑھاتے ہو

احسان بھی اپنے معاصرین گدا، حیدری، سکندر کی طرح مرشیوں میں تمہید اور مناظر جنگ کے بجائے شہادت کے مصائبین بیان کرتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے نہایت غم انگیز واقعات کو سلسلہ بھی ہوئی زبان میں بیان کیا ہے۔ اکثر مرشیوں میں انہوں نے حضرت قاسم کے حال میں ہندوستانی رسیں بیان کیں ہیں۔

قاسم کی جا کے لاش اور پھر وہ غم زدہ گھٹشوں کو نیک بیٹھ گیا کہنے یوں لگا  
تو شاہ اپنے منہ سے تو سہرا ذرا اٹھا      صفری کا نامہ آیا ہے اس میں ہے یہ لکھا

بیاہ جو تم نے کیا واں اے حسن کے پوت

نیگ میں لیئے آؤں گی منہ پر ملے بھجوت

ان مرشیوں میں ننانجی، بابا جی وغیرہ الفاظ کا استعمال اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خواص سے زیادہ عوام کے لیے لکھے گئے ہیں۔

ایک مریبی میں امام حسین کے کربلا پہنچے پر خواتین کے دلوں میں جو خدشات پیدا ہوئے اسے بڑی خوبی سے پیش کیا ہے

اے بھائی کیس جائے اور کیسا ہے یہ مقام      جو پانی کا بیہاں نہیں ملتا کسی کو جام  
اے بھائی نخے بچے تھار پے ہیں تشنہ کام      گھر سارا مارے پیاس کے بھی ہو چلا تمام

ہم بے کسوں پر رحم برائے خدا کرو

اے بھائی چل کے ندی پر خیمہ بھرا کرو

نہب ابھی یہ کہتی تھی پچشم اٹک بار چلا اٹھی سکنے جو سوتے سے ایک بار  
اس کی پھوپی نے تب یہ کہا اس کے تیس پکار کیا سوتے میں ڈری ہے جو تو ہے گی بے قرار  
کیا تو نے دیکھا نیند میں ہے گا اے نور عین  
کیوں روئی تھی ابھی تو نہیں مر گیا صمیں

#### افردوہ

مرزا پناہ علی بیگ افردوہ کے حالات زندگی کا پتہ نہیں چلتا۔ شجاع الدولہ کے انتقال  
کے بعد ان کی بیوی، بہو بیگم کی سرکار میں ملازم تھے اور فیض آباد میں مقیم تھے۔ اس لیے ان  
کے عردج کا زمانہ تیرھویں صدی ہجری کی پہلی چوتھائی کو سمجھا جاسکتا ہے۔  
ان کے مراثی مدرس کی شکل میں ہیں۔ ان میں بندوں کی تعداد 30 اور 40 کے  
درمیان ہے۔ ان مرثیوں میں میں پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ جنگ کا بیان افردوہ کے مرثیوں  
میں منحصر ہے۔ ان کے مرثیوں میں تمہید نہیں ہوتی۔ ابتداء سے واقعات کا بیان شروع ہو جاتا  
ہے۔ بعض مرثیوں میں انہوں نے تمہید کا التزام بھی کیا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔  
وقت رخصت کا جو صغا کے دہاں پر آیا      شاہ نے اس کو لگا چھاتی سے یوں سمجھایا  
جائے تم گھر میں رہو تم پہ خدا کا سایا      باپ سے تم کو ہے تقدیر نے اب چھڑوایا  
گر رہے زندہ تو بلوادہاں لیں گے تم کو  
ورنہ پچھڑے ہوئے محشر میں ملیں گے تم کو  
ٹھوکر سے وہ رکاب کی کرتا تھا کارزار      حملہ کرے تھا سیر کی صورت وہ نام دار  
تلوار بیٹھی اس کی جو گردن پہ ایک بار      گھوٹے سے آیا خاک پر اس میں یہ شہ سوار



اے صبا گلشن احمد پہ خزان کیوں آئی      گل تو سیراب ہیں خشکی پہ زبان کیوں آئی  
بلبل نغمہ سرا نعرہ زنان کیوں آئی      باد صرصیر یہ چمن خاک فنا کیوں آئی  
شامیوں نے جو کیا باغ قلم زہرا کا  
کیا ادھر حق کوئی ثابت نہ ہوا زہرا کا

### مسجح الزماں تحریر فرماتے ہیں:

”افریدہ نے اپنے معمرا معاصرین سکندر اور گدا کے مقابلے میں مرشیے کو موضوعات کا تنوع اور بیان کی وسعت دی۔ رخصت اور شہادت کے بیانات پر زیادہ زور دیا۔ ان میں نفسیاتی نکتوں کو ابھار کر عام انسانی جذبات و احساسات کا ترجمان بنایا۔ تمہید، رخصت، شہادت میں ربط و تسلیل کے ساتھ ساتھ مشاہدے کی باری کیاں داخل کیں۔ حاکمات نگاری سے مناظر کی زیادہ جان دار تصویر پیش کی اور اسے ترقی کے راستے پر لگا دیا۔“<sup>1</sup>

ڈاکٹر اکبر حیدری کا خیال ہے:

”افریدہ کے مرثیوں میں جدت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے رجز، رخصت اور بین کے مضامین موثر طریقے سے بیان کیے ہیں۔“<sup>2</sup>

خلیق (1844-1766)

میر محسن خلیق میر حسن کے تخلیقے بیٹھے تھے۔ فیض آباد اور لکھنؤ میں تربیت پائی۔

فیض آباد میں وہ غزل گوئی کے استاد مانے جاتے تھے لیکن بقول مسعود حسن رضوی:

”اردو شاعری کی تاریخ میں ان کو جو مرتبہ حاصل ہے وہ ان

کی مرشیہ گوئی کی بدولت ہے۔“<sup>3</sup>

ان کے تین بیٹے، انجیں، انس اور مونس مرشیہ گوئی حیثیت سے مشہور ہیں۔

مولوی شبیل، حامد حسن قادری، ابواللیث صدیقی وغیرہ کو ان کا

کوئی مرشیہ ہاتھ نہیں آیا۔ پروفیسر مسجح الزماں نے ”مرشیے کی روایت“

میں ان کے تین مرشیے شامل کیے ہیں۔ راقم الحروف کے پاس ایک

<sup>1</sup> ”اردو مرشیے کا ارتقاء“، مسجح الزماں، ص 181۔

<sup>2</sup> ”اردو میں اردو مرشیے کا ارتقاء“، اکبر حیدری، ص 178۔

<sup>3</sup> ”نیادور“، 26 جنوری، 1966۔

پرانی کتاب ہے، جس کا سرورق غائب ہے۔ اس میں ایک مرثیہ  
”گھر سے جب بہر سرید عالم نکلے“، میر خلیق کے نام سے درج ہے۔  
ہو سکتا ہے کہ وہ ”اشک غم“ ہی کا حصہ ہو جو مطبع ”اشناختی“، دہلی سے  
شائع ہوا تھا اور جس کا ذکر صحیح الزماں صاحب نے کیا ہے۔<sup>۱</sup> اس  
میں خلیق کے دو مرثیے شامل ہیں۔“

اکبر حیدری<sup>2</sup> نے خلیق کے کوئی تین سو مرثیے دیکھے ہیں۔ یہ سب کے سب مدد  
میں ہیں۔ ان میں سے متعدد مرثیے ایسے ہیں جن میں 70 سے 87 کے درمیان بندوں کی  
تعداد ہے۔ ان کے 52 مرثیے ایسے ہیں جن پر تاریخ کتابت درج ہے۔<sup>۳</sup> برخلاف اس  
کے جناب صحیح الزماں نے صاحب کو جو مرثیے خلیق کے دستیاب ہوئے ہیں، ان میں بندوں  
کی تعداد کم سے کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 53 ہے۔

ان کے مرثیوں میں کوئی مرثیہ ایسا نہیں جس میں مرثیے کے تمام اجزاء ترکیبی  
موجود نہ ہوں۔ البتہ الگ الگ مرثیوں میں ان میں سے بعض عناصر نظر آتے ہیں۔ چہرہ عموماً  
ان کے یہاں نہیں ہوتا۔ رخصت کے مناظر خلیق کے مرثیوں میں تفصیل سے ملتے ہیں۔  
جنگ کا بیان دو تین مصرعوں میں کہیں کہیں ملتا ہے۔ سر پا خلیق کے یہاں بھی ہے لیکن سیدھے  
سادے الفاظ میں ماجراۓ شہادت پر اپنا زور قلم صرف کیا ہے۔ طوالت کے خوف سے ان کی  
مشالیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ کیونکہ میر اصل موضوع بیسویں صدی میں مرثیہ کوئی کامطالعہ  
ہے۔ ایک بندلاخڑھ ہو۔

چلا کے تو رو سکتی نہ تھی شرم کی ماری      دریا کی طرح چشم سے پراشک تھے جاری  
ماں نے جو کہا شرم نہ اب کچھی واری      لیں ہاتھوں سے لاشے کی بلا کیں کئی باری

آہوں نے کیے سینے میں نکڑے یہ گجر کے  
غش ہو گئی سر پاؤں پہ نوشہ کے دھر کے

<sup>۱</sup> ”اردو مرثیے کا ارتقاء“، صحیح الزماں، ص 189۔

<sup>۲</sup> ”اوده میں اردو مرثیے کا ارتقاء“، اکبر حیدری کا مشیری، ص 356۔

<sup>۳</sup> ”اردو مرثیہ مرتب“، شارب رو لوی، ص 54۔

<sup>۴</sup> ”اردو مرثیے کا ارتقاء“، صحیح الزماں،

مُسْكِنِ الزَّمَانِ لَكَتَتْهُ هِيَ:

” خلیق نے یہ نہیں کیا کہ واقعات کے مختلف پہلوؤں کا سرسری بیان کرتے چلے جائیں، جو دور اول اور اس سے پہلے کے مرثیوں کی خصوصیت ہے بلکہ انھوں نے بیانات میں تفصیل مد نظر رکھی ہے اور باقی کو سرسری طور پر بیان کر دیا ہے۔ اس طرح ان مرثیوں میں سطحیت نہیں بلکہ نفیات انسانی کی قبل ذکر تصویریں بھی ہیں اور معاشرت کا نقشہ بھی۔“<sup>1</sup>

مرزا جعفر علی فتح (1853-1782)

مرزا فتح کے مرثیوں کی دو جلدیں چھپی تھیں۔ اب دونوں جلدیں نایاب ہیں۔ مسعود حسن رضوی کے کتب خانے سے اکبر حیدری کو 1461 مرثیے دستیاب ہوئے ہیں۔<sup>2</sup> سب سے پرانا مرثیہ 1807 کا ہے۔ 27 مرثیے ایسے ہیں جن کے ساتھ تاریخ کتابت بھی درج ہے۔

فتح نے مرلح میں بھی مرثیے کہے ہیں۔ ایک مرثیہ میں 32 بند ہیں۔ نمونے کے طور پر چند بند پیش کیے جاتے ہیں۔

راحت جاں فاطمہ پیاس سے بیقرار ہے  
ابر بہار کی طرح چشم سے اشک بار ہے  
تیرہ سنال و نیزہ سے ناز نیں تن فگار ہے  
خیسے میں اہل بیت کو آنے کا انتظار ہے



1۔ ”اردو مرثیے کا ارقاء“، مُسْكِنِ الزَّمَانِ، ص 198۔

2۔ ”اردو مرثیہ لکھنؤ میں (قبل انیس و دیہر)“، اکبر حیدری، مشمولہ مضمون، اردو مرثیہ، مرتب: شارب روڈ لوی۔

پہنے گلے میں ہے ذرہ جسم ہے سب عرق عرق  
پیاس سے دل گداختہ بھوک سے ہے جدا قلق  
ماتھے پ خون بھرا ہوا چاند پ جیسے ہو شفق  
دوش پسے ہے پر پڑی کاندھے پڑوال فقار ہے

فضح کے مرثیوں میں چہرہ، سر اپا، رخصت، جنگ، شہادت اور بین کے مضامیں  
بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ان کے مرثیے چھوٹی اور طویل بھروس میں ہیں۔ جنگ کا عضر  
تقریباً بھی مرثیوں میں پایا جاتا ہے۔

رن میں جس دم صبح عاشورہ عیاں ہونے لگی      لشکر شاہ شہیداں میں اذال ہونے لگی  
اس طرف تدیر مقل بے کسان ہونے لگی      یاں نمازیں اور کمر بندی وہاں ہونے لگی  
طلی جنگی کی صد اجس دم سنی معصوم نے

تب لگے تلوار کا حیدر کی قبضہ چونے

فضح روایات نظم کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ قاصد صغیری کی روایت اکثر مرثیہ گویوں نے  
نظم کی ہے۔ فصح نے بھی اس روایت کو نظم کیا ہے۔

پھر نامہ فاطمہ کا دیا اپنے دل کو تھام      اور اس طرح بیان زبانی کیا کلام  
صغری نے عرض کی ہے کہ اے سرور ائمہ      تم نے کہا تھا ہوگی تجھے جب شفافے تمام  
میں کربلا میں تجھ کو مکر بلاؤں گا  
اکبر کو یا تو بھیجوں گا یا آپ آؤں گا

فضح کے مرثیے مختصر ہیں اور ان میں نفیات انسانی کے مشاہدے سے غم و اندوہ کی  
نضا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مرثیے کو علمی حیثیت دینے میں فصح نے احادیث اور  
واقعات کو پیش کیا ہے، روایتوں کی صحت کا بھی خیال رکھا ہے۔ جنگ کے بیان سے پہلے اس  
کا پس منظر، فوجوں کی تیاری اور اسلحہ کے شور کا ذکر کرتے ہیں تاکہ جنگ کا ماحول پیدا  
ہو سکے۔ ان کے بیہاں مرقع نگاری کی مثالیں موجود ہیں۔

یہ رجز پڑھ کے بڑھا چند قدم عبداللہ اور محمد سے کہا تم یہیں تھہر و سر راہ  
تم رہو میں انھیں کرتا ہوں اکیلا ہی تباہ ہم ہیں شیروں کے خلف ہے یہ سپاہ رو باہ  
تم کرو سیرا بھی ہم صفت سننی کرتے ہیں  
تم گنو کشتوں کو ہم تفعیل زنی کرتے ہیں  
فتح کی مرثیہ گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے مسح الزماں تحریر فرماتے ہیں:  
”فتح نے مرثیے کو اعلیٰ اخلاقی تعلیمات، جذباتِ انسانی کی  
مصوری، ہجات نگاری اور ندرت بیان سے ممتاز کیا اور اپنی  
صلاحیتوں سے وہ رفعت و دوستی بخشی کہ مرثیے کی تاریخ میں انھیں  
اس تعمیر کے ایک اہم ستون کی حیثیت حاصل ہو گئی۔“<sup>1</sup>  
مظفر حسین ضمیر (1783-1855) تقریباً -

میر ضمیر کے مرشیوں کا کوئی حساب نہیں۔ 1898 میں ان کی ایک جلد مطبع کا پور  
میں چھپی تھی، اس میں پچاس مرثیے تھے۔ جناب سید مسعود حسن رضوی صاحب کے کتب  
خانے میں مراثی ضمیر کی دو قلمی تخلیق جلدیں تھیں۔ ان کی تعداد 104 ہے۔ اکبر حیدری<sup>2</sup> نے  
40 مرشیوں کی فہرست شائع کی ہے جن میں سالی کتابت بھی درج ہے۔ سب سے پرانا مرثیہ  
1820 کا ہے۔

ضمیر کے پیشتر مرثیے مدرس کی شکل میں ہیں، لیکن کچھ مختصر اور تصمین کی ہیئت  
میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک مشتوی کی شکل میں بھی ہے۔ بندوں کی تعداد 40-50  
سے زیادہ کی ہے اور ان کے مختلف اجزاء میں کیفیت کے لحاظ سے تنوع بھی ہے۔  
شبلی نے مرثیے کے عروج کی ساخت کا سہرا ضمیر کے سرباندھا ہے:  
”سب سے پہلے جس شخص نے مرثیے کو موجودہ طرز کا  
خلعٹ پہنایا وہ میر ضمیر، مرزادیر کے استاد ہیں... انہوں نے مرثیے  
میں جو جدتیں پیدا کیں وہ حسب ذیل ہیں:

1۔ ”اردو مرثیے کا ارتقاء“، مسح الزماں، ص 244۔

2۔ ”اوڈھ میں اردو مرثیے کا ارتقاء“، اکبر حیدری کا شمسی، ج 463۔

1- رزمیہ لکھ، 2- سرپا ایجاد کیا، 3- گھوڑے، تلوار اور

اسلحہ جنگ کے الگ الگ اوصاف لکھے اور یہی مضمین آج موجودہ  
مرشیوں کے مہمات موضوع ہیں، 4- واقعہ نگاری کی بنیاد ڈالی، چنانچہ  
ایک ایک جزئی واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا، 5- سب سے بڑھ کر یہ  
کہ کلام میں زور اور بندش میں چستی اور صفائی پیدا کی۔ غلط الفاظ جو  
مرشیوں کے لیے گویا جائز مان لیے گئے تھے، اکثر ترک کر دیے  
گئے۔ ان کے عمدہ کلام کا اگر انتخاب کیا جائے تو میر انس کا کلام معلوم

ہو گا۔<sup>1</sup>

اس بات کو ڈاکٹر اعجاز حسین نے ”مختصر تاریخِ ادبِ اردو“ میں ص 125 پر،  
ابوالیث صدیقی نے ”لکھنؤ کا دبتان شاعری“ میں ص 687 پر، سفارش حسین نے ”اردو  
مرشیہ“ ص 286 پر اور شارب رو لوی نے ”مراٹی انسیں میں ڈرامائی عناصر“ میں ص 30 پر،  
دہرا یا ہے۔ مرشیے کے موجودہ ڈھانچے کی ایجاد کے بارے میں عام طور پر ضمیر کا یہ بندپیش کیا  
جاتا ہے، جس میں جناب علی اکبر کی شہادت کے مرشیے میں وہ یوں اظہار خیال کرتے ہیں۔  
جس سال لکھے وصف یہ ہم شکل نبی کے سنہ بارہ سو انجاں تھے ہجری نبوی کے  
آگے تو یہ انداز سنے تھے نہ کسی کے اب سب ہی مقلد ہوئے اس طرز نبوی کے  
دش میں کہوں سو میں کہوں یہ ورد ہے میرا

اس طرز میں جو جو کہے شاگرد ہے میرا

مسحِ اڑماں<sup>2</sup> اور اکبر حیدری صاحب<sup>3</sup> نے ضمیر کی سرپا نگاری کو ان کے  
”طرز نبوی“ سے مخصوص و محدود کر دیا۔ اکبر حیدری صاحب نے ضمیر کے ایک ایسے مرشیے کا  
ذکر کیا ہے، جس میں پھرہ نہیں ہے اور وہ مسح صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں۔

مسح صاحب کا یہ کہنا تو درست ہے کہ مرشیے کے اجزاء کا تعین ایک دن میں نہیں

1 ”موائزہ انس و دیر“، شلی نعمانی، ص 39-40۔

2 ”اردو مرشیے کا ارتقاء“، مسحِ اڑماں، ص 256۔

3 ”اردو“ میں اردو مرشیے کا ارتقاء“، اکبر حیدری کاشمیری، ص 453۔

ہوا اور نہ کسی ایک شخص کو اس کا موجہ تھہرا یا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اجزاء ان سے پہلے مرشوش میں بکھرے پڑے ہیں، لیکن ضمیر کی مشنوی ”مظہر الحجائب“ (تالیف 1244ھ) میں یہ شعر ملتے ہیں۔

ہے ولی صد ہزار شکر خدا  
کہ مری طرز ہے سماں سے جدا  
طرز یہ مرثیہ کی تھہرائی  
کہ سراپا ہو اور صاف آرائی  
پایا میرے کلام نے یہ رواج  
کہ نہیں ہے بیان کا محتاج

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سراپا اور صاف آرائی دونوں ان کے ”طرز نوی“ کے اجزاء ہیں۔ دوسرے یہ کہ لوگ ان کی اس طرز کی تقلید کرنے لگتے۔ اب اگر واقعہ نگاری اور منظر نگاری کے خاص پہلوؤں کو بھی سامنے رکھا جائے تو میر ضمیر کا دعویٰ سراپا سے نہیں بلکہ مرثیے کی مجموعی حیثیت سے ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے مختلف اجزاء کو ترتیب دینے کا خیال سب سے پہلے ضمیر کے ذہن میں آیا ہو؟

ضمیر سے پہلے رزم کے بعض اشارے ملتے ہیں لیکن تفصیلی رزم ضمیر سے پہلے نظر نہیں آتے۔ رجز اور سراپا بھی فصیح اور خلیق سے پہلے ضمیر ہی نے لکھا ہے۔ چھرے میں مناظر قدرت کی تصویر کشی، جذبات نگاری اور مدح اور در میان میں سراپا کا اضافہ کر کے اس صنف میں بزم کے عناصر بھی شامل کر دیے۔ انہوں نے قصیدے سے مضمون آفرینی اور مدحیہ عناصر لیے، مشنوی سے رزم، مناظر فطرت کا بیان مکالے اور بیانیہ عناصر لیے، داستان سرائی سے روایت نگاری کا عضر لیا۔ ان سب کا لازمی تجھے یہ ہوا کہ مراثی طویل تر ہو گئے اور تمام اصناف سے قابل ذکر عناصر موضوع کی مناسبت سے اخذ کر لیے اور مرثیے کی نئی طرز تھہرائی۔ انہوں نے مرثیے کی نئی تشكیل کی۔ اب مرثیے کی بیت کا تصور بدل گیا جو بیت ترتیب پائی وہ قدیم تر مراثی سے جدا گانہ تھی۔

علی جوادزیدی لکھتے ہیں:

”ضمیر کے مرثیوں کا جنم بھی اہمیت رکھتا ہے لیکن سب سے زیادہ اہمیت ان فنی اجتہادات کی ہے جن سے مرثیے کی ہیئت ہی گویا بدلتی اور ضمیر اس طرز کے موجود پائے۔ وہ نہ صرف مرثیے میں بلکہ اردو شاعری میں بھی ایک اہم تبدیلی کے اوپر ناقب ہیں۔ انہوں نے ایک بڑے پیش رو کام کیا اور ایک نئی طرز کی بنیاد دی جس کی انقلابی حیثیت سے کسی کے لیے انکار ممکن نہیں۔ یہ انقلاب تھا مسدس کا باقاعدہ اور باضابطہ استعمال۔ وسیع تر دنیا یے معنی کو سینئے کے لیے مسدس پہلے بھی لکھے گئے اور مرثیوں میں بھی مسدس کا استعمال ہوا لیکن میر ضمیر نے مسدس کو مرثیوں کی مسلمہ عرضی ہیئت کی حیثیت سے تسلیم کرایا۔ مسدس کی شکل میں پہلے جدید طویل مرثیے ضمیر ہی نے لکھے۔“<sup>1</sup>

ذیل میں ضمیر کے مرثیوں کے مختلف اجزاء سے مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

سراپا:

تصویر بھی اس شخص کی ہوں تم کو دکھاتا جو ثانی محبوب الہی ہے کہا تا  
اک نور جو جاتا ہے تو اک نور ہے آتا وجہ عدم سایہِ احمد یوں ساتا  
تھا بعدِ محمد کے جو آیا علیٰ اکبر  
تھا احمد مختار کا سایا علیٰ اکبر

مناظر فطرت:

جب چرخ کا وہ طائر زریں نظر آیا زاغ سیاہ شب نے نیشن کو اٹھایا  
مرغابیِ انجمن نے جو اک پرتو پایا غوطہ دیں اس قلزمِ اخضر میں لگایا  
پر آ جو گئے طائر بیضا کے چمک پر  
گم ہونے لگا بیضہ مہتاب فلک پر

<sup>1</sup> ”جدید مرثیے کا بانی میر ضمیر“، مشریعہ مضمون، ”علم“، سمنی، مدیر: علی جوادزیدی، فروردی، 1992ء، ص 13-18۔

وہ صبح کا عالم وہ درختانی ذرات      وہ ذکر وہ مرغان سحر خیز کے حالات  
 وہ لشکر شبیر میں طاعات و عبادات      تھا صرف دعا کوئی کوئی مح مناجات  
 ہوتے تھے ستارے تو نہایا چرخ بربیں پر  
 یاں اختر ایمان چمکتے تھے زمین پر  
 وہ نور کا تڑکا ادھر اور صبح کا عالم      گھنٹا مہ داغم کی جگلی کا وہ کم کم  
 آتی تھی صدائے دہل صبح بھی پیغم      چلتی تھی نیم سحری دشت میں تھم تھم  
 کرتا تھا چراغ سحری عزم سفر کا  
 اور شور درختوں پر وہ مرغان سحر کا

الجز:

پہچانتے ہو کس کی مرے سر پر ہے دستار      دیکھو تو عبا کس کی ہے کاندھے پر نمودار  
 یہ کس کی زرہ، کس کی سپر کس کی ہے توار      میں جس پر سوار آیا ہوں یہ کس کا ہے رہوار  
 باندھا ہے کمر میں جسے یہ کس کی ردا ہے  
 کیا فاطمہ زہرا نے نہیں اس کو سیا ہے

صفت تیغ:

وہ تنق شعلہ دار اگر فرق پر گئی      دو کر کے جسم ناخن پا تک اتر گئی  
 مسکن سے اپنے گاؤں میں کوچ کر گئی      آئی ادھر ادھر ت، ادھر سے ادھر گئی  
 فق رنگ آسمانِ بسان سحر ہوا  
 خود آفتاب خوف سے مثل پر ہوا

صفت اسپ:

اب گھوڑے کی قائم کے میں خوبی کروں بیان      دو طھاسا کھڑا تھا غرض اس دو لھے کارہوار  
 خوش قامت و خوش رو و خوش اندام و خوش اطوار      جلد ایسی کرتا خون کارنگ اس سے نمودار  
 کان ایسے کہ اب تک نہ نے گوش ملک نے  
 آنکھ ایسی کہ دیکھی، ہی نہیں چشم فلک نے

### دست بدست جنگ :

نیزے کی میں کیا رو بدل کا کہوں عالم      قائم نے کئی وار تو خالی دیے اس دم  
 نیزے کی انی پر وہ انی روک کے چیم      آخر اسد اللہ کا پوتا ہوا برہم  
 سینے پر غرض وار کیا اس تگ دو سے  
 دو ہاتھ نکل آئی سنان پشت عدو سے

### جنگ مغلوبہ :

کی ابر فوج شام نے جو بارشِ خدگ      تیروں نے چھوٹتے ہی سنایا پیام جنگ  
 عباس نے بھی کھنچ لی شمشیر بے درنگ      تب روشنی مہر ہوئی آسمان پر دنگ  
 جوں سرروال از میں میں قدم سب کے گڑ گئے  
 دہشت سے برگ خل بیباں میں جھڑ گئے  
 پہلو میں پیادوں کے جھے آن کے اسوار      پس حائل دریا ہوئی فولاد کی دیوار  
 ڈوبی ہوئی لو ہے میں نظر آتی ہے دیوار      چلانے سواروں کو نقیبان بد اطوار  
 بھاگیں جو کماں دار انھیں جانے نہ دیجو  
 عباس جو آؤیں تو انھیں آنے نہ دیجو

### جنگ کی انفرادی شان :

نہ قتل عام سے تھا اس گھڑی امام کو کام      سمجھ سمجھ کے لگاتے تھے تیخ خون آشام  
 کسی کے صلب میں الفت جو دیکھتے تھے امام      تو دل میں سوچ کے لیتے تھے ذوالفقار کو قہام  
 سراسری یوں ہی اعدا پر ہاتھ پڑتے تھے  
 لڑائی ان کی جو تھی اس طرح نہ لڑتے تھے

### شهادت :

یاں وار کیا پشت پر صالح نے قضا را      اکبر نے پلٹ کر دیں نیزہ اسے مارا  
 اتنے ہی پلنے میں غضب کر دیا سارا      بس سر کے بل آیا نہ رہا سانس کا یارا  
 واں شاہ گرے بانو کو غش آگیا گھر میں  
 اک نیزہ نے سوراخ کے تین جگر میں

بیان :

القصہ اٹھا لاش کو شہ خیسے میں لائے سرکھو لے ہوئے لاش پہ اہل حرم آئے  
ملنے کے لیے ہاتھ سکینہ نے بڑھائے بانوگلی چلانے کے ہے ہے مرے جائے  
سینے سے ذرا ہاتھ اٹھاؤ مرے پیارے  
چھاتی کا مجھے زخم دکھاؤ مرے پیارے  
اب ہاتھ کورکھ قبضہ شمشیر پہ اٹھو وہ تیر چلا اصرت بے شیر پہ اٹھو  
وہ شر چڑھا سینہ شیر پہ اٹھو ہوتے ہیں تم عابد دلگیر پہ اٹھو  
سرنگے مجھے اونٹ پہ بھلاتے ہیں ظالم  
زندگی ردا چھین لیے جاتے ہیں ظالم

دلگیر (1783-1846)

دلگیر کا نام چھنواں تھا۔ اودھ کی عزاداری اور مرشیہ نگاری نے اتنی زیادہ وسعت اور  
مقبولیت حاصل کر لی کہ غیر مسلم بھی غم سید والا میں دلگیر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ بقول فضل امام  
رضوی۔ ”چھنواں دلگیر مکروہات دنیوی سے پیزار ہو کر طرب شخص ترک کر کے مرشیہ گوئی کی  
طرف متوج ہوئے۔“<sup>1</sup>

رجب علی بیگ سرور (متوفی 1284ھ/1846) نے خصوصیت کے ساتھ دلگیر کی  
مرشیہ گوئی کا ذکر کیا ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے ”فسانہ، عجائب“ کی ترتیب کے  
وقت 1240ھ/1824 میں ٹلیل عرصے میں سلام اور مرثیوں کا شخصیم دیوالا مرتب کیا تھا۔  
”مرشیہ گوبے نظیر میاں دلگیر صاف باتن نیک ضمیر، خلیق، فصح،  
مرد مسکین مکروہات زمانہ سے کبھی افسردہ نہ تھا۔ اللہ کے کرم سے ناظم

<sup>1</sup> ”انیں شخصیت اور فن“، ڈاکٹر فضل امام، مؤذن پبلشگر ہاؤس، گولامارکٹ، دریافت دہلی، ص 53۔

خوب سکندر طالع، بصورت گدا، بار احسان الہل دول کا نہ اٹھایا۔ عرصہ  
قلیل میں مرثیہ وسلام کا دیوان کشیر فرمایا۔<sup>۱</sup>

قدیم مرثیہ گویوں میں دلگیر کا کلام سب سے زیادہ ہے۔ ابواللیث صدیقی<sup>۲</sup> اور سعیج  
الزمیں صاحب<sup>۳</sup> نے اپنی کتابوں میں ان کے مراثی کی سات جلدیں کا ذکر کیا ہے۔  
اکبر حیدری کو ان کی صرف چھ جلدیں دستیاب ہوئیں<sup>۴</sup> راجہ صاحب محمود آباد کے کتب خانے  
میں سبھی جلدیں موجود ہیں۔ جلد اول "مجموعہ مرثیہ دلگیر" اور "کلیات مرثیہ دلگیر" یعنی دو  
ناموں سے نول کشور پر لیں لکھنؤ سے چھپی۔ صفحہ اول سے ص 276 تک سلام خمسہ اور  
رباعیات ہیں۔ پھر ص 277 سے ص 503 تک مراثی ہیں۔ اس طرح سبھی جلدیں میں  
صفحات کی تعداد 2738 ہے اور مرثیوں کے بندوں کی کل تعداد 20333 ہے۔ مطبوعہ مرثیوں  
کی تعداد کوئی چارسو ہے۔ ۵ جلد سوم میں ایک مرثیہ مربع ہے، باقی سب مسدس کی شکل میں  
ہیں۔

جناب راجہ صاحب محمود آباد اور جناب رشید صاحب کے ذخیرہ مراثی میں دلگیر کے  
قلمی مرثیے ہیں۔ ان میں چند مطبوعہ ہیں اور اکثر غیر مطبوعہ ہیں۔ 38 غیر مطبوعہ مرثیے  
ایسے ہیں، جن میں تاریخ کتابت درج ہے، جن کی فہرست اکبر حیدری نے شائع کی ہے۔<sup>۶</sup>  
دلگیر کے مراثی کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تاریخ اسلام، تاریخ کربلا کے  
علاوہ احادیث، سنت اور قرآن سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کے مراثی کے موضوعات میں  
بڑی وسعت ہے۔ شہدائے کربلا کے علاوہ جناب مسلم، پیر ان مسلم، امام حسن، حضرت علی،

۱ "فسانہ عاجب" اودھ میں اردو مرثیے کا ارتقاء، اکبر حیدری کا شیری، ص 477۔

۲ "کھنڈ میں دہستان شاعری"، ابواللیث صدیقی، ص 489۔

۳ "اردو مرثیے کا ارتقاء"، سعیج الزماں، ص 279۔

۴ "اوڈھ میں اردو مرثیے کا ارتقاء"، ڈاکٹر اکبر حیدری کا شیری، ص 477۔

۵ "اوڈھ میں اردو مرثیے کا ارتقاء"، ڈاکٹر اکبر حیدری کا شیری، ص 480۔

۶) "اردو مرثیہ لکھنؤ میں (قبل ائمہ ودیہ)"، اکبر حیدری، مشمول مضمون، "اردو مرثیہ" مرتب: شارب  
ردو لوی، اردو کادی، دہلی، ص 62۔

جناب فاطمہ، حضرت رسول خدا، حضرت عابد، عبداللہ، جناب سکینہ کے حال کے متعدد مرثیے ہیں۔ مدینے سے روانگی، جناب صغا، ملاقاتِ حر، ورودِ کربلا، تاریجی خیام، سفر شام، شیریں کا واقعہ، دربار شام، زندان شام، بیماری حضرت عابد، سرامام، دفن شہداء، مدینے کو واپسی وغیرہ ان سب موضوعات پر مرثیے لکھے ہیں اور اکثر تاریخی صداقت کا خیال رکھا ہے۔ ایک مرثیہ میں انہوں نے حدیث کی رو سے یہ واقعہ نظم کیا ہے کہ یزید نے عمر سعد کے مشورے سے دو ظالموں کی گمراہی میں سر حسین کو مدینے میں حضرت صغا کے پاس بھیجا۔ جب مدینے میں امام حسین کے طرف داروں کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر حسین کو رسول کے روپ میں دفن کر دیا۔ دلگیر نے یہ واقعہ نظم کیا ہے لیکن راوی کا حوالہ دئے بغیر یہ دعویٰ کیا ہے۔  
دلگیر نے حدیث سے ہے مرثیہ کہا ہاں میں میں تو دخل طبیعت ہے جا بجا راوی کا نام آیا نہ اس میں کتاب کا خالی سند سے پر نہیں یہ نظم مطلقاً

آگاہ راہ رو ہے ہر اک، اس طریق سے

اس جا پہ اتفاق ہوا ہر فریق کا

دلگیر کے کلام میں اجزاء ترکیبی کی جملہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ طوبیں تمہید ان کے بہاں نظر نہیں آتی اور نہ ہی مناظر قدرت کا بیان ہے۔ چند مرثیے ہیں جن میں دو چار بند اولاد کی محبت یا اخلاقی مضامین سے شروع ہوتے ہیں۔

شک ہے کہ چھپانے سے محبت نہیں چھپتی اخلاق نہیں چھپتا ہے البتہ نہیں چھپتی انسان کی کبھی خوبی طینت نہیں چھپتی چھپ جاتی ہے ہر چیز یہ عادت نہیں چھپتی

تاثیر محبت نہیں کچھ آج سے کل سے

عاشق جو کسی کا ہے وہ عاشق ہے ازل سے

سر اپا:

دلگیر کے اکثر مراثی میں سراپا کا بیان ہے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ اعضائے جسمانی کا بیان کیا ہے۔ ”خیے میں گئے شاہ جو عشورے کی شب کو“ میں حضرت عباش کا سراپا تفصیل سے بیان کیا ہے۔

وصف دہنِ تنگ میں منہ میرا ہوا بند شیرینی میں ہو اس کے برابر نہ کبھی قند  
ہر غنچے فردوس بھی دلچسپ ہے ہر چند ہاتھ آیا ہے پر اس کے کہاں دیسا شکر خند  
سب دانت سفید اس کے تھے اور سرخ دہن تھا  
وہ حقہ یاقوت پر از در عدن تھا

رجز:

رجز میں بھی دلگیر نے اس بات کا وصیان رکھا ہے کہ امام حسین کی شخصیت جس طرح نہ ہبی دنیا میں قابل احترام ہے شاعری کی دنیا میں بھی وہی تصور اپنے سامنے آئے۔  
اس بند میں آپ تقطیر کی طرف اشارہ ہے۔  
رتے سے میرے کب ہے کسی کو برابری اس شہ کا ہوں غلام جو شدت سے ہے جری  
فرمایا ہے خدا نے اسے رجس سے بری تھرا تا آگے آتا ہے سلطان خاوری  
خدمت میں اس جناب کی ہوں میں سدارہا  
روی فدا ک جس کو نبی نے کہا سدا

آمد:

ایک مریثے میں دلگیر نے حضرت عباس کی آمد نظم کی ہے۔ اس میں انھوں نے شوکت الفاظ کا ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ حضرت عباس کی جلالت اور شخصیت آنکھوں میں پھر جاتی ہے۔

غازی نے سارا السلحہ زیب بدن کیا      تن میں زرہ تھی فرق مبارک پہ خود تھا  
ترکش کمان و نیزہ خونخوار بر بلا      چار آئینہ سجا صفت ضغیم خدا  
اس سمت آپ آیت نصرت خدا پڑھی  
اس سمت شدے تھام کے بازو دعا پڑھی



ہل چل تمام فوج مخالف میں پڑ گئی      یعنی یہ سمجھے آئے ہیں اعجاز سے علی  
دیکھا ہر اس فوج میں اپنی جو اس گھری      بولا یہ عمر شر سے کیا رائے ہے تری  
گو میری ساری فوج کو اس دم ہر اس ہے  
پر مجھ کو اب بھی تیری قربانیت کا پاس ہے

### جنگ :

اکبر حیدری رقطراز ہیں۔ ”دیگر نے جنگ کے مناظرات اس طرح بیان کیے ہیں کہ جنگ کا پورا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔“<sup>1</sup>

اردو مرثیہ اس دور میں جس منزل پر پہنچ چکا تھا وہاں پہنچ کر کوئی مرثیہ نگار روز میہ پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اگر چہ دیگر کے یہاں جنگ مغلوبہ کا ذکر ہے اور دو حریفوں کی جنگ بھی۔ ایسے عالم میں داؤں پیچ وغیرہ کا بیان نہیں، لیکن جنگ کا پچھا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے۔ مسح الزمال صاحب بجا فرماتے ہیں۔ ”جنگ کے مضامین دیگر کے یہاں اپنے معاصرین سے کمزور ہیں۔“ پہنچ مثالیں ملاحظہ ہوں۔

یہ سن کے سب اک بارہوئے حملہ و اس پر اور چلنے لگا نیزہ و تیقہ و تبر اس پر گوارا لگاتے تھے وہ سب اہل شر اس پر پر زخم نہ ہوتا تھا کوئی کارگر اس پر تھا صدقہ شہ اور اثر ناد علی کا

ہر آن وظیفہ تھا ادھر ناد علی کا

تقریب یہ کرتا تھا ابھی شاہ کا دلدار چوکا نہ فن مکر سے وہ ظالم مکار باتوں میں لگا کر اسے ظالم نے کیا وار آواز امیر دو جہاں آئی کہ ہشیار تلوار تب اپنی علی اکبر نے پر کی دو ٹکڑے تھی تلوار تب اس بانی شر کی

جنگ کے بیان میں دیگر اکثر فوج مخالف کو اس قدر پست دکھاتے ہیں کہ سپاہ حسینی کی شجاعت کا اثر پیدا نہیں ہوتا جو روز میہ کے لیے ضروری ہے۔

دریا کے کنارے عمر سعد خود آیا جس غول کو دیکھا متعدد اسے پایا کیں متنیں اور ٹھوڑیوں میں ہاتھ لگایا جو جو متفرق تھے پا ان کا جمایا سب کا نپتے تھے خوف سے عباش علی کے تھے ہوش نہ قائم مع سردار کسی کے

<sup>1</sup> ”اودھ میں اردو مرثیے کا ارتقاء“، اکبر حیدری کاشمیری، ص 485۔

میدان جنگ کی صفت بندی، گھوڑے اور تکوار کی تعریف بھی جنگ کے بیان کا اسی جز ہے۔ اکثر ڈلگیر نے خیالی گھوڑے کی تصویر پیش کی ہے۔ تکوار کی تعریف میں کہیں کہیں کامیابی کی طی ہے۔ تکوار کی تعریف کے پس پشت دراصل اس ہاتھ کی تعریف کی جاتی ہے جو اس تکوار کو چلا رہا ہے۔

خوبی کھوں ہاتھوں کی یا تیزی شمشیر سو گام پر اڑ کر گیا تن سے سر بے پیدا  
شمشیر عالمدار تھی یہ شہباز کی تصویر تھرتے تھے سب اہل جنم مثل عصافیر  
وہ تنخ نہ تھی خاص کی نہ عام کی دشمن  
تھی وہ تو فقط دشمن اسلام کی دشمن

رخصت اور بین:

رخصت اور بین پر ڈلگیر نے خاص توجہ دی ہے۔ بھی وہ مقامات ہیں، جن میں جذبات نگاری سے دروازہ پیدا کیا جاتا ہے۔ ان مقامات پر ڈلگیر نے اگر چنانچہ عکتوں کو پیش نظر رکھا ہے، مگر اس کی مثال بہت کم ہے۔ البتہ مسلمان گھرانوں کی سماجی زندگی، عورتوں اور بچوں کی گفتگو اور رسم و رواج کامیابی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ شادِ عظیم آبادی لکھتے ہیں:  
”دوباتیں مرزا ڈلگیر کی مجھ کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ اول

وہ خاندانی ہندو تھے، لیکن رخصت اور بین و شہادت کے بیان میں اس افراط سے مسلمانوں کے مراسم اور خاص محاورے اور مستورات اہل

اسلام اور ان کے بچوں کی باتیں برداشت دیتے ہیں کہ تجب ہوتا ہے۔“<sup>1</sup>

ڈلگیر واقعات میں نئے پہلو پیدا کرتے ہیں۔ ایسے میں مضمین اگر وقت اور حالات کے مطابق ہیں تو اسی پر مرشیہ کی کامیابی کا انعام ہوتا ہے۔ جناب نسبت گوینہ اطلاع ملتی ہے کہ حضرت علی اکبرؑ کو جنگ کی اجازت مل گئی ہے۔ اس خبر کو سن کر ان پر جواہر ہوا ڈلگیر اسے اس طرح بیان کرتے ہیں۔

1۔ ”لکر بلینگ“ حصہ دوم، بحوالہ ”اردو مرثیے کا ارتقاء“، سچ ایضاں، ص 284۔

نیب نے کہا چاہتی تھی میں اسے جی سے کیا خاک اب امید کشی ہوئے کسی سے  
 تھی مجھ کو توقع نہ یہ ہم شکل نبی سے یہ بھی نہ خیال آیا کہ پوچھو تو پھوپی سے  
 کہنا کبھی اکبر کا نہیں تلا تھا ہم نے  
 کیوں بھائی اسی دن کے لیے پالا تھا ہم نے  
 یہ صاف عیاں تھا نہیں جیسے کا یہ دلبر اتنا تو شہنشہ سے کہتا علی اکبر  
 دلوادور رضا مجھ کو پھوپی جان سے چل کر میں بھی اسے جانے کے لیے کہتی مگر  
 اب کبھی کہ کچھ حق نہیں ہوتا ہے پھوپی کا  
 پالے نہ جہاں میں کوئی فرزند کسی کا  
 رخصت کے مضامین دلگیر کے مراثی کا اہم ترین جز ہیں۔ میں بھی بڑے دردناک ہیں انہیں  
 مرشیہ گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے مسح الزماں رقطراز ہیں:

”دلگیر نے مرشیہ میں رسم کے گھرانے کو اپنے عہد کے شرفا  
 کے ایک مشترک خاندان کی صورت میں پیش کیا اور مرشیہ کے کرداروں  
 کو گھر بیوپیں منظر میں اس طرح سامنے لائے کہ ان کی سماجی زندگی  
 رشتہ داری، برادری، وفاداری، محبت، ادب و لحاظ، مردوں، عورتوں اور  
 بچوں کی گنتگو، معتقدات رسول اور خیالات کے ساتھ ابھر کر سامنے  
 آتی ہے اور مرشیہ صرف اظہار غم کی چیز نہیں رہتا بلکہ ایسی نظم بن جاتا  
 ہے جو کرداروں کی نفیاں ان کے رد عمل اور احساسات پیش کر کے  
 انسانی زندگی کا عکس بن گئی ہے۔“<sup>1</sup>

انیس (1874-1803)

ہیئت کے اعتبار سے مرشیہ کی ساخت، اس کے تدریجی ارتقاء کے ساتھ بدلتی

<sup>1</sup> ”اردو مرشیے کا ارتقاء“، مسح الزماں، ص 297۔

رہی، شروع شروع میں مریشیہ، غزل اور مشنوی کی بیت میں نظم ہوا۔ سوزخوانی اور حن کے طرز میں پڑھنے کے لیے یہ فارم نہایت موزوں تھے۔ مریشیے کو ادبی حیثیت دینے کی فکر میں شراء مریع سے محس اور محس سے مسدس تک پہنچے۔ تحت اللفظ کے لیے مریع اور محس سے زیادہ مسدس کی ضرورت تھی، لیکن جس فنی ویلے سے مسدس کی مخصوص صوتی کیفیت اور ہمیشی ڈرامائیت کی طرف جو پہلا قدم اٹھایا گیا وہ مرشیوں کا رواج تھا، جن میں فارسی یا برج بھاشائی شیپ بیت بطور شیپ استعمال ہوتی تھی۔

مریشیے کے لیے مسدس کی بیت ہندوستان میں ظہور پذیر ہوئی۔ عرب یا ایران میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگرچہ مسدس کی بیت انیں سے بہت پہلے مقبول ہو چکی تھی مگر انیں نے اسے جلا بخشی۔ انیں کی فصاحت کا گہرا تعلق مسدس کے فارم کو کامیابی کے ساتھ برتنے میں مضر ہے۔ انیں نے اس ساخت اور باطنی کیفیت میں پچھلی اور مہارت پیدا کی اور یہ صرف اس قابل بن گئی کہ چکست، حالی، اقبال سے لے کر جوش تک نے اسے برتاؤ مسدس کے اس فارم میں تبدیلی کی ضرورت انھیں محسوس نہ ہوئی۔ ظاہری ساخت کے اعتبار سے ہر بند خود ایک اکائی ہوتا ہے۔ جس میں چار مصراعوں پر چھلی ہوئی بات بیت یا نیپ کے آخری دو مصراعوں میں نقطہ عروج پر پہنچتی ہے۔ پہلے چار مصراعے غیر مردف بھی ہو سکتے تھے لیکن میر انیں کے یہاں اس کا الترام تھا کہ بیت ضرور مردف ہو تاکہ اطہار مطالب میں استحکام پیدا ہو۔ پھر ایک بند کا چھٹا مصراعہ دوسرے بند کے پہلے مصراعے سے اس طرح مربوط ہو کہ نظم یا مریشیے کی وحدت تاثر پر ناخوش گوارا ثانہ پڑے اور کڑی سے کڑی جڑی رہے۔ گوپی چند نارنگ کا خیال ہے:

”مسدس میں چار مصراعوں کے ہم قافیہ ہونے اور پھر بیت

میں قافیہ کے بدل جانے یعنی اصوات اور آہنگ کی اس برابر جاری

رسہنے والی تبدیلی کے زیر و بم میں جوز بردست جمالیاتی اور ڈرامائی

امکانات تھے اس کی کشش شاید اس سے پہلے انھیں تجربوں میں محسوس

کر لی گئی تھی۔“<sup>1</sup>

<sup>1</sup> ”اسلوبیات میر انیں“، مشمولہ مضمون، گوپی چند نارنگ، ”انیں شاعی“، ہرتب: گوپی چند نارنگ، ص 164۔

(۱)

میرانش کے زمانے تک مریئے کا ڈھانچہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے اجزاء ترکیبی بھی معین ہو چکے تھے۔ خاکے کی اس تکمیل میں ضمیر کا بڑا بھاٹھ ہے۔ اب تک مریئے کے اجزاء تھے واقعات، روایات، رخصت، جگ و مرثیوں میں کم ہی ملتا تھا۔ اب جب مریئے کا نیا ڈھانچہ وجود میں آیا تو چہرہ سب سے پہلے لکھا جانے لگا، پھر سراپا، اس کے بعد گھوڑے اور تلوار کی تعریفیں، جنگ کے بیانات اور آخر میں بین کو جگہ ملی۔

میرانش نے چہرے سے پہلے تمہید کو جگہ دی، پھر رخصت اور آمد کو مسترد کیا۔ جنگ کے ضمن میں رجز، تعارف اور مبارز طلبی کو ضروری کیا اور آخر میں شہادت اور بین کو الگ الگ رکھنے کی صورت میں پیدا کیں۔ ان موضوعات کے علاوہ جہاں اور کوئی رنگ مناسب معلوم ہوا اس کو وہیں کھپایا۔ مثلاً صحیح کامساں، گرمی کی شدت، کسی منظر یا ماحول کی تصویر، کردار زگاری یا مکالمے..... یہ سب بڑی فن کاری سے انیش نے مریئے کے ظرف میں سودیا۔ ان کے مرثیوں میں تعزیل کی چاشنی بھی ہے، مگر مریئے کا مجموعی تاثر بجدوں نہیں ہوتا۔

اب مریئے کی داخلی بیت کا سوال اٹھتا ہے۔ اندر وہی ساخت کے اعتبار سے مریئہ خود ایک اکائی ہونے لگا۔ یعنی اس میں ابتداء، عروج اور خاتمه ہونے لگا۔ اس طرح یہ مریئے اگر چہ واقعہ کر بلکہ کسی ایک جز پر مشتمل ہوتے تھے، مگر اپنے میں ایک وحدت رکھتے تھے۔ تقریباً سبھی مرثیوں میں ابتداء، عروج اور خاتمه ہوتا ہے اور سبھی واقعات کا تعلق براہ راست یا بالواسطہ شہادت امام حسین سے ہے اور شہادت نتیجہ تھی اس جنگ کا جور و عاشرہ لڑی گئی۔ میرانش نے مریئے کو ایک ایسی صفت بنا نے کا ارادہ کر لیا، جو ایک طرف نہ میہ، والوں میہ طرف اخلاقی تعلیم کا ذریعہ سب مرثیوں کے لیے یہ مضمین لازمی سمجھے جانے لگے۔

(۲)

رزمیہ، مریئے کا لازمی جز ہے، جس میں دست بہ دست جنگ اجتماعی جنگ،  
گھوڑے اور تلوار کی تعریفیں، داؤ تیچ سبھی کچھ شامل ہے۔ بقول شیم امر وہ وی:

”یہ ذکر دو وجہ سے ضروری ہے۔ ایک تو اس لیے کہ شہید کر بلکا کامر شیہ کہنے کا مدعاً اگر میدانی کر بلے باکل ہٹ جائے تو پھر زدہ شہدا نے کر بلے کے علاوہ اور کسی کامر شیہ شمار کیا جائے گا۔ دوسرا ہے اس لیے کہ میں رسولؐ کے نواسے کو کامل انسان ہونے سے بالاتر امام بھی مانتا ہوں۔ رسولؐ کی تاسی میں امام کا فرض ہے کہ اتمام جنت کے موقعے پر جب کہ مطلقی دلائل سے حریف مطمئن نہ ہو تو پھر اسے کرامت دکھائے جیسا کہ جنگ بدر وغیرہ میں یہ صورت آنحضرت کے عمل سے ظہور میں آئی۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے تین دن کی بھوک پیاس میں جب کہ سنبھل کر کھڑے رہنا بھی انسان کے اختیار میں نہیں رہتا، روزِ عاشورہ تین دفعہ تکوار چلانی اور ہزاروں کی فوج میں بھگدڑج مچ گئی۔ یہ اتمام جنت کے لیے امام کی کرامت تھی، جس کا ذکر کیے بغیر بات نہیں بنتی۔ اس کے علاوہ جس انداز سے مرشیہ گوشہ عرتوار اور گھوڑے کا ذکر کرتا ہے اس سے لازمی طور پر چدد و جدد کی فطرت بیدار ہوتی ہے۔ دل میں دلوں خون میں روانی اور ظلم کا مقابلہ کرنے کی

ہست پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔“<sup>1</sup>

شیم امر و ہوی کا یہ بیان اگرچہ جدید مرثیوں میں رسمیہ عناصر کی کے ذیل میں ہے، لیکن اس سے رسمیہ کی ضرورت کا شدید احساس ہوتا ہے۔ انہیں نے زوال آمادہ جمیعون کو شجاعت کی طرف مائل کرنے کے لیے واعظانہ اور خطیبانہ لمحہ اختیار نہیں کیا بلکہ شجاعت اور سرفروشی کو ایک حسین صفت بنادیا۔ تکوڑا اور گھوڑے کی تعریف، جنگ و جدل کا نقشہ، داؤ، قیچ، دست بد دست جنگ، یہ سب مناظر ایسے دل کش انداز میں پیش کیے کہ سننے والوں کے دلوں میں شجاعت اور بہادری کا جذبہ کروٹیں لینے لگا اور ناقدرین مرشیہ کو رسمیہ (Epic) کہنے پر اصرار کرنے لگے۔

<sup>1</sup> ”جدید مرشیے کے تین معمار“، ہلال نقوی، مطبوعہ، دسمبر، 1977ء، ص 32-33۔

اے شہ سوار ملکِ خن صدری دکھا      کیتی کو ززلہ ہو وہ زور آوری دکھا  
 حمیت سپاہ کی پھر اپری دکھا      ہاں زور و شور معرکہ حیدری دکھا  
 کٹ جائیں رنگ ہستہ اعدا فگار ہوں  
 پڑھنے میں دونوں لب جو کھلیں ذوالفار ہوں

☆

اے تنخ آب دار زبان اور تیز ہو      سر گرم کشت و خون و قاتل و سیز ہو  
 دریا لہو کا وادی ہنگامہ خیز ہو      لگ جائے آگ دشت میں یوں شعلہ ریز ہو  
 نقشہ ہو صاف تنخ علی کی صفائی کا  
 دکھاؤں ہر ورق میں مرتع لڑائی کا

☆

اکوں طرف رزم بھی چھوڑ کے گر بیم      خیر کی خبر لائے مری طبع اولوالزم  
 قطع سر اعدا کا ارادہ ہو جو باجزم      دکھائے زبان سب کو وہاں معرکہ رزم  
 جل جائیں عدو آگ بھڑکتی نظر آئے  
 توار پہ توار چکتی نظر آئے

☆

نصرے ہوں صف آرا صفت لشکر جرار      الفاظ کی تیزی کو نہ پہنچ کوئی توار  
 نقطے ہوں جو ڈھالیں تو الف نخبر خونوار      مد آگے بڑھیں بچھیوں کے قول کے اک پار  
 غل ہو کبھی یوں فوج کو لوتے نہیں دیکھا  
 مقتل میں من ایسا کبھی پڑتے نہیں دیکھا

☆

ہر ایک زبان ماہ سے تا مسکن ماہی      عالم کو دکھائے برش تنخ الہی  
 جرأت کا دھنی تو ہے یہ چلا کیں سپاہی      لاریب ترے نام پہ ہے سکہ شاہی  
 ہر دم یہ اشارہ ہو دوات اور قلم کا  
 تو مالک و مختار ہے اس طبل علم کا

انیں جنگ کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں کہ اس کی ہولناکی سے خوف کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، بلکہ دشمن کے سامان حرب و ضرب دیکھ کر خود کی حمایت میں اس جنگ میں کوہ پڑنے کی طرف اکسنتے ہیں۔ یہ حق و باطل کی جنگ فتح پذیری کی ظاہری فتح پر ختم ہونے والی نہیں، بلکہ ابد تک جاری رہنے والی جنگ ہے۔

رزم کے مضامین کو عموماً پانچ خصوصیں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

(الف) میدانِ جنگ کا ماحول، فوجوں کی پالی وغیرہ۔

(ب) سراپا، آمد اور رجز۔

(ج) تکوار کی تعریف۔

(د) گھوڑوں کی تعریف۔

(ه) جنگ۔

(الف) میدانِ جنگ کا ماحول:

انیں نے اپنی مہارت سے ان مناظر میں جان ڈال دی ہے۔ انہوں نے اپنے مرشیوں میں لڑائی کا ایسا نقشہ پیش کیا ہے جو کہ بلا کی جنگ کا ایک وسیع نقشہ پیش کرتا ہے۔

انیں کے چند بند پیش کیے جاتے ہیں۔ جس سے ان کی قادر الکلامی کا اندازہ ہو سکے۔  
امری ہوئی تھی فوج پر فوج اور دل پر دل      تھے برچھوں کے صورت مقراض پھل پر پھل  
خیبر وہ جن کی آب میں تھی تلخی اجل      وہ گرز جن کے ذرے گردے دیومنہ کے ملن

دو دو تیر تھے پاس ہر اک خود پسند کے

حلقوں میں تھے بجھے ہوئے حلکے کند کے

وہ دھوم طبلِ جنگ کی وہ بوق کا خروش      کر ہو گئے تھے شور سے کرو یوں کے گوش  
تھرائی یوں زمیں کہ اڑے آسمان کے ہوش      نیزے ہلا کے نکلے سواراں ورع پوش

ڈھائیں تھیں یوں سروں پر سواراں شوم کے

صحرا میں جیسے آئے گھٹا جھوم جھوم کے

حد سے فزوں ہے کثرتِ افواج نابکار      نیزہ پر نیزہ تنگ پر ہے تنگ آب دار

ہر سمت ہے سناب پر سناب مثل کارزار      ہر صرف میں ہے پس پر مٹل لالہ زار  
 پیکاں بھیں جیسے ہوں گل بے کھلے ہوئے  
 گوشوں سے ہیں کانوں کے گوشے ملے ہوئے  
 یک بے یک طبل بجا فوج میں گرجے پادل      کوہ تھرائے زمیں ہل گئی گونجا بھنگل  
 پھول ڈھالوں کے چمنے لگتے کواروں کے پھل      مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل  
 وال کہ چاؤش بڑھانے لگے دل انگر کا  
 فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا

کڑکیں وہ کمانیں وہ ہوا فوج میں کڑکا      تیغوں کی سفیدی تھی کہ تھا نور کا تڑکا  
 گہبہ بجھ گیا خورشید کا شعلہ کبھی کڑکا      ہر دل کو ہلا دیتا تھا سر کٹنے کا دھڑکا  
 نعرے تھے کہ حیدر کے دلیروں سے دغا ہے  
 گھوڑے بھی بھڑکتے تھے کہ شیروں سے دغا ہے  
 دانتوں سے شجاعاں عرب ڈاڑھیاں دا بے      وہ صورتیں خوخوار وہ گھوڑے دو رکابے  
 وہ گردنیں وہ سر تھے کہ معکوس قرا بے      وہ آگ کے پتلے تھے کہ شبدیز شتابے  
 خوں آلی محمد کا بھایا تو انھیں نے  
 سادات کے خیموں کو جلایا تو انھیں نے  
 مندرجہ بالا بندوں میں جنگ کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے اور یہاں اس بات پر بھی نظر رکھنی چاہیے  
 کہ مبالغہ کا بہت کم استعمال ہوا ہے۔

(ب) سراپا:

سراپا کا اگرچہ براہ راست تعلق جنگ سے نہیں مگر بالواسطہ تعلق جنگ سے بھی  
 ہے۔ مرثیے کے مرکزی کرداروں سے انہیں کو گہری عقیدت تھی۔ ایسے میں ہیر و کاسراپا یا ان  
 کرناس کے قدر دشوار تھا۔ حضرات مخصوصین کی جو تصویر عوام کے ذہنوں میں قرآن و احادیث  
 اور روایات و تاریخ کی روشنی میں محفوظ تھی۔ انہیں مخصوصین کا سراپا لکھنے سے اکثر گریز کیا۔

لا یعلمه دلا علم کی کیا سحر بیانی حضرت پہ ہویدا ہے مری یعنی مدانی  
 نہ ذہن میں جودت نہ طبیعت میں روانی گوپا ہوں فقط ہے یہ تری فیض رسانی  
 میں کیا ہوں فرشتوں کی بھی طاقت ہے تو کیا ہے  
 وہ خاص یہ بندے ہیں کہ مدح خدا ہے  
 نورِ خدا کی مدح، بشر کی ہے کیا مجال پہنچا کبھی نہ خیلی ملک کا وہاں خیال  
 اوصافِ آں من فصحا کی زبان ہے لال تاقص کو، ہاں اگر وہی چاہے تو دے کمال  
 برسوں لکھے تو وصفِ ائمہ بیان نہ ہو  
 ہر موئے تن زبان ہو تو شمسہ بیان نہ ہو  
 کیوں کر بیان ہو شوکست شان پیغمبری عاجز ہے یاں فرزدق و حسان خیری  
 طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے زورِ حیدری دوڑے کمیت خامہ تو کھائے سکندری  
 قرآن میں جن کا ذکر مکر خدا کرے  
 کس کی زبان سے پھر بشران کی شناکرے  
 پینا ہوئی جو چشم تو نورِ خدا کہا عقدہ کھلا تو چشم نے مشکل کشا کہا  
 مطلب ہوا حصول تو حاجت روا کہا پایا درِ مراد تو نجیر سخا کہا  
 ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہادریے  
 کیا پڑھ گیا تو بحر میں قطرے ملادیے  
 سراپا لکھنے کے لیے انس نے اکثر غیر معصومین کا انتخاب کیا ہے۔ مثلاً علیٰ اکبر کے سراپا کے  
 اشعار ملاحظہ ہوں۔  
 کس طرح کوئی وصف سراپا کرے رقم جلوہ خدا کے نور کا ہے سر سے تا قدم  
 قطرہ کہاں، کہاں جفت قلم چیونٹی سے کیا ہو مدح سلیمان ذی چشم  
 یاں سب تعلیماں شعراء کی فضول ہیں  
 بس خاتمہ ہوا کہ شہیق رسول ہیں  
 مرہیے میں جن کرداروں کی ظاہری شکل و صورت کا بیان ہوتا ہے ان کی بشری بیشیت ٹانوئی ہے۔

یہاں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ سراپا کا مقصد، ہیرود کے ظاہری خط و خال نمایاں کرنانیں، کردار کی مناسبت سے ان کے خطوط ابھارے گئے ہیں اور اسی مناسبت سے آمد کا بیان ہے۔

آمد:

آمد کے بیان میں مثال کے لیے دو حصے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک میں جناب حر کی آمد ہے اور دوسرے میں جناب عباس کی آمد کا بیان ہے۔ حر کے مقابلے میں ان کی شان اور رعب و دبدبہ ہی کچھ اور ہے۔

حر چلا فوج مخالف پہ اڑا کر تو سن چوکڑی بھول گئے اس کی تگاپو سے ہرں  
وہ جلال اور وہ شوکت وہ غصب کی چتوں ہاتھ میں تنخ کماں دوش پہ، بر میں جوش  
دوسرے دوش پہ شملے کے جوبل کھاتے تھے

کاکل حور کے سب قیق کھلے جاتے تھے

زور بازو کا نمایاں تھا بھرے شانوں سے دست فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے  
بر چھپوں اڑتا تھا دب دب کے فرس رانوں سے آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگہ بانوں سے  
خود روئی کی، جو ضو، تا بہ فلک جاتی تھی  
چشم خور شید میں بھلی سی چمک جاتی تھی

اس کے مقابلے میں حضرت عباس کی آمد ملاحظہ ہو۔ یہ خیال رہے کہ احسن فاروقی ۱ کو شکایت ہے کہ مدح سرائی میں کوئی تنوع نہیں۔ امام حسین کی جو تعریف ہو سکتی ہے، وہی حضرت عباس کی ہو سکتی ہے۔ جو تعریف علی اکبر کی ہو سکتی ہے۔ وہی حضرت قاسم کی ہو سکتی ہے۔

اشرکھنوی نے ڈاکٹر احسن فاروقی کے اس اعتراض کا جواب اس طرح دیا ہے:

1۔ "میرانش کے مرثیوں میں ہمیں قریب قریب ہر چیز کی مدد ای تھی ہے جو امام حسین اور ان کی جماعت سے تعلق رکھتی ہے لیکن اس میں وہ کوئی زیادہ فرق نہیں کرتے۔ امام حسین اور حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کے حال میں جو مرثیے ہیں وہ سب ایک دوسرے پر چیاں ہو سکتے ہیں۔" مرثیہ نگاری اور میرانش، ڈاکٹر احسن فاروقی، جولائی، 1964، مطبوعہ، سرفراز توہین پرنس لکھنؤ، ص 37-38۔

”قاروئی صاحب کے دل کے چور کا یوں پتہ چتا ہے کہ جو  
تشابہ ہوا وہ مائین امام حسین اور حضرت عبائش (بھائی بھائی) پیدا ہوا  
اور دوسری طرف مائین حضرت علی اکبر (پسر امام حسین) اور حضرت  
قاسم (پسر امام حسن) خدا معلوم کیا جواب دیں گے کہ اگر کوئی پوچھے  
کہ مداحی میں یکسانیت کا احتمال مثلاً مائین حضرت عبائش اور حضرت  
علی اکبر کیوں نہیں ہوا۔“<sup>1</sup>

اشرکھنوی نے قاروئی صاحب کی عبارت کا مفہوم غلط نکالا یا وہ خود غلط سمجھے اگرچہ  
انھوں نے قاروئی صاحب کے اعتراضات کا جواب اکثر پروزن دیا ہے لیکن یہاں انھوں  
نے بات بدلتی ہے۔ قاروئی صاحب نے امام حسین، حضرت عبائش اور جناب علی اکبر کی  
یکساں خصوصیات کا ذکر کیا تھا۔ اشرکھنوی نے اس کا یہ مطلب نکالا کہ یہ خصوصیتیں تو اجداد  
سے ملتی ہیں اور حضرت امام حسین اور حضرت عبائش مختلف ابطح بھائی بھائی ہیں اور حضرت علی<sup>2</sup>  
اکبر اور حضرت قاسم پچازاد بھائی۔ اس لیے یکساں خوبیوں کا ہونالازی ہے۔

بہر حال خواجہ احمد قاروئی اور اشرکھنوی کے بیانات میں الجھے بغیر اتنا کہنا ضروری  
ہے کہ انہیں نے مدح کے پہلو اکثر سراپے میں نکالے ہیں اور کرواروں کی خصوصیات ایک  
دوسرے سے ملنے کے باوجود مختلف ہیں۔ بات حضرت عبائش اور جناب حرکی آمدکی چل رہی  
تھی۔ جناب حرکی مثال دی جا چکی۔ اب حضرت عبائش کی آمد ملاحظہ ہو، اس کی شان پکجہ اور  
ہے۔

رکھا قدم رکاب میں حیدر کے لال نے      نعلیں پا کو فخر سے چوما رکاب نے  
بجھتی جو صدر زیں کو ضیاء خوش بھال نے      دم کو چنور کیا فرس بے مثال نے  
کس شان سے وہ رنگ غزال ختن چلا  
طاوس تھا کہ سیر کو سوئے چمن چلا

<sup>1</sup> ”انہیں کی مریشہ نگاری“، اشرکھنوی، دانش محل، امین الدولہ پارک لہٰضہ، مطبوعہ، 1957ء، ص 18۔

وہ دبدبہ وہ سطوت شاہانہ وہ شباب      تھرا رہا تھا جس کی جلالت سے آفتاب  
وہ رعب حق کہ شیر کا زہرہ ہوا بآب      صولت میں فرد دفتر جرأت میں انتخاب  
صورت میں سارے طور خدا کے ولی کے ہیں  
شوکت پکارتی ہے کہ بینے علیٰ کے ہیں

پہنچا جو اس جلال سے وہ آفتاب دیں      دیکھا سپاہ کو صفتِ شیرِ خشم گیں  
گاڑا جو دبدبے سے علمِ ہلِ گئی زمیں      ہٹ ہٹ کے مورچوں سے پکارے وہ اہل کیں  
غازی ہے، صفتِ شکن ہے، جری ہے، دلیر ہے  
ہٹانہ تھا ترائی سے جو یہ وہ شیر ہے

رجیز:

رجزِ عرب میں جنگ کا قاعدہ تھا۔ پہلے کسی طرف سے ایک بہادر جنگ میں نکل کر  
فوجِ مخالف سے کسی کو اپنے مقابلے کے لیے بلاتا تھا۔ اسی کو مبارز طلبی کہتے ہیں۔ دونوں  
مقابلے میں آکر پہلے اپنی جرأت و شجاعت، اپنے کارناے، اپنے بزرگوں کے معز کے، اپنی  
قوم و قبیلہ کے فضائل بیان کرتے۔ اسی کو رجز کہتے ہیں۔

میر انیس نے امام حسینؑ کے رجز لکھنے میں یہ خیال رکھا ہے۔ جس طرح ان  
کے فضائل ہوں، اسی کے مطابق مضمایں رجز میں بیان کیے جائیں۔ امام حسینؑ کا رجز  
ملاحظہ ہو۔

واللہ جہاں میں مرا ہمسرنہیں کوئی      محتاج ہوں پر مجھ سا تو نگر نہیں کوئی  
ہاں میرے سوا شافعِ محشر نہیں کوئی      یوں سب ہیں مگر سبط پیغمبر نہیں کوئی  
باطل ہے اگر دعویٰ ایجاد کرے گا  
کسی پات پر دنیا میں کوئی باز کرے گا

ہم وہ ہیں کہ اللہ نے کوڑ ہمیں بخشنا      سرداریِ فردوس کا افسر ہمیں بخشنا  
اقبال علی خلق پیغمبر ہمیں بخشنا      قدرت ہمیں دی زور ہمیں زر ہمیں بخشنا  
ہم نور ہیں گھر طور تجلیا ہے ہمارا  
تحنث بن داؤد مصیلی ہے ہمارا

یہ فرق یہ عمامة سردار زمین ہے      یہ شیخ علیٰ ہے یہ کمر بند حسن ہے  
 یہ جوشن داؤد ہے جو حافظ تن ہے      یہ پیرہن یوسف کعنان محن ہے  
 دکھائیں سندر دست رسولِ عربی کی  
 یہ مہر سلیمان ہے یہ خاتم ہے نبی کی

☆

میں ہوں سردارِ شباب چمن خلد بریں      میں ہوں خالق کی قسم دوشِ محمدؐ کا مکیں  
 مجھ سے روشن ہے جہاں مجھ سے منور ہے زمین      میں ہوں انگشتی پیغمبرِ خاتم کا نکیں  
 ابھی نظروں سے نہاں نورِ جو میرا ہو جائے  
 محفلِ عالمِ امکاں میں اندھیرا ہو جائے

☆

سب قدرے ہیں گرفیض کے دریا یہیں تو ہم ہیں      ہر نکتہ قرآن کے شناسا ہیں تو ہم ہیں  
 حق جس کا ہے جامع وہ ذخیرہ ہیں تو ہم ہیں      افضل ہیں تو ہم عالم و دانا ہے تو ہم ہیں  
 تعلیمِ ملک عرش پ پھا ورد ہمارا  
 جبریل سا استاد ہے شاگرد ہمارا  
 گر فیض ظہور شہ لولاک نہ ہوتا      بالائے زمین گنبدِ افلاک نہ ہوتا  
 کچھ خاک کے طبقے میں بجز خاک نہ ہوتا      ہم پاک نہ کرتے تو جہاں پاک نہ ہوتا  
 یہ سور اذال کا سحر و شام کہاں تھا  
 ہم عرش پ جب تھے تو یہ اسلام کہاں تھا  
 آگے بڑھوں جو تیر کو چلے میں جوڑ کے      بھاگیں خطا شارکمانوں کو چھوڑ کے  
 بے کار کر دوں شیر کا پنجھ مرود کے      پکلوں زمین پر در خیر کو توڑ کے  
 اللوں طبع زمین کے یوں جھک کے زین سے  
 جس طرح جہاڑ فیتے ہیں گروائیں سے  
 یہ فضیلت اور شرافت کے متعلق رجز تھا۔ اب شجاعت کا رجز دیکھئے  
 خالق نے مرے قوت حیدر مجھے دی ہے      فیاض نے تو قیر پیغمبر مجھے دی ہے  
 مختار نے مختاری کوڑ مجھے دی ہے      کرار نے شمشیر دو چیکر مجھے دی ہے  
 کھل جائے گی دم میں برش اس شیخ دوسری کی  
 کنجی تو مرے ہاتھ میں ہے فتح ظفر کی

دنیا ہو اس طرف تو لڑائی کو سر کروں آئے غصب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں  
 بے جریل کار قباء و تدر کروں انگلی کے اک اشارے سے شق القبر کروں  
 طاقت اگر دھاؤں رسالت آب کی  
 رکھ دوں زمیں پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی  
 بخشنا ہے مجھے حق نے شہ لافتی کا زور اس وقت مرتش میں ہے دست خدا کا زور  
 ہے انگلیوں کے بند میں خبیر کشا کا زور پانی ہے میرے زور کے آگے ہوا کا زور  
 انہوں فلک کو یوں جو ہو قصد انقلاب کا  
 جس طرح نوٹ جاتا ہے ساغر حباب کا

(ج) تلوار کی تعریف :

سرپا، آمد اور رجز کے بعد سامع یا قاری کے ذہن پر ہیر و کی شجاعت اور انداز جنگ کی کوئی نہ کوئی تصویر ابھرتی ہے۔ اگر اسی مناسبت سے شاعر جنگ نہ دکھائے تو مریمیے کا اثر جاتا رہتا ہے اور مریمیے کی داخلی ہیئت مجروح ہوتی ہے۔ گھوڑے اور تلوار کے ذکر کے بغیر جنگ کا تصور ممکن نہیں۔ واقعہ کربلا 61ھ میں رونما ہوا۔ پارہ سو سال بعد اس کا بیان کرنا تھا۔ اس وقت کے آلات، حرب و ضرب عموماً خنجر، تلوار، نیزہ، گرز، تبر اور کمنڈ کا استعمال ہوتا تھا۔ جنگی مہارت کے لیے ششیر زنی کا میدان تھا۔ کہتے ہیں کہ انہیں خود اس فن سے واقف تھے۔ جودا و پیچ انہیں نے بیان کیے ہیں اسے دیکھ کر اس بات کی تقدیم ہوتی ہے کہ واقعی میر انہیں اس فن سے واقف رہے ہوں گے۔ پھر اس زمانے میں لوگ ہتھیار، گھوڑوں اور تلواروں پر فخر کرتے تھے۔ ٹپو سلطان کی تلوار آج بھی موجود ہے، جس سے اس کے دست بازو کا اندازہ کیا جاسکتا ہے اور اس کی شجاعت کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اعتراض درست نہیں کہ میر انہیں نے جو اہمیت گھوڑے اور تلوار کو دی ہے، اتنی اپنے مددوں کو نہیں دی۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ گھوڑے اور تلوار کی تعریف دراصل اس بہادر کی تعریف ہے جو اس فن سے واقف ہے۔ اب چند بند تلوار کی تعریف میں لاحظہ ہوں کیونکہ انہیں کے موضوعات میں اس کو بڑا دخل ہے۔

توار کے سلسلے میں ائمہ نے بڑی سحر بیانیاں کیں ہیں۔ کیش نے کہا ہے کہ ہر  
 حسین شے باعث صرت ہوتی ہے۔ ائمہ توار کا حسن بیان کرتے ہیں۔  
 کاٹھی سے اس طرح ہوئی وہ شعلہ زوجدا جیسے کنارِ شوق سے ہو خوب رو جدا  
 مہتاب سے شعاع جدا، گل سے بوجدا سینے سے دم جدا، رگ جاں سے گلو جدا  
 گرجا جو رعد، ابر سے بجلی نکل پڑی  
 محمل میں دم جو گھٹ گیا، لیلی نکل پڑی  
 دھار ایسی رواں ہوتا ہے دھارا جیسے گھاث وہ گھاث کہ دریا کا کنارا جیسے  
 چک ایسی کہ حسینوں کا اشارا جیسے روشنی تھی کہ گرے ٹوٹ کے تارا جیسے  
 کونڈنا برق کا شمشیر کی ضو میں دیکھا  
 لیکن ایسا تو نہ دم خم مسرنو میں دیکھا  
 توار کے جمال کی تصویر کے ساتھ ساتھ توار کے جلال کی تصویر دیکھتے۔  
 غل تھا کہ وہ چمکتی ہوئی آئی یہ گری بچھی سے اڑ گئی وہ سنال، یہ گرہ گری  
 ترش کٹا، کمان کیانی سے زہ گری یہ سر گرا، وہ خود گرا، یہ زرہ گری  
 آتی ہے لشکروں پر تباہی اسی طرح  
 گرتی ہے برق قهر الہی اسی طرح  
 چمکی گری اٹھی، ادھر آئی ادھر گئی خالی کیے پرے تو صفین خون میں بھر گئی  
 کانے کبھی قدم کبھی بالائے سر گئی ندی غضب کی تھی کہ چڑھی اور اڑ گئی  
 اک شور تھا یہ کیا ہے جو قہر صد نہیں  
 ایسا تو رو دنیل میں بھی جزو دن نہیں  
 ہر پاتھ میں اڑا کے کلائی نکل گئی کونڈی گری زمیں میں سائی نکل گئی  
 کائی زرہ دکھا کے صفائی نکل گئی مچھلی تھی اُک کہ دام میں آئی نکل گئی  
 چار آئینے کے پار تھی اس آب تاب سے جس طرح برق گر کے نکل جائے آب سے

پیاسی بھی خون فوج کی اور آب دار بھی      غل تھا کہ ایک گھٹ میں پانی بھی نار بھی  
 بجلی بھی ابر تر بھی خزان بھی بھار بھی      تموار بھی، چھری بھی، سپر بھی، کثار بھی  
 پانی نے اس کے آگ لگادی زمانے میں  
 اک آفت جہاں تھی لگانے بھانے میں

#### (د) گھوڑوں کی تعریف:

تموار کی طرح انیں نے گھوڑے کی تعریف میں بھی کمی بند تحریر کیے ہیں۔ ان  
 بیانات میں جہاں مبالغے سے کام لیا ہے وہاں خیال کی رو بھکننے نہیں پاتی، بلکہ اور روشن اور  
 واضح ہو جاتی ہے، لیکن کہیں کہیں انہوں نے بغیر کسی مبالغے کے عربی گھوڑے کے اوصاف  
 بیان کیے ہیں۔

گھوڑے تھے چھلا وہ کبھی یاں تھے کبھی واں تھے      پلی میں تو پھرتے تھے پرانکھوں سے نہاں تھے  
 یاں تھے جو سبک رو تو اور گرم عناء تھے      بجلی تھی کسی جا تو کہیں آب روں تھے  
 ہوسکتی تھی چھیتے سے یہ سرعت نہ ہرن سے  
 جھونکے تھے ہوا کے کرنل جاتے تھے سن سے

بے آب تھے دوں سے یہ جاں دار تھے گھوڑے      ہر مرتبہ اڑ جانے پہ تیار تھے گھوڑے  
 اس پار کبھی تھے کبھی اس پار تھے گھوڑے      نقطہ تھی وہ سب فوج کے پر کار تھے گھوڑے  
 دکیں تو مر جاتے تھے ناپول سے کلک کے  
 بڑھ سکتا نہ تھا اک بھی احاطے سے اجل کے

#### (ه) جنگ:

تموار اور گھوڑوں کے بیانات کے علاوہ جنگ کا ایک پہلو انفرادی لڑائی ہے، جہاں  
 کوئی ایک بہادر مبارز طلبی کرتا اور اس کے چیلنج کو قبول کرنے والا دست بد دست جنگ کرتا  
 ہے۔ انیں سے پہلے جنگ کے بیانات تو ملتے تھے مگر مجاہدوں کے بیانات نہیں ملتے۔ انیں  
 بقول سعی الزماں۔ ”چونکہ بیانات کو مطابق فطرت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے شور

وتناسب سے جنگ کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں کہ تشویش اور منتہی کے اندر ورنی عناصر کے ساتھ محل کی نقل نظر آتی ہے اور جدت بھی میدان نظر رہتی ہے۔<sup>1</sup>

علیٰ اکبر کی ایک پہلوان سے جنگ کا بیان ملاحظہ ہو۔

نیزے ہے وہ چل گئیں چوٹیں کہ الامان ہر طعن قہر کی تھی، قیامت کی ہر نکاح  
چنگاریاں اڑیں جو سنان سے لڑی سنائیں دواڑد ہے گئے تھے نکالے ہوئے زباس  
پھیلے شر پر ندوں کی جانیں ہوا ہوئیں  
شموعوں کی تھی لویں کہ ملیں اور جدا ہوئیں

ان کی طرف خدا تھا ادھر لشکر ضخیم سردار شام سب تھے میان امید و یتم  
وہ کفر میں قوی یہ رہ حق میں مستقیم دنوں طرف سے تھی کشش و کوشش عظیم  
ہالے تھے دو ملے ہوئے گھوڑوں کی گشت سے

خاک آسمان پر جاتی تھی اڑاڑ کے دشت سے

دست بدست جنگ کے علاوہ جنگ مغلوبہ کا بیان بھی انیس نے اسی خوش اسلوبی سے کیا ہے۔ انیس کے بعض مرثیے ایسے ہیں جو پوری طرح رزمیہ کے نمونے نظر آتے ہیں۔  
مرثیہ ”جب باد بانی کشتی شاہِ امّگرا“ میں حضرت علیٰ اکبر کی میدانِ جنگ میں جانے اور جو ہر شجاعت دکھانے کی مصوری نہایت جاندار اور موثر ہے۔ اعزاء و اقربا سے رخصت ہو کر میدانِ جنگ میں ورکو قدم پر قدم نہایت سلیقے سے دکھلایا گیا ہے۔ جنگ کے بادل منڈلاتے نظر آتے ہیں، بادل اور گہرے نظر آتے ہیں آخر کار حضرت علیٰ اکبر حملہ کرتے ہیں۔

سر لوٹتے تھے برچھیوں والوں کے ہر طرف ٹکڑے پڑتے تھے دشت میں ڈھالوں کے ہر طرف پامال تھے سوار رسالوں کے ہر طرف پکالے اڑتے پھرتے تھے ڈھالوں کے ہر طرف

خاطر نشان نہ تھی کسی آفت نشان کی

انبار تھیں کئی ہوئی شاخیں کمان کی

نذکورہ بالایانات سے جنگ کا کچھ اندازہ ہو گیا ہو گا۔ طوالت کے خوف سے اس

1۔ ”اردو مرثیے کا ارتقاء“، مُتحِّمِ الزماں، ص 352۔

بیان کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ انیس کے کلام میں موضوعات اتنے وسیع ہیں کہ منوان سے تفصیلی گفتگو، بہت دشوار ہے۔ دیگر یہ کہ ہم پہلے باب میں فنِ مرثیہ گوئی سے بحث کرچکے ہیں۔ یہاں اتنا کہنا ضروری ہے کہ انیس کے مرثیے کو زمیہ کہنے پر اصرار کرنے والے نقادوں میں مسعود حسین رضوی، احتشام حسین، اثر لکھنؤی، سچ العزم، اکبر حیدری وغیرہ ہیں، جب کہ اس کے برخلاف کلیم الدین احمد، ڈائٹر احسن فاروقی وغیرہ انیس کے مرثیوں کو زمیہ مانتے ہے گریز کرتے ہیں۔ یہاں دونوں نقادوں ایسے ہیں، جنھیں مرثیے کو زمیہ کہنے پر اصرار نہیں۔ ایک آل احمد سرور اور دوسرے پروفیسر فضل امام رضوی۔ ان کے بیانات نقل کیے جاتے ہیں:

”انیس کے مراثی کو اپیک کے معیار پر کھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بلاشبہ ان میں اپیک کے عناصر موجود ہیں مگر مرثیے اپیک نہیں ہیں یا اپیک پارے ہیں۔ ان کا جواز ایک مجلس میں سنتے اور سنانے کی مدت ہے اور مدرس کے فارم میں سامنے کے ذہن کو متوجہ کرنے کی صلاحیت۔ انیس کے مراثی میں بیان کی روائی مسلم ہے مگر یہ روائی ایک ہمارا سٹرپ پر چلنے کی نہیں ہے۔ برابر کی سیڑھیوں پر ہمارا قدموں کی روائی ہے۔ اس کا نبھانا آسان نہیں۔ غالب جیسا قادر الکلام شاعر ہی اسے بھاری پھر سمجھ کر چوم کر چھوڑ دیتا ہے۔“<sup>1</sup>

پروفیسر فضل امام رضوی بھی اسی طرح کی رائے پیش کرتے ہیں:

”مرثیہ نہ تو ڈرامہ کہا جا سکتا ہے اور نہ ناول اور نہ تو خالصہ رزمیہ یا اپیک۔ یہ مرثیہ ہے اور صرف مرثیہ ہی نہیں“ اردو مرثیہ“ ہے۔ اس کے مطالبات قواعد و ضوابط لازمی طور سے اپنے ہوں گے اور اسی لیے دیگر اصناف میں سے مختلف بھی ہوں گے۔“<sup>2</sup>

اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں:

<sup>1</sup> ”انیس کی شاعران عظمت“، آل احمد سرور، مشمولہ مضمون ”انیس شناسی“، مرتب گوپی چند نارنگ۔

<sup>2</sup> ”انیس شخصیت اور فن“، پروفیسر فضل امام رضوی، ص 104۔

”میرے خیال میں مراثی انیس کو محض رزمیہ (pic:1) تسلیم

کرنا بھی مناسب نہیں۔ رزمیہ کی تعریف اور دائرہ کار اور مرثیہ کی تعریف اور احاطہ کار میں فرق ہے..... انیس کے بعض مراثی تو رزمیہ شاعری کے اعلیٰ اور عمدہ ناموں نے بھی پیش کرتے ہیں لیکن وہ بنیادی طور پر مرثیہ ہی ہیں، رزمیہ نہیں۔ رزم و بزم کے میدان انیس کے مراثی میں جدا ہوتے ہوئے بھی تاں مجلس یعنی میں میں برابر کے شریک ہیں۔“<sup>1</sup>

بزم کا رنگ جدا رزم کا میدان ہے جدا      یہ جن اور ہے زخموں کا گلستان ہے جدا  
فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنوال ہے جدا      منحصر پڑھ کے رلا دینے کا ساماں ہے جدا  
د بد پہنچی ہو مصائب بھی ہوں تو صیف بھی ہو  
دل بھی محظوظ ہوں رقت بھی ہو تعریف بھی ہو

(۳)

میر انیس فیض آپاد میں پیدا ہوئے اور لکھنؤ میں ان کی مرثیہ گوئی کو فروغ حاصل ہوا۔ ان کے زمانے میں شعر گوئی کے دو انداز عام تھے۔ ایک انداز قدیمی تھا، جو اپنے وسیع معنوں میں دہلوی شعرا سے منسوب کیا جاتا تھا۔ یعنی تغزل، درودندی، سوز و گلزار، جذبات لگاری، روائی، لطف بیان، اداۓ معنی میں حسن سلیقہ جسے عرف عام میں فصاحت کہتے ہیں۔ دوسرا وہ جسے ناخُ اور ان کے شاگردوں نے رانج کیا تھا یعنی قدرت بیان، لفظی شبude گری، صنائع لفظی و معنوی، مضمون آفرینی، نازک خیالی اور علیت کا اظہار شاعری کا مقصد سمجھا جاتا تھا۔ انیس نے اپنے عہد کے اس غالب رحمان سے انحراف کیا۔ انھوں نے لکھنؤ اور دہلی کے عام شعرا کی تاسی نہیں کی۔ ان کا ذہن مقامی تھببات سے پاک تھا۔ انیس کے حرکات شعری میں ترمیم شدہ ہیئت مرثیہ کی صلاحیتوں اور اکتساب کو بڑا اڈل ہے۔ انیس روزمرہ کو فصاحت و سلاست کا جز سمجھتے تھے۔ لیکن ہر روزمرہ کو نہیں بلکہ صرف شرقا کے روزمرہ کو اختیار کرنے کے قائل تھے۔ روزمرہ کے علاوہ انیس نے صنای کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ صنای پر

<sup>1</sup> ”انیس شخصیت اور فن“، پروفیسر فضل امام رضوی، ص 111۔

خاص توجہ دینے کے قائل نہیں۔ وہ صنائی کو روائی اور سلاست کا روزابھی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن ایسی صنائی کا استعمال جائز سمجھتے تھے، جو آسانی سے ہر قاری یا سامع کی سمجھ میں آسکے۔ ”میرا نیس صنائع کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ فصاحت کے شرائط اور بлагعت کے لوازم میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔“<sup>1</sup>

فصاحت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کلام میں تنافر نہ ہو، غرابت نہ ہو اور قیاص لغوی کی مخالفت نہ ہو۔ یہ فصاحت ہر لفظ میں ہو اور پھر تمام لفظوں میں باہم تابع اور توازن ہو۔ اس کے مقابلے میں بлагعت یہ ہے کہ کلام مقتضائے حال کے موافق ہو اور اس میں شرائط فصاحت بھی موجود ہوں۔ سلاست اشکال، سادگی و زیینی، طول و اختصار، سب پچھ بлагعت کے اندر آ جاتا ہے۔ میرا نیس کے کلام میں فصاحت و بлагعت کے تمام لوازم موجود ہیں۔ گفتگو اور مکالمے میں بھی انس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔

(۲)

انیس نے مرثیہ میں اخلاقی مضامین کثرت سے بیان کیے ہیں۔ انیس کے دور میں جب قدریں ٹوٹ رہیں تھیں، انیس نے ان اخلاقی قدروں کو اپنا موضوع بنایا جو ان مث ہوتی ہیں۔ خدا شناسی اور خود شناسی، عقیدہ اور ایمان، دیانت اور شرافت، حق پرستی، عفو و کرم، ایثار و قربانی، شجاعت و جاہ بازی، وفا اور جاہ شماری، صبر و استقلال، راضی بہ رضا رہنے کا حوصلہ، رشتتوں کی پاسداری اور انسانیت کا درد، خلوص و محبت، حق کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ، بے شبانی دنیا وہ قدریں ہیں، جن کو فنا نہیں اور انیس نے ان قدروں کو اپنے مرثیوں میں جگہ دی ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

دنیا عجب گھر ہے کہ راحت نہیں جس میں یہ گل ہے وہ گل بوئے محبت نہیں جس میں یہ دوست ہے وہ دوست مرد نہیں جس میں

بے درد والم شام غریباں نہیں گذری

دنیا میں کسی کی کبھی یکسان نہیں گذری

<sup>1</sup> ”انیسیات“، مسعود حسن رضوی، ص 115۔

زندہ ہوں تو آخر کبھی مرتا کہ نہ مرتا آتی ہے اجل، سر جوتہ تنخ نہ دھرتا  
پیانے مری عمر کا آخر کبھی ڈھلتا گھر میں بھی جو ہوتا تو سفر خلق سے کرتا  
پر آج کے مرنے میں بہن اور مزار ہے  
خوشنودی معبود ہے امت کا بھلا ہے

انیس نے مرشیوں میں کرداروں کی پوری دنیا آباد کر دی ہے۔ انہوں نے کرداروں  
کے ظاہری اعمال و کیفیات کو جس تفصیل اور فن کاری سے پیش کیا ہے اس نفایات شاسی کی  
منزل تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ان کے مرشیوں کے ہیرہ تاریخ کی زندہ اور حقیقی شخصیتیں  
ہیں، انیس کی اپنی تخلیق نہیں۔ روایات و تاریخ سے ان کے بارے میں کچھ اشارے بھی موجود  
ہیں۔ پھر واقعات کی ترتیب بھی ان کی اپنی نہیں، وہ تاریخ و روایات کے حدود میں رہنے پر مجبور  
تھے۔ اسلام کی اخلاقی قدروں اور تصورات پر بھی انیس نے کرداروں کی بنیاد رکھی۔

ان تصورات کو کرداروں میں ڈھالنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس عمل میں ذرا سی  
لغزش کرداروں کو خیالی کردار بنادیتی ہے، جن میں عمل اور حرکت کم ہوتی ہے۔ انیس کے کردار  
گوشت پوست کے زندہ انسانی افراد ہیں۔ انیس جن اخلاقی اقدار کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں وہ  
کرداروں کے عمل اور ڈرامائی مواقع کے سیاق و سماق میں خود بخود ابھرتی ہے۔ جو واقعات کے  
بھاؤ میں فطری طور پر پیدا ہوتی ہے۔ انیس نے ان ڈرامائی مواقع کی تخلیق میں تھوڑی سی آزادی  
سے کام لیا ہے، لیکن ان کی آزادی تاریخی حقائق سے متصادم نہیں ہونے پاتی۔

کہا جاتا ہے کہ مرشیے میں کسی شخصیت کے پورے حالات زندگی نہیں، دوسرے یہ  
کہ ایک جماعت مخصوص اور دوسری جماعت ناری و بدکار۔ انیس کی سیرت ٹھاری کے آئینے  
میں امام حسین ان کے اعزہ، اصحاب میں ہر کردار ایک دوسرے سے الگ پہچانا جاتا ہے۔  
عباش شجاعت ووفا کے پیکر ہیں، عون و محمد طفلانہ جرأت کے نمونے، علی اکبر سیرت رسول  
کے آئینہ دار تو قاسم غیرت حسین کے ورثدار، حرب کار کردار ہے جو شر کو چھوڑ کر خیر کی  
طرف آیا ہے۔

حضرت عباس کا کردار ملاحظہ ہو ۔

کون اور کائنات میں ہے دوسرا جواں قابل اسی کے دو شمارک کے ہے نثار  
بازوئے شاہ دیں جسد مرتضی کی جاں بیرون کا سر پرست جوانوں کا قدر داں

جو با تیں پیغمبر کے خدا کے ولی میں تھیں  
سب اس میں جمع ہیں صفتیں جو علیٰ میں تھیں

الفت وہی، حیا وہی، مہرو وفا وہی طاعت وہی، وقار وہی، دبدبہ وہی  
بجنخش وہی کرم وہی جودو سخا وہی جرأت وہی جلا وہی، دبدبہ وہی  
گہنی میں اور بھی کوئی ایسا دلیر ہے

بے مثل سب ہیں قبلہ عالم کے رشتہ دار لیکن خدا نے اس کو دیا ہے عجب وقار  
جیسے نبی کی فوج میں تھے شیر کردار گار ویسا ہی بے عدیل ہے یہ شہ کا جاں ثناں

سب فوج سے بڑھا ہوا رتبہ اسی کا ہے  
شیر خدا کے بعد یہ حصہ اسی کا ہے

انیس نے اپنے کرداروں میں ایسے نفیاتی پہلو پیدا کیے اور مختلف حالات میں ان  
کے عمل اور رد عمل کو ایسی چاکب دستی سے پیش کیا ہے کہ ان کرداروں کی شخصیت ابھر کر سامنے  
آئی ہے۔ انیس کے مرثیوں کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ باوجود دیکھ  
امام حسین کے سب ساتھیوں میں تمام پسندیدہ خصائص مشترک ہیں، پھر بھی انہوں نے ان  
خصائص میں باریک پہلو پیدا کیے ہیں کہ ان کی شخصیتیں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں۔  
پروفیسر احتشام حسین لکھتے ہیں:

”جب کرداروں کے متعلق ناواقفیت ہو اور اشاروں  
کنایوں اور استعاروں کی زبان سمجھ میں نہ آئے اس وقت یہ سمجھنا کہ  
شاعر کردار نگاری میں ناکام رہا ہے، شاعر کے ساتھ ناالنصافی ہے۔

مر شیعہ نقشِ کاری، ناول اور ذرا مے کی کردار سازی سے مختلف ضرور ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ انیس نے کرداروں کی ظاہری اور پاطنی، جذباتی اور ذاتی کیفیات اور نفیات کا لحاظ نہیں رکھا اور بنے بنائے کرداروں کو بنی بنائی شکون میں بغیر کدو کاوش کے پیش کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کروں کا عمل ہمیں متاثر نہ کرتا اور ہمیں اس کے مختلف مجس نہ بناتا۔ شاید ان کے کرداروں کے جاندار ہونے کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ میر انیس نے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ امام حسین اور ان کے ساتھی الوہی شان رکھتے تھے، عام طور سے کردار کے انہی پہلو ہی پر زور دیا۔<sup>1</sup>

اصحابِ صین کی تصویر میر انیس نے اس طرح پیش کی ہے۔  
 سو کھے لبوں پہ حمد الہی رخوں پہ نور خوف و ہراس و رنج و کدورت دلوں سے دور  
 فیاض، حق شناس اولو العزم ذی شعور خوش فکر بزلہ شخ و هنر پرور و غیور  
 کانوں کو حسن صوت سے حظ بر ملا ملے

باتوں میں وہ نمک کہ زبان کو مزالتے  
 ملتا نہیں ہے ایک جوان ایک کے گلے ساری خوشی یہ ہے کہ بس اب خلد میں چلے  
 چہرے وہ سرخ سرخ وہ جرأت کے دلو لے حق سے یہ التجا کہ نہ رن سے قدم ملے  
 مرکر بھی دل میں الفت حیدر کی بورہ ہے  
 پانی ہمیں ملے نہ ملے، آبرو رہے

یہاں احتشام صاحب کے اس قول کو یاد کیجیے، جس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ جب اشاروں کنایوں کی زبان سمجھ میں نہ آئے تب اس طرح کا دھوکا ہوتا ہے کہ انیس اصحابِ صین کی اس سے بڑی کمزوری اور کیا دکھاتے "حق سے یہ التجا کہ نہ رن سے قدم ملے"۔ انیس کی یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ واقعات اور کردار کے ذیل میں اپنی نفیاتی پہنچ کا ثبوت

<sup>1</sup> "نقوش" لاہور، انیس نمبر، 1981، ص 720۔

دیتے ہیں۔

امام حسین کے کردار کو مریشے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ میر انیس نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ جس طرح تاریخ دروایات و احادیث میں ان کی سیرت عدیم المثال تھی، مریشے میں بھی بے مثال ہو گئی۔

لو الوداع، لاش پہ اب آکے روئیو  
لیکن نہ خاک اڑا کے نہ چلا کے روئیو  
زانو پہ سر کو شرم سے نہوڑا کے روئیو قبر رسول پاک پہ اب آکے روئیو  
لنے میں صبر، شکر بتاہی میں چاہیے  
رونا بشر کو خوف الہی میں چاہیے



بھولے نہ یاد حق کبھی گو حال غیر ہو  
اس کی ظفر ہے، خاتمه جس کا بیٹر ہو  
انیس کے پیشتر کردار مکالمے سے ابھرتے ہیں۔ انھیں شاعر نہیں ابھارتا۔ یہ کردار  
کہانی کے بیچ دھم میں واقعات کے تسلسل سے خود بخود ابھرتے ہیں۔ میر انیس نے ان  
کرداروں کی بول چال میں نفرت، محبت، شجاعت، غصہ، پیار، تاکید جیسی فطری صورتیں داخل  
کر دیں کہ اردو مریشے کا ہر کردار اور ہر منظر ایک واقعائی صداقت معلوم ہوتا ہے۔  
تقریباً بارہ سو سال بعد ان کرداروں کو پیش کرنے میں انیس کو بہت سی جغرافیائی  
اور زمانی حدود کی دشواریاں تھیں، اس لیے ان کے کرداروں میں مقامی رنگ بھی آگیا۔

(۵)

انیس کے مراثی میں محاذات اور مناظر و کیفیات کی تصویر کشی کے سیکڑوں مواقع  
آتے ہیں اور وہ بڑی چاکب دستی سے حق مصوری ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر احسن فاروقی 1 نے  
میر انیس کی مصوری کو چھ حصوں میں تقسیم کیا ہے:

1۔ ”مریشہ نگاری اور میر انیس“، ڈاکٹر احسن فاروقی، ص 100۔

(1) بے حس و حرکت اشیاء کی مصوری

(2) مناظر قدرت

(3) متحرک تصویریں

(4) حالات کی تصویریں

(5) مسلسل و مرکب تصویریں

(6) احساسی (Sensuous) رجحانات

میر انیس کی مصوری اور پیکر تراشی ایک موضوع ہے، جس پر پورا ایک طویل مقالہ تحریر کیا جاسکتا ہے۔ یہاں ہم میر انیس کے دو بند نقل کرتے ہیں، جس سے ان کے فن مصوری اور پیکر تراشی پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک بند میں وہ مرقع، ورق، مولم، رنگ، سایہ و نور، لکیر وغیرہ کے تلاز میں لاتے ہیں تو پڑھنے والا خود انیس کی لفظی تصویریوں میں سایہ و نور کی فن کارانہ آمیزش، رنگوں کا امتزاج اور لکیروں کی پختگی تلاش کرنے لگتا ہے۔

وہ مرقع ہو کہ دیکھیں اسے گر اہل شعور ہر ورق میں کہیں سایہ نظر آئے کہیں نور غل ہوا یہ ہے کشش مولم طرہ حور صاف ہر رنگ سے ہو قدر صانع کا ظہور

کوئی ناظر جو یہ نایاب نظیریں سمجھے

نقش ارٹنگ کو کاداک لکیریں سمجھے

قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ شمع تصویر پہ گرنے لگیں آآ کے پنگ صاف حیرت زدہ معنی ہوں تو بہزادہ ہو دنگ خوں برستا نظر آئے جو دکھاؤں صفحنگ

رمزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھرک جائیں ابھی

بجلیاں تیخوں کی آنکھوں میں چک جائیں ابھی

انیس نے جو مناظر دکھائے ہیں، ان میں ایک بات مشترک نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی واقعہ کو قلم کرنے سے زیادہ اس کی صورتی حال کو نمایاں کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ بقول ساجدہ زیدی:

”انیس نے واقعات کا عام ڈھانچہ لے کر اس میں اپنے تخيّل

سے ایسی رنگ آمیزی کی ہے کہ اسے انسانی زندگی کا ڈرامہ بنادیا

ہے۔ مناظر فطرت کی شاعری انیس کے مرثیوں کے بعض خوبصورت ترین حصے ہیں، لیکن منظر انیس کے یہاں فی نفسہ زیادہ اہم نہیں بلکہ انسانی کیفیات کا پس منظر ہیں۔<sup>1</sup>

میر انیس نے اپنے مناظر میں عالم عناصر اربع آتش و آب و باد و خاک سے بہت کام لیا ہے اور ان عناسrk کی مدد سے حواسِ خسہ پر ضرب لگاتے ہیں۔ پیکر تراشی حواسِ خسہ میں کسی ایک سے زیادہ کو متاثر کرنے کا نام ہے۔

انیس کے مناظر کی کئی قسمیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں واضح ہیں۔ بعض جامد مناظر اور متحرک مناظر۔ جامد مناظر میں انیس کسی ایسی صورت حال کو سامنے لاتے ہیں، جس میں کوئی تبدیلی یا عملی ارتقاء نہیں ہوتا۔

پچھلے سموں پر رکھے ہے سر دوسرا بہن	کپڑے شکار بند کو ہے بیوہ حسن
روکے ہے راہِ زوجہ عباش صفت شکن	گھونگھٹ دھر رے ہے بال پاک رات کی دہن

صدے سے قفر قبری ہے تن خوش خرام میں  
ذالے ہے نخے ہاتھ سکینہ لجام میں

متحرک مناظر کی ایک مثال یہ ہے کہ جہاں امام زین العابدین اہل حرم کے قافلے کے ساتھ اسیر ہو کر میدان جنگ کی طرف سے گزرتے ہیں اور پھر انہیں شہدائے کر بلا کی لاشیں نظر آتیں ہیں۔ یہاں حلقة نگاہ میدان جنگ کے نشیب و فراز کو تاپتا، لاشوں پر رکتا آگے بڑھتا جا رہا ہے۔

اس شکل میں صحرا میں پڑے تھے وہ دلاور	جس طرح مرقع کوئی ہو جاتا ہے ابتر
سوتے تھے کہیں خاک پہ دو بھائی برابر	دولھا کوئی پاماں تھا گھوڑوں سے سراسر
بندے کوئی پہنچنے ہوئے پیارا سا پڑا تھا	
ریتی پہ کوئی طفیل ستارہ سا پڑا تھا	

<sup>1</sup> ”انیس کی شاعری میں نفیاں آگئی“، ساجدہ زیدی، شمولہ مصون، ”انیس شناسی“، مرتب: گوپی چند

سوتا تھا لب نہر کوئی ہاتھ کنائے      تھا خواب اجل میں کوئی بچل برچھی کا کھائے  
 تھے جسم نہ میں عرض غسل نہائے      اتنا بھی نہ تھا کوئی کہ قبریں تو بنائے  
 دم نکھ تھے مشکل سے کروہ تازہ جوان تھے  
 پلاۓ زمیں پاؤں آہڑنے کے نشان تھے  
 کہیں کہیں انیس ایک ہی منظر میں دونوں تصویر اتار دیتے ہیں ۔  
 زخمی بازو ہیں کمرخم ہے بدن میں نہیں تاب      ذگگاتے ہیں نکل جاتی ہے تدمون سے رکاب  
 پیاس کا غالبہ ہے لب خشک ہیں آنکھیں پر آب      تنخ سے دیتے ہیں ہر وار کا اعدا کو جواب  
 شدت ضعف میں جس جاپہ پھر جاتے ہیں  
 سیکڑوں تیر تم تن سے گذر جاتے ہیں  
 گیسو آلودہ خون لپٹے ہیں رخاروں سے      شانے کٹ کٹ کے لٹک آئے ہیں تکواروں سے  
 تیر پیوس تیز خون بہتا ہے سوفاروں سے      لاکھافت میں ہے اک جانستنگاروں سے  
 فکر ہے بجدہ معبدوں میں سر دینے کی  
 دار سے تیغوں کے فرصت نہیں دم لینے کی



اترا یہ حن کہہ کے وہ کونین کا والی      خاتم سے نگیں کر گیا زین ہو گیا خالی  
 اس دکھ میں نہ یاد رکھنے نہ مولا کے موالي      خود نیک کے تکوار کو سنبھلے شہ عالی  
 کپڑے تن پر نور کے سب خون میں بھرے تھے  
 اک ہاتھ کو تکوار کی گردان میں دھرے تھے  
 میر انیس نے واقعات کی تصویر کشی اور احساسات کی تشکیل اس قدر مہارت سے کی  
 ہے کہ بے جان چیزوں میں بھی جان ڈال دی ہے اور وہ مناظر جو ادبی گرفت سے باہر تھے،  
 جن کا تعلق فقط احساس یا ادراک سے تھا لفظوں کے آنکھیوں میں اتار لیے ہیں ۔  
 بلبلوں کی وہ صدائیں وہ گلوں کی خوشبو      دل کو الجھاتے تھے سنبل کے وہ پرخ گیسو  
 قریاں کہتی تھیں شمشاد پہ یا ہو یا ہو      فاختہ کی یہ صدا سرو پہ تھی کوکو

وقت تبغ کا تھا عشق کا دم بھرتے تھے  
 اپنے محبوب کی سب حمد و شکر تے تھے  
 صح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور زمزے کرنے لگے یادِ الہی میں طیور  
 مش خورشید برآمد ہوئے نیمے سے حضور یک بیک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور  
 شش جہت میں رخ مولا سے ظہور حق تھا  
 صح کا ذکر ہے کیا چاند کا چہرہ فتن تھا  
 مُحنَّدی مُحنَّدی وہ ہوا میں وہ بیابان و شجر دم بدم جھومتے تھے و جد کے عالم میں شجر  
 اوس نے فرش زمرد پہ بچھائے تھے گہر لوٹی جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر  
 دشت میں جھوم کے جب باد صبا آئی تھی  
 صاف غچوں کے چلتکے کی صدا آئی تھی

(۶)

مراٹی انیس کے مختلف پہلوؤں کا ذکر ہو چکا۔ مذکورہ بالاعبارت سے ظاہر ہو چکا  
 ہو گا کہ انیس کے مظہر نامے کسی کیفیت کو ابھارنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ چونکہ مریثے کا ایک  
 مقصد شہادتِ حسین واصحاب پر آنسو بہانا بھی ہے اور یہی مریثے کی روح ہے اس لیے انیس کی  
 جذبات نگاری پر بھی چند سطریں تحریر کی جاتی ہیں:  
 میرا نیس نے تین عنان صترت کییں کا ذکر کیا ہے:

☆ رزم ☆ وربزم ☆ رشا ☆

بزم کا رنگ جدا، رزم کا عنوان ہے جدا      یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستان ہے جدا  
 فہم کامل ہوتا ہر نامے کا عنوان ہے جدا      مختصر پڑھ کے رلا دینے کا سامان ہے جدا  
 دب دب بھی ہو مصائب بھی ہو تو صیف بھی ہو  
 دل بھی مختلظ ہوں، رقت بھی ہو تعریف بھی ہو  
 رزم و بزم کا ذکر ہو چکا۔ میں مریثے کا لازمی جز ہے مگر انیس کے یہاں میں مختصر ہے۔ رخ والم

کے پہلو انیس نے رخصت اور شہادت اور دوسرے واقعات پر پیدا کیے ہیں۔ اگرچہ اکثر میں بھی ایسے ہیں جن سے پھر کا دل پانی ہو جائے۔ امام حسین کو وقت آخر اپنے بیٹے علی اکبر کی یاد آرہی ہے۔

بیٹے ہوتم امام کے پوتے امام کے کام آؤ مرتبے دم پر تشنہ کام کے آتے ہیں پھر پلٹ کے پے فوج شام کے بھلا دو قبلہ رومے ہاتھوں کو تھام کے جاتی ہے اب نماز بھی اعدا جو پھر پڑیں رعشہ ہے خود فرس سے جواتریں تو گر پڑیں

حسین اپنے نھے علی اصغر کو زمین پر لٹا دیتے ہیں۔ ایک قطرہ آب کا سوال کرتے ہیں۔ کوئی پانی نہیں پلاتا۔ اب حسین ششم ہے کو اٹھایتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا انیس کی زبانی سننے شیر نے اس چاند کو ہاتھوں پہ اٹھایا چلنے سے کماں دار نے وال تیر ملایا خم ہو کے اسے مثل کماں شہ نے بچایا مانند اجل ناول ظلم و ستم آیا شیر چھپاتے رہے نازوں کے پلے کو بازو پہ لگا توڑ کے نھے سے گلے کو

حلقة تو وہ دو ناک کا اور تیر سے پہلو دل سہم گیا چونک پڑے اصغر مہ رو گردن سے لہو بہنے لگا آنکھوں سے آنسو منہ کھل گیا قہرانے لگے نھے سے بازو گل رنگ ہوا طوق گلوخون سے بھر کر ریتی پہ کڑے گر پڑے ہاتھوں سے اتر کر

فوارہ چھٹا حلقت سے بچے کے لہو کا سب خون میں تر ہو گیا نہما سا شلو کا دم آکے رکا حلقت میں اس تشنہ گلو کا خون منہ سے اگلنے لگا وہ دودھ کا بھوکا ننھی سی دہنی پی بھی گری جاتی تھی سر سے جب آتی تھی ہیچکی تو لپٹتا تھا پدر سے

میرا نیس نے جذبات کے مختلف مدارج کو جس طرح پیش کیا ہے، انھیں کامال ہے۔ کبھی کبھی مختلف جذبات انسان کے دل میں ابھرتے ہیں، اس کنش کا بیان برا مشکل

ہو جاتا ہے۔ جیسے محبت و حیا، غصہ اور پاس اور کہیں فرض اور محبت کے جذبات، ان جذبات کا  
نکرا اُجیب کیفیت پیدا کرتا ہے۔ ایس ایسے منازل سے بھی گزر جاتے ہیں۔ شجاعت اور  
پاس ادب کی ایک مثال ملاحظہ ہو۔

مولانے دی جو اپنے سر پاک کی قسم      بس تھرثرا کے رہ گیا وہ صاحبِ کرم  
پر تھی شکن جبیں پہ نہ ہوتا تھا غیظِ کم      چپ ہو گئے قریب جو آئے شہ ام  
گردان جھکا دیں تانہ ادب میں خلیل پڑے  
قطرے لہو کے آنکھ سے لیکن نکل پڑے

میر ضمیر کے قائم کردہ اجزاء ترکیبی (پھرہ، سرپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ،  
شہادت اور بین) نے جہاں مریشے کے لیے ترقی کی راہیں کھولیں وہاں تقسیم عناصر نے کچھ  
خراہیاں بھی پیدا کیں۔ رخصت اور بین کو واضح اجزاً التصور کرنے کے بعد ہر جزو کے مطالبات  
پورا کرنے کی کوشش نے مریشہ کی اندر وہی بیہت کو مجرور کیا۔ رجز اور جنگ کی جلالت  
رخصت اور بین کی حلاوت میں مکمل نہ سکی۔ ڈاکٹر احسن فاروقی اور ڈکٹرم الدین احمد کے  
بیانات کا مقصود راقم کو بھی سمجھ میں آیا۔ بین کو حذف کر دینے کے بعد باقی اجزاء رزمیہ کی تخلیق  
میں معاون بن سکتے ہیں۔

اس طور سے لے کر عہد حاضر تک رزمیہ کے مفہوم میں کوئی خاص تغیر نہیں ہوا۔ ڈاکٹر  
اکبر حیدری رزمیہ شاعری کے متعلق مختلف نظریات کا محاکمه کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ  
ہیں:

”رزمیہ شاعری کی مختلف تعریفیں کی گئیں۔ مگر غالباً سب  
لوگ متفق ہیں کہ رزمیہ شاعری ایک بیانیہ نظم ہے جس کی اثر اندازی کا  
دارہ وسیع ہو، جس میں پاک سیرت اور بلند نصبِ اعین کرداروں کے  
تاریخی کارناموں کے حالات اور ان کی اہمیت نظم کی جائے خواہ  
بھیتیت واقعات و کردار نگاری خواہ۔ بھیتیت قائم کردہ فضاؤ ما حول۔ اس  
کا معیار بھی معمولی واقعات کے بیان سے بلند تر ہوتا ہے۔ جزوی

تفصیلات کو بھی اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ ان میں تمام زندگی کی جھلک  
بھوتی ہے۔<sup>1</sup>

کربلاٰی واقعات کی تفصیلات جگ کی جزئیات، افراد کر بلا کے جذبات اور  
مختلف عمر جنس کے کرداروں کی نفیاں کو انہیں نے احتیاط اور اہتمام سے پیش کیا ہے۔ اس  
سے رزمیہ شاعری کی بہترین روایت بنتی ہے۔

مرزا سلامت علی دییر (1803-1875)

”مرزا سلامت علی دییر 1803/1218ھ میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام  
مرزا غلام حسین ہے۔ بچپن میں لکھنؤ آگئے تھے اور وہیں تعلیم و تربیت پائی۔ عربی اور فارسی کی  
تعلیم فضیلت کی حد تک حاصل کی سن شعور کے ساتھ ہی شاعری شروع کر دی اور آغاز ہی میں  
مرثیہ گوئی کی طرف متوجہ ہوئے۔ میر غصیر کے شاگرد ہوئے اور استاد سے زیادہ کمال حاصل  
کیا۔ 1875 میں دہلی میں رحلت فرمائی۔“<sup>2</sup>

مرزا سلامت علی دییر اردو مرثیے کی تاریخ کا ایک اہم باب ہیں۔ اردو مرثیے کی  
کوئی بھی تاریخ ذکر دییر کے بغیر نامکمل رہے گی۔ دییر پیدا تو دہلی میں ہوئے لیکن لکھنؤ میں  
پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ اس لیے لکھنؤ کی زبان، روزمرہ اور انداز بیان، ان سے الگ  
نہیں کیا جاسکتا۔ اس وقت کے لکھنؤ کا مزاج ان کے مرثیوں میں در آیا۔ انہوں نے جہاں  
اپنے مرثیوں کو لفظی اور معنوی رعایتوں سے آراستہ کیا وہیں موضوع کے اعتبار سے ان کے  
مراٹی واقعات و روایات کا خزانہ ہیں۔ دییر کے مراٹی کی خصوصیت اسی موضوع کی رنگارگی  
ہے۔ جہاں انہوں نے تاریخ، روایات اخذ کی ہیں، وہیں اپنے مراٹی میں بڑی خوش اسلوبی  
کے ساتھ مناقب بھی پیش کیے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

<sup>1</sup> ”میر انہیں بخشیت رزمیہ شاعر“، اکبر جیدری کاشمیری، ادبستان، سری نمبر ۱۲، ص ۱۲۔

<sup>2</sup> ”تاریخ مرثیہ گوئی“، حامد حسن قادری، ص ۱۰۳۔

چاہے زرہ بنا کے جو داؤد کا وقار واللہ جعل ساز ہے کیا اس کا اعتبار  
 ہر بخیہ گر نہ ہو کبھی اور لیں نامدار ہر ناخدا کو نوح کہے گا نہ ہوشیار  
 کیا جاہلوں کے عیش کا سامان ہو گیا  
 بیٹھا جو تخت پر وہ سلیمان ہو گیا  
 یوسف غریق چاہ سیہ ناگہاں ہوا یعنی غروب ماہ تجھی نشاں ہوا  
 یونس دہان ماهی شب سے عیاں ہوا یعنی طلوع نیز شرق ستان ہوا  
 فرعون شب سے معزکہ آرا تھا آفتاں  
 دن تھا کلیم اور یہ بیضا تھا آفتاں  
 ڈاکٹر عبدالودود لکھتے ہیں:

”مرشیہ میں علیت ولیافت کے اظہار کو دبیر کی امتیازی  
 خصوصیت قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ عالمانہ  
 رنگ کو دبیر کا اصل رنگ مانتا اور اسے اہمیت دینا ان کے فن کے ساتھ  
 نا انصافی ہے۔“<sup>1</sup>

دبیر بسیار گوئتے۔ ایک ماہ میں ایک مرشیہ کہنے کی صلاحیت کا ذکر کر کر کیا جاتا ہے  
 کہ ہر ماہ وہ مجلس میں نیا مرشیہ پڑھتے تھے۔ ان کے مرثیوں کی تعداد کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔  
 کاظم علی خاں نے مطبوعہ مراثی دبیر کے مطلعوں کا اشاریہ ترتیب دیا ہے۔ <sup>2</sup> ساتھ ہی ایک  
 مضمون ”مرزادبیر کے مجموعہ کلام دفتر ماتم کی میں جلدیں“<sup>3</sup> کے عنوان سے ”تلاش  
 دبیر“ کے نام سے شامل کیا ہے، جس سے مطالعہ دبیر میں مدد ملتی ہے۔ اکبر حیدری<sup>4</sup> نے قلمی  
 وغیر مطبوعہ مراثی کا ذکر ”اوده میں اردو مرثیے کا ارتقاء“ میں کیا ہے۔

<sup>1</sup> ”دبیر ایک تاثر“، ڈاکٹر عبدالودود، مشمولہ مضمون، ماہنامہ ”کتاب نما“ کا دبیر نمبر، مرتب: عبدالقوی  
 وسنوي، م 83۔

<sup>2</sup> ”تلاش دبیر“، کاظم علی خاں، م 283 تا 319۔

<sup>3</sup> ایضاً، م 11 تا 22۔

<sup>4</sup> ”اوده میں اردو مرثیے کا ارتقاء“، اکبر حیدری، م 537 تا 544۔

"دفتر ماتم" کی ۱ تا ۱۴ جلدیں مرثیوں پر مشتمل ہیں۔ "دفتر ماتم" کی ۱۵ تا ۲۰ جلدیں دوسرے اصناف مختصر ہیں۔ اس میں مرثیہ پر شکل مسدس نہیں ہے۔  
 دیر نے مسدس کی ہیئت کے علاوہ ایک مرثیہ مربع کی ہیئت میں لکھا۔ اردو مرثیے کی تاریخ میں مربع مرثیے بہت پہلے لکھے گئے۔ مسدس کے رواج کے بعد مربع کی ہیئت میں مرثیہ تقریباً نہیں ملتا۔ دیر کے عام رواج کے خلاف مربع کی ہیئت میں دوبارہ تجربہ کرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے یہ ابتدائی زمانے کا مرثیہ ہو یا انہیں کی ڈگر سے ہٹنے کی کوشش، یا قدما کی قائم کردہ روایات کا احترام۔ چند بند ملاحظہ ہوں۔

لازم یہ تھا چرخ ستم گر کے واسطے  
 یہ گروش اور آل پیغمبر کے واسطے  
 آب فرات شام کے لشکر کے واسطے  
 اور پیاس این ساقی کوثر کے واسطے



مقتل کہیں مزار کہیں اور وطن کہیں  
 یہ تفرقہ بھی دیکھا ہے چرخ کہن کہیں  
 سرنشہ کا دفن ہوئے کہیں اور بدن کہیں  
 سرڑپے تن کے واسطے تن سر کے واسطے



جس لب سے پائیں آب بقا تکنے حیات  
 کیا قہر ہے کہ خشک ہو وہ لب فرات  
 جس لب سے لب ہمیشہ ملیں فخر کائنات  
 چوبی یزید اس لب اطہر کے واسطے



بس اے دیبر سینہ ہے برباد جگر کباب  
 سودا کے مریشے کا تو ممکن نہیں جواب  
 پُر فصلِ حق سے مریشہ یہ بھی ہے لا جواب  
 کافی ہے تجھ کو خخششِ امت کے داسٹے  
 سچِ الزماں صاحبِ کا خیال ہے:

”مریشہ کا اصل مقصد ان کے نزدِ یک آل رسولؐ کے مصائب  
 کے بیان سے لوگوں کو رلانا تھا اور یہ مقصد خیال آفرینی اور بلند فکری  
 کے تصنیع و تکلف سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے مریشہ  
 گوئی میں دو انداز اختیار کیے۔ چہرہ، سراپا، جگ کو انہوں نے اپنے  
 مذاق کے مطابق قدرت کلام دکھانے کے لیے رکھا اور رخصت،  
 شہادت، میں میں سادگی بیان سے دراگنیز واقعات ظاہر کیے۔“<sup>1</sup>  
 عموماً جذبات نگاری اور شوکت الفاظ کو دیبر کا امتیازی وصف قرار دیا جاتا ہے۔  
 شوکت الفاظ تو میر انس کے بیہاں بھی ہے اور جذبات نگاری بھی۔ انس کے مرثیوں میں کم  
 اثر اگنیزی نہیں۔ حقیقتاً دیبر کا امتیازی وصف سراپا نگاری اور رزم نگاری ہے۔  
 مریشے کا ذہن اچھے دیبر کو پہنچانے والا۔ دیبر کے زمانے تک خارجی ساخت کے  
 لفاظ سے اردو مریشے میں جواہرائے ترکیبی شامل ہو چکے تھے ان کو خونظر کے بغیر دیبر کی شاعری کو  
 سمجھنے میں دقت ہوگی۔ اجزاء ترکیبی کے اعتبار سے دیبر کے مرثیوں کا جائزہ ذیل میں ملاحظہ ہو:

#### چہرہ:

دیبر کے بھی مرثیوں میں چہرے کا التزام جہاں ملتا ہے وہاں عموماً قصیدے کی سی  
 مضمون آفرینی، زور طبیعت اور دھوم دھام کا انداز بھی ہے اور شوکت الفاظ بھی۔ ایک مریشے  
 کے چہرے میں بہار کا ذکر کیا ہے۔ بہار یہ عناصر کے لیے رشد وغیرہ مشہور ہیں۔

<sup>1</sup> ”اردو مریشے کا ارتقاء“، سچِ الزماں، ص 381۔

کونے میں بہار آئی جو گلگشت چمن کو      شرمانے لگا رنگ زمیں چرخ کہن کو  
 رنگ رنگ سے ملی نبض روائیں کے ہدن کو      لالے نے کیا کھل کے سبک لعل یمن کو  
 ہر سرو بنا شکل زبان شوق خن میں  
 فوارے درافشاں ہوئے تعریف چمن میں

سر اپا:

دیبر نے مختلف مرثیوں میں سراپا مختلف انداز سے لکھا ہے اور اس طرح کی شخصیت  
 کا نقش ذہن پر مرتسم ہو جاتا ہے۔ انھیں اس کا خیال رہا کہ تقليید کا الزام عائد نہ ہو۔ مضمون اور  
 نئے جز کی طرف گریز کرنے سے پہلے دیبر عام طور پر تمہید باندھتے ہیں۔  
 گو خلعت تحسین بمحض حاصل ہے سراپا      پر وصف سراپا کا تو مشکل ہے سراپا  
 ہر عضو تن اک قدرت کامل ہے سراپا      یہ روح ہے سرتا ہے قدم دل ہے سراپا  
 کیا ملتا ہے گر کوئی جھگڑتا ہے کسی سے  
 مضمون بھی اپنا نہیں لٹتا ہے کسی سے  
 دیبر اپنے مددوح کے لیے تشبیہات کا سہارا لیما مناسب نہیں سمجھتے۔ انھیں اس میں ایسی خامیاں  
 نظر آتی ہیں کہ ان سے تشبیہ دینا مددوح کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔  
 سورج کو چھپاتا ہے گہن آئینہ کو رنگ      داغی ہے قمر سوتھہ دل اللہ خوش رنگ  
 کیا اصل در لعل کی وہ پانی ہے یہ سنگ      دیکھو گل و غنچہ وہ پریشان ہے یہ دل تنگ  
 اس چہرے کو داور ہی نے لاریب بنایا  
 بے عیب تھا خود نقش بھی بے عیب بنایا

رخصت:

مراٹی دیبر میں رخصت کے بندعموآ چہرے یا سراپا سے مختلف ہیں جیسا کہ  
 متھ ازم صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ رخصت میں دیبر باحاورہ مکالموں سے ڈرامے کے  
 مکالموں جیسا زور اور اثر پیدا کرتے ہیں۔ بیان میں سادگی بھی ہوتی ہے اور انسانی جذبات کی  
 عکاسی بھی۔ دیبر کے مرثیوں کے رخصت کے بندوں میں جذبات نگاری اور مکالمہ نگاری کی  
 مثال حضرت علی اکبرؑ کی رخصت سے ملاحظہ ہوں۔

بادل کی طرح رن میں عدو چھائے ہوئے ہیں      مولا سر تکمیل کو نہ توڑائے ہوئے ہیں  
اس وقت حرم خیسے میں گھبرائے ہوئے ہیں      ہم شکل نبی بہر و داع آئے ہوئے ہیں  
عباش کے ماتم کو تو موقوف کیا ہے  
اس چاند کو ہالے کی طرح گھیر لیا ہے  
بر ہم ہیں یہ ماتم کی صیفیں دیکھ کے ہرسو      خالی جو ہے خیمه تو بھرے آتے ہیں آنسو  
سر نگئے جو کنبہ ہے تو بل کھاتے ہیں گیسو      عباش سامدہ رو ہے نہ قائم سا ہے گل رو  
جیراں ہیں کہ دربار پدر ہو گیا خالی  
رن بھر گیا گھر والوں سے گھر ہو گیا خالی  
مرشیے کے اس پبلو کا تعلق جذبات نگاری سے ہے۔ اصل میں مرشیہ میں اس وقت تک تاثر پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تہ میں انسانی جذبات نہ ہوں۔ آزاد اور امداد امام اثر اور علامہ شبلی سب اس بات پر متفق ہیں کہ مرزا دبیر کے مراثی، بہت مبکی ہیں۔ آج بھی مجلسوں میں دبیر کے مراثی ہی پڑھے جاتے ہیں، جنہیں سوزخواں لحن کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ شاعری میں زندگی کا پرتو پیدا کرنے کے لیے جذبات کی عکاسی ضروری ہے۔ جذبات نگاری کا کمال یہ ہے کہ انسان دوسروں کے احساس کو اپنا احساس سمجھنے پر مجبور ہو جائے۔

آمد:

دبیر کے مرثیوں کے آمد کے بندوں میں معنی آفرینی، شکوه الفاظ، طبعتنہ بیان ہے۔ آمد کے بندوں میں دبیر جس دھوم دھام کا التزام کرتے ہیں وہ ذیل کی مثال سے واضح ہوتی ہے۔ حضرت عباش کی آمد ملاحظہ ہو۔  
کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے      رسم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے  
ہر قصر سلاطینِ زمُن کانپ رہا ہے      سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے  
شمیشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پر کو  
جریلِ لرزتے ہیں سکیتے ہوئے پر کو

رجز:

رجز کے بندوں میں بندش کی چستی ہوتی ہے اور تیح، بشیہ اور دیگر صنائع بدانع سے  
کام لے کر دییرا پنے کلام کو موثر بناتے ہیں۔ حضرت علی اکبر کے رجز کا نمونہ ملاحظہ ہو۔  
گر جانتے نہیں ہو تو اب جان لو ہمیں      ایجاد شش جہت کا سبب جان لو ہمیں  
شكل بشر میں قدرت رب جان لو ہمیں      وقت وغا خدا کا غضب جان لو ہمیں  
سمجھو تو حق سرِ خفی و جلی ہیں ہم  
اخلاق میں نبی ہیں وغا میں علی ہیں ہم

رزم :

دییر نے بڑی کامیاب رزم نگاری کی ہے۔ رزم صرف میدانِ جنگ میں معركہ آرائی کا نقشہ نہیں ہے بلکہ آمد، رجز، جنگ کی حیثیت مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کی بھی ہے۔ آمد کے ساتھ ہی رزم نگاری شروع ہوتی ہے۔ رزم نگاری کو مرثیہ گوشاعروں نے بڑی وسعت دی ہے۔ لیکن صرف وسعت یہی رزم کو عام نہیں باتی بلکہ وہ موثر کیفیت اہم باتی ہے جو پوری فضا پر طاری ہوتی ہے۔ ہیروکی میدانِ جنگ میں آمد ہو یا معركہ آرائی دییر ہر موقع پر ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، جس سے ہیروکی بالادستی ثابت ہوتی ہے۔ دییر نے رزم میں بڑا اہتمام کیا۔ رزم گاہ میں طبل، نقارہ، دف، جلا جل وغیرہ کا ذکر کا کثر آتا ہے۔ ان اشیا پر خوف و ہراس کی کیفیت طاری ہونے کا ذکر شاعرنے جس طرح کیا ہے۔ اس سے پورے محول کی کیفیات کا انداز ہوتا ہے۔

مندرجہ ذیل بندوں میں دییر پوری کائنات کے نظام کو درہم برہم ہوتا ہوا پیش کرتے ہیں۔ آسمان، سورج، مرخ، زحل اور دوسرے تارے سب لرزہ براندام ہیں۔  
بجلی گری بجلی پر اجل ڈر کے اجل پر      اک زلزلہ طاری ہوا گروں کے محل پر  
سیارے ہٹے کر کے نظر تنخ کے پھل پر      خورشید تھا مرخ پر مرخ زحل پر  
یہ ہول دیا تنخ درخشاں کی چک نے  
جو تاروں کے دانتوں سے زمیں کپڑی ملک نے

دیبر کے مراثی میں جنگ تخلیل و محاکات ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ ہمارے کان تیروں کی سمناہٹ سن سکتے ہیں، تکاروں کی چک اور بھالوں کے دار سے دل بل جاتا ہے۔ بھاگتی فوجوں کے مورچے درسم بہم نظر آتے ہیں۔ قاری خود کو میدان جنگ میں پاتا ہے۔

حضرت حر کی جنگ میں دیبر کا بیان ملاحظہ ہو۔

سرداروں پر جو دار کیا کہہ کے یا حصین زائل کیا سروں سے غور اور دل سے چین کل تین حرف تفعیل میں تھے تاو یا وغین تعظیم ان کی ہوئی اعدا پر فرض میں

سرتن سے تن قدم سے قدم خاک سے اٹھا

اک شور واہ واہ کا افلاؤک سے اٹھا

گرتا تھا غول غول پر اٹھتا تھا غل کتنا تھا سر پر سرکر غافقة تھا گل پر گل  
ہوتا تھا پرزاں سے جزو پر جزو اور کل پر کل کشتوں کے پشتے رن میں بندھے بلکہ بل بے بل

نے رن نہ بن نہ تن نہ سر کا پتا ملا

سر پاؤں رن کا بھی جو ملا تو جدا ملا

شہادت:

دیبر کے مرثیوں میں شہادت کے بیان میں اس درجہ غم انگیزی ہے کہ آج تک سوز خوانوں میں ان کے مرئیے مقبول ہیں۔

بیان:

میں مرثیہ کا لازمی جزو سمجھا جاتا ہے۔ دیبر کے مرثیوں میں میں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔

سفارش حسین رضوی رقمطر از ہیں:

”دیبر کے مرثیوں میں میں کا حصہ بہت پراشر اور کامیاب ہوتا ہے۔ میں لکھنے میں دیبر، میر انس سے بہت آگے ہیں... میں میں دیبر کا بیان ایسا ول گداز اور جگر خراش ہوتا ہے کہ سخت سے سخت دل بھی موثر (متاثر) ہوئے بغیر نہیں فتح پاتا۔“

دیبر کو زندہ رکھنے میں ان مرثیوں کا بڑا باتھ ہے جو سوزخوانوں میں بہت مقبول ہے ۔  
 ۲۵ قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے ۔  
 ☆ جب حرم قلعہ شیریں کے برابر آئے ۔  
 مسح الزماں کا خیال ہے :

”شہادت اور نین میں دیبر عموماً سادگی بیان سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے ان کے بیانات میں درد و اثر ہے۔ اس میں وہ غم و لم پیدا کرنے کے لیے نئے نئے انداز اختیار کرتے ہیں۔ محاورے اور روزمرہ کی زبان کی خوبی نے ان کے بیانات میں جان ڈال دی ہے۔“<sup>1</sup>  
 دیبر کے مرثیوں کی داخلی ساخت پر بھی نظر کرنا ضروری ہے۔ ہیئت اور موضوع کے مختلف تجربات سے گذر کر مرثیہ جب لکھنؤ پہنچا اور ایک شہید کے حال میں پورا مرثیہ لکھنے کا رواج ہوا تو مرثیے کی داخلی ساخت میں کچھ ایسی خوبیاں نظر آنے لگیں، جن کے باعث اس سے ادبی تقاضے ہونے لگے۔ مرثیے میں ابتداء، عروج اور خاتمه کے ساتھ ساتھ تشویش اور عمل کی موجودگی سے اس میں الیہ کی صفات پیدا ہوئیں۔ ان امور کے علاوہ مرثیے میں کھاتر تیس کا وہ پہلو بھی ہے، جسے ارسطونے الیہ کا اہم جزر قرار دیا ہے۔ ان خصوصیات کی بنابر اردو مرثیہ الیہ (ڈرامہ) نہ ہو کر بھی الیہ کی متعدد خصوصیات کا حامل ہے۔ دیبر کے بعض مرثیوں کی داخلی ساخت میں الیہ کے یہ عنصر دیکھے جاسکتے ہیں۔

الیہ کے علاوہ دیبر کے چند مرثیوں میں رزمیہ یا اپک کی بعض خصوصیات مل سکتی ہیں۔ پروفیسر ڈکسن کے مطابق۔ ”مجموعی طور پر ایک مضبوط ساخت کی ایک الیک بیان یا نظم ہے، جس میں واقعات اور عظیم کرداروں کا بیان ہو، جس کا اسلوب بیان موضوع کی عظمت کے مناسب ہو اور جس میں مقصد کی بلندی، عمل، کردار اور واقعات کے ذریعہ لائی جائے۔“<sup>2</sup> رزمیہ کی خصوصیات دیبر کے سارے مرثیوں میں تو نہیں ملتیں، رزمیہ عناصر کی جھلکیاں دیبر

1 ”اردو مرثیے کا ارتقاء“، مسح الزماں، جل 461-465۔

2 ”اردو مرثیے کا ارتقاء“، مسح الزماں، جل 472۔

کے ان چند مرثیوں میں ضرور تلاش کی جاسکتی ہیں، جو مضبوط داخلی ساخت کی حامل ہیں۔ اس کے عکس انہیں نے خاصی بڑی تعداد میں ایسے مرثیے کہے ہیں جن میں رزمیہ عناصر مل جاتے ہیں۔ مراٹی دییر کور زمیہ عناصر سے کسر عاری قرار دینا درست نہ ہوگا۔

### واجد علی شاہ اختر

واجد علی شاہ اودھ کے آخری فرمازروں اور سب سے زیادہ پر وقار اور عظیم الشان شخصیت کے مالک تھے۔ شر لکھنؤی کے بیان کے مطابق وہ خود بھی مرثیہ تصنیف کرتے اور پڑھتے تھے۔ ان کی قوت شعر گوئی ایسی تھی کہ دو کاتب ان کے ساتھ چلتے تھے، ایک کو مرثیہ لکھاتے ایک کو کلام اور دیرینہ لگایتھی۔

اگر شر کی بات سچ مان لی جائے تو آخر کے وہ مرثیے کہاں گئے؟ مسعود حسن رضوی کے کتب خانے میں ان کے بہت سے مرثیے تھے۔ ان کے علاوہ ایک مجموعہ مراٹی "راخ لحقی" تھا۔ یہ مجموعہ بادشاہ کی حیات میں جاں شار رئیس الدولہ کے اہتمام سے مطبع سلطانی میں 1300ھ مطابق 1882ء میں چھپا۔<sup>1</sup>

اختر کے مراٹی مسدس ہیں۔ ان میں وہ خوبیاں نہیں پائی جاتی ہیں، جو ایک اچھے مرثیہ نگار کے لیے ضروری ہیں۔ واجد علی شاہ کے مراٹی اب نایاب ہو رہے ہیں۔ ذیل میں چند بندپیش کیے جا رہے ہیں۔ ان مراٹی میں اجزاء مرثیہ کا اہتمام ہے۔

چھرہ:

دنیا میں کوئی بھائی سے بھائی جدا نہ ہو	فصل بہار میں کوئی گل سوکھتا نہ ہو
صیاد باغ دہر میں ہرگز ہوا نہ ہو	بلبل کو خار ہجر کا یا رب لگا نہ ہو
آنسو بھی اس بہار میں گلزار بن گئے	
با غ خدا سے دوستو کیا کیا چمن گئے	

<sup>1</sup> بحوالہ "اودھ میں اردو مرثیے کا ارتقاء"، اکبر حیدری، ص 152۔

سر اپا:

ما تھا تھا نصف ماہ نہیں اس میں شک ذرا      یا تھا ہلال غم رخ مہ پر دھرا ہوا  
 یا خط کہکشان میں تھا پھٹا لگا دیا      یا آدمی رات میں تھا ستارا سا اک کھلا  
 یا آئینہ تھا عکس رخ شاہ دیں سے وہ  
 جو دیکھنے نکلتا تھا اس کی جیں سے وہ

شہادت:

دیکھا جو بازوؤں کو تو تھے دوش سے جدا      جنگل میں جلتی ریتی پہ لیٹا تھا پا وفا  
 بوچھار چارست سے تیروں کی تھی سوا      مشکیزہ خالی سینے کے اوپر دھرا ہوا  
 الٹی ہوئی ہے سانس اور اکھڑا ہوا ہے دم  
 اک نیزہ دور کاندھے سے ہے خاک پر علم  
 یہ کیا کم ہے کہ یہ آیک ایسے بادشاہ کا کلام ہے جس کے یہاں ہزاروں شاعر پتے تھے۔





## (ج) مرثیہ بعد انیس

انیس کے بعد کی مرثیہ گوئی اس بات کا ثبوت ہے کہ مرثیہ صرف شاہی سرپرستی میں پھیلا۔ صفوی حکومتیں بھی اپنے دور میں کوئی انیس پیدا نہ کر سکیں۔ نوابین اور وہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد عوام کی دلچسپیوں اور شعرا کے ذوق نے مرثیہ نگاری کو زندہ رکھا۔ اگرچہ انیس کے بعد کوئی مرثیہ نگار انیس کے قد کا اردو کونہ ملا، تاہم ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد کم نہیں۔ انیس کے بعد مرثیہ آگے نہ بڑھ سکا۔ بقول صفر حسین:

”خیال کی جتنی ممکن حد میں نظر آتی تھیں سب بھر چکی تھیں۔

ہر قسم کے تصرفات ختم ہو چکے تھے اور پھر ان کا میلان، زمانہ کی نغمہ ریزیوں کی گونج مذہبی اور ادبی دونوں فضاؤں پر اب تک اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ پچھلے انداز سے اخراج کر کے کوئی نئی لے چھیڑنا اور کامیاب ہو جانا تصور ہی میں نہ آ سکتا تھا۔ اس لیے انیس و دیگر کے بعد کے شعرا نے اسی بُسی ہوئی آواز میں آواز ملانا شروع کیا۔“<sup>1</sup>

ان مرثیہ نگاروں نے مرثیے کی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں کی، نہ مضامین میں کوئی وسعت پیدا کی۔ مرثیہ بالکل ویسا ہی رہا جیسا انیس کے یہاں تھا۔ یعنی چہرے سے شروع ہوا اور رخصت، رجز، جگ کے مدارج طے کرتا ہوا شہادت پر ختم ہو گیا۔ پیارے

1۔ ”مرثیہ بعد انیس“، صفر حسین، مشمول مضمون، ”نگار“، جولائی، 1943۔

صاحب رشید نے ساتی نامے کا اضافہ کیا۔ 1875 میں انیس وانس نے وفات پائی۔ 1876 میں مرزاد بیر نے وفات پائی۔ اس طرح اس دور کا آغاز 1876 سے سمجھنا چاہیے۔

اس دور کے مرثیہ نگاروں کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن چند نام بہت اہم ہیں، ان میں عشق، عشق، نفس، سلیس، حمید، مهدی، حسن ماہر، اصغر حسین فاخر وغیرہ شامل ہیں۔ مضامین کے اعتبار سے مرثیہ قریب قریب انیس کے ہی انداز پر رہا۔ مگر انیس کی قادر الکلامی کے آگے ان لوگوں کے مرثیے پہلے پڑ جاتے ہیں۔ رزمیہ عناصر بھی انیس کے بعد ہلکے پڑ گئے۔ عشق نے اپنے آپ کو انیس سے الگ رکھنے کی کوشش کی۔ عشق میں قوت اور اظہار دونوں کی کمی نہ تھی۔ وہ میرا نیس کی طرح استعاراتی اور پیکری ذہن تو نہ رکھتے تھے لیکن جزوی صورت حال کا احاطہ محض بیانیہ کے مل بوتے پر کر لیتے تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ قید و بند اختراع کیے۔ اس لیے ان کے ایک الگ دبتان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مجموعی حیثیت سے مرثیہ انیس کے بعد آگئے نہیں بڑھا بلکہ پیچھے ہی آیا ہے۔

انیس کے بعد مرثیہ گوئی کے زوال کا سبب شمس الرحمن فاروقی یہ بتاتے ہیں:

”سدس اور مرثیے کے زوال کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میرا نیس کے بہت کم مقلد قابل ذکر شاعر تھے۔ سب تقریباً کامل انتقال تھے۔ ورنہ مسدس کی صنف میں اتنی دلکشی اور مرثیہ کے ساتھ اس کا تعلق اتنا زبردست ہے کہ میرا نیس کے بہت بعد بلکہ ہمارے عہد تک مرثیہ لکھنے کی تقریباً تمام سنجیدہ کوششیں مسدس سے دامن کش نہ ہو سکی۔“<sup>1</sup>

### حسین مرزا عشق

حسین مرزا عشق، میرا نیس کے بڑے صاحبزادے تھے۔ انیس و دیر کے همصر تھے۔ ان کا کلام صاف ستر، سلیس اور اعلیٰ درجے کا ہے اور اس میں اغلات کم ہیں۔

<sup>1</sup> ”اثباتِ فلسفی، شمس الرحمن فاروقی، مکتبہ جامعہ، نئی دہلی، ص 90-91۔

ضائع وبدائع کا بھی استعمال اعتدال کے ساتھ کیا ہے۔ زبان و بیان بھی لکش اور سادہ ہے۔  
میر عشق ناخ کے شاگرد تھے اور ان کی اصلاح زبان کی تحریک سے بھی متاثر  
تھے۔ انہوں نے مرثیوں میں بھی اسی طرح کی تحریک کی رہنمائی کی، جس کا اثر دبستان انہیں  
اور دبستان دبیر کے مرثیہ نگاروں نے خاطر خواہ قبول کیا۔ ڈاکٹر جعفر رضا لکھتے ہیں:

”صحت زبان و بیان کے لیے میر عشق نے الفاظ کے متعلق

اصول و ضوابط مقرر کیے اور غلط معنی میں استعمال ہونے والے الفاظ  
اور مختلف الفاظ کے استعمال میں تلفظ کی غلطیوں کی طرف نشان دہی  
کی۔ ساتھ ہی غلط و متروک اور مبتذل الفاظ سے احتراز کی تاکید  
کی۔“<sup>1</sup>

میر عشق غزلیں بھی لکھتے تھے، اس لیے ان کے کلام میں غزل کے مضامین کو زیادہ  
اہمیت ملی، جوان کے خاندان کے دیگر شعر کے ذریعہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر گئی۔ ان  
کی شاعری میں جذبات نگاری کے نمونے اکثر ملتے ہیں۔ انسانی جذبات کی مختلف پیچیدگیاں  
بھی ہیں۔ ان کا حماکاتی انداز بیان تاثیر میں اضافہ کرتا ہے۔ واقعات کے تسلیل میں ڈرامائی  
عناصر کا استعمال بھی ہے۔ مناظر قدرت کی عکاسی بھی ہے۔ کرداروں کی خصوصیت، ہن  
و سال اور مرتبے کے مطابق نمایاں کی ہے۔ مراثی عشق کا کمزور پہلو، ان کے رزمیہ بیانات  
ہیں۔ تمام ماحول میں رزم کا رنگ پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی سب سے بڑی اہمیت  
زبان و بیان کے سلسلے میں ان کی خدمات کی بنابر ہے۔ نہس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں:

”میر عشق اپنی تلقیدی صلاحیتوں کو غیر ضروری قیدوں بند

اختراع کرنے میں ضائع نہ کر دیتے تو وہ انہیں کی روایت قائم کرنے

میں کامیاب ہو سکتے تھے۔“<sup>2</sup>

نمونہ کلام ملاحظہ ہو:

1۔ ”دبستان عشق کی مرثیہ گوئی“، ڈاکٹر جعفر رضا، ص 125۔

2۔ ”اثبات و نقی“، نہس الرحمن فاروقی، مکتبہ جامد، ص 97۔

آنے نہ تھے نقاب زمرہ نگار میں  
موتی بھرے تھے دامن ابر بہار میں



قطرے درخوش آب تھے سارے زمین پر  
سورج سے گرد ہے تھے ستارے زمین پر



پھیلی جو روشنی تو فلق کچھ سوا ہوا  
دل تھا چراغِ صبح کی صورت بجھا ہوا

**سید مرزا عشق (1239ھ - 1823ھ)**

مرزا عشق شیخ ناخ کے شاگرد تھے۔ مرشیدہ اور غزل دونوں کے استاد مانے جاتے تھے۔ ان کا کلام جذبات، حسن بندش، نزاکت خیال اور تاثیر کے لیے مشہور ہے۔ ڈاکٹر جعفر رضا لکھتے ہیں کہ:

”عشق کے مرثیوں کی بڑی خصوصیت ان کا تنزل آمیز  
بیکاریہ بیان ہے۔ انھیں خود بھی غزل کے مضامین سے بڑی دلچسپی تھی  
جس کا ثبوت ان کا انتخاب تخلص بھی ہے۔“<sup>1</sup>

دل مرا الفت شیر سے بھر دے یارب      جو بنے ابر پہ وہ دیدہ تر دے یارب  
جس میں محبوب کا سودا ہو وہ سرد دے یارب      رشکِ خورشید ہو وہ داغ جگد دے یارب  
خانہ مام شیر بنتے گھر میرا  
زائر لے آئیں جو تر پے دل مضر میرا<sup>2</sup>

انھوں نے اپنے مراثی میں اکثر جگہوں پر غزلیت کے ساتھ حسن و عشق کی باتیں قلم بند کی ہیں۔ ہجر و فراق، وصال وغیرہ کا تذکرہ بڑی بے تکلفی سے کر دیتے ہیں۔ انھیں نہیں مضامین ہیں۔ ”دبتان عشق کی مرشید گوئی“، جعفر رضا، ص 236۔  
1 ”دبتان عشق کی مرشید گوئی“، جعفر رضا، ص 31۔  
2 ”انکار عشق“، جلد 1، ص 31۔

اور لطف بیان سے عشق تھا۔ عشق کی سب سے بڑی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے تنزل اور  
مرشیت دونوں کو ملا کر ایسا ہر دل غریز رنگ اختیار کیا جو آج تک پسندیدہ ہے۔ لیکن اس  
امتزاج میں مرشیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ واقعات کر بلکہ تنزل کی عینک سے دیکھتے تھے۔

اسی وجہ سے ان کے رزم میں بھی بزم کا غصر تھا۔ ملاحظہ ہوا۔

چج ہے دنیا میں شبِ هجر بلہ ہوتی ہے      دم بدم آرزوئے مرگ سوا ہوتی ہے  
آہ سینے کے لیے تیر جفا ہوتی ہے      دل جلاتی ہے جو ٹھنڈی بھی ہوا ہوتی ہے

زندگی کہتے ہیں دنیا سے گذر جانے کو

دل ترپتا ہے گلا کاٹ کے مر جانے کو

حسن ادامر انیس کی خصوصیت ہے۔ مگر عشق کا انداز بیان پڑھنے والے کو حیرت میں ڈال دیتا  
ہے۔ جذبات نگاری اور واقعات نگاری کو تنزل کی طرف گرنے نہیں دیا۔

بیٹھے اسیرِ ظلم اندر ہرے میں ننگے سر      ڈر ڈر کے دیکھتی تھی سکینہ ادھر ادھر  
تھے کس قدر تھکے ہوئے سجاد خوش سیر      گرتے ہی دست پا کی نہ مطلق رہی خبر

جائے تھے رات میں جو بہت ست ہو گئے

دیوار پر بخار میں سر رکھ کے سو گئے

جنگ کے موقعوں پر عشق اپنے ہیر کو شجاعانہ اوصاف کے ساتھ دکھاتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر  
ان کا آہنگِ رزمیہ ہوتا ہے۔ لیکن عشق اپنے ہیر کو جمالیاتی آئینے میں دیکھتے ہیں اور ان کا

آہنگ بھی کیفیت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ عشق کا یہ انداز غزل کوئی کے راستے سے آیا۔

### موس

سید محمد نواب موس، میر انیس کے چھوٹے بھائی تھے اور بہت اچھا مرثیہ کہتے تھے۔

ان کے مرضیوں میں بعض مقامات پر انیس کا دھوکا ہوتا ہے۔ موس کا طرہ امتیاز ان کی نصاحت  
ہے، جس میں ان کے خاندانی پس منظر کو دخل ہے۔

بس منس فصح زبان اب نہ لکھ یہ حال خود ہے زبانِ ناطقہ تیری شنا میں لال  
 خالق نے ختم کی ہے اسی گھر پہ بول چال ھا کہ ہے یہ فیض شہنشاہ خوش خصال  
 نازک مثاپیوں کی فصاحت کی حد نہیں  
 یہ رنگ یہ زبان، یہ خن بے حد نہیں۔<sup>۱</sup>

### صفیٰ لکھنؤی

مولانا صفیٰ لکھنؤی نے تقریباً سمجھی اصناف پر طبع آزمائی کی۔ سلام اور شخصی مرثیے  
 بھی لکھے۔ انہیں اور حالی پر انہوں نے مرثیے کہے۔ ان کی نظم ”آغوش مادر“ <sup>۲</sup> بھی مرثیے  
 کی حیثیت رکھتی ہے۔ کربلائی مرثیوں کا پتہ نہ چل سکا۔

### رفع

مرزاد بیر کے پوتے طاہر صاحب رفیع نے مرثیے کی دنیا میں کافی شہرت پائی۔  
 ان کا انتقال 1948 میں ہوا۔ اونچ نے اپنے والد مرزاد بیر سے مرثیہ میراث میں پایا اور اسے  
 آگے بڑھایا، لیکن طاہر صاحب رفیع مرثیے کو آگے لے جانے کے بجائے اور پیچھے لے  
 آئے۔ انھیں ایک طرف تو نئے عہد کے بڑھتے ہوئے اثرات کا احساس تھا، تو دوسری طرف  
 وہ اپنی پچھلی روایات کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس ذاتی کشکاش میں وہ مرثیے کو جدید افکار  
 میں نہیں ڈھال سکے اور قدیم طرز پر کامیابی ممکن ہی نہ تھی۔

جدت نظم پر مرتے ہیں زمانے والے جو ہے ممکن وہ سناتے ہیں سنانے والے  
 رہ مقصد پر چلے جاتے ہیں جانے والے دیتے ہیں دادخن دل کو بڑھانے والے  
 یہ تو ظاہر ہے جہاں گل ہے وہاں خارجی ہے  
 اہل انصاف کے ہمراہ دل آزار بھی ہے



<sup>1</sup> ”مجموعہ مراثی میر منس“، جلد سوم، نول کشور، کانپور، 1917ء، ص 64۔

<sup>2</sup> ”آغوش مادر“، صفیٰ لکھنؤی، معیار پریس، لکھنؤ۔

باب سوم

بیسویں صدی میں مرثیہ گوئی

(1936-1901)



## (الف) میراثِ انیس اور دوسرے اثرات

بیسویں صدی میں جدید مرثیہ کے مطالعے سے پہلے علمی تحریکوں، ادبی روایتوں، سماجی تغیرات اور تقیدی تبدیلیوں کو دیکھنا ہوگا، اس کے ساتھ ہی اس دور کی مرشیہ گوئی کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، جس کا تعلق گذشتہ صدیوں سے ہے۔ جدید مرثیوں کے پس منظر میں کلاسیکی مرثیوں کے اثرات بھی ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے اثرات بھی ہیں۔ سرستید تحریک کے زیر اثر ادبی انقلاب کی رو بھی ہے۔ آبِ حیات، مقدمہ شعرو شاعری اور موازنہ انیس و دپیر کے تقیدی رجحانات بھی ہیں۔ غالب کا فکری مزاج، شاد اور اونچ کی فکر کے جدید رخ بھی ہیں۔ اقبال کا فکری انداز بھی ہے اور نئی سیاسی فضائی مولانا محمد علی جو ہر کا انقلابی اسلوب بھی ہے، جس میں واقعہ کر بارا کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سارے رخ جدید مرثیہ کے پس منظر میں موجود ہیں۔

بیسویں صدی کا رفع اول ہندوستان میں سیاسی اور معاشری اعتبار سے مسلمانوں کی پسمندگی، گھشن، بے عملی اور غلکشگی کا دور ہے۔ انگریز اصلاحات کے نام پر بُر صیغہ کو غلام بنا رہے تھے۔ صنعت و حرفت تباہی کے کنارے پر پہنچ رہی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہندوستان میں سوراج کی تحریک کا زور ہوا۔ ہندوستان کی بدلتی ہوئی صورتی حال کے مطالعہ کی پہلی کڑی سرستید تحریک ہے۔ سرستید احمد خاں (1817-1898) نے انتہائی پچیدہ اور مشکل ترین صورتی حال میں برصغیر کو سہارا دیا۔ انہوں نے زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا۔

حالی، شبی اور آزاد کے افکار سرستہ تحریک کی ہی چھاؤں میں پلے بڑھے۔ حالی نے مدرس لکھ کر اردو میں طویل نظریہ شاعری کا سرگ بنا دار کھا۔

### میراث انیس

سرستہ تحریک کے زیر اثر نظموں کا نیا سفر شروع ہوا اور حالی کی نظر مرثیہ پر جا کر ٹھہر گئی۔ وہ صفتِ مرثیہ کے مداح نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ”مسدس“ میں مرثیہ کی تکنیک کو بتاتا۔ بقول ہلال نقوی:

”حالی نے نہ صرف مدرس میں انیس کی تکنیک کو برتا بلکہ اپنی نظموں میں بھی انہوں نے ”موضوعات“ کو وسعت دینے میں اسی صفتِ مرثیہ کے پھیلا و کوپیش نظر رکھا۔“<sup>1</sup>

انیس کا انتقال 1874ء میں ہوا اور اسی سال انجمن پنجاب کے تحت مشاعروں کی بنیاد پڑی۔ ان مشاعروں میں مناظر فطرت کی شاعری پر بڑی توجہ دی گئی۔ رام با بوسکینہ کا خیال ہے کہ آزاد، حالی اور سرور وغیرہ کی نظمیں مرثیہ ہی کی خوشہ چیزیں اور مر ہونے منت ہیں۔ ۲ ہے پروفیسر شبیہ اگسن نے اپنے مضمون ”میرا نیس کی خوشہ چیزیں اور ان کے خوشہ چیزیں“ میں تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا ہے۔

”اس عہد میں جدید لقلم کا آفتاب طلوع ہوا جس کے خاص رہنماؤں میں محمد حسین آزاد، حالی اور کسی حد تک شبی بھی تھے۔ اس قبیلہ کے سبھی فن کاروں کے یہاں نقطہ نظر اور موضوع کی جو جدت اور فطرت شناسی اور خالص انسانیت کو فن میں سمجھنے کی جو کوشش نظر آتی ہے اس میں مغربی اثرات کے علاوہ اس موضوعاتی توسعی کا بھی بڑا دخل ہے، جس کا عرفان مرثیہ زنگاروں، بالخصوص میرا نیس کی وجہ سے عام ہوا۔“<sup>3</sup>

1 ”بیسویں صدی اور جدید مرثیہ“، ہلال نقوی، ص 107۔

2 ”تاریخ ادب اردو“، رام با بوسکینہ۔ خاتون شرق، اردو بازار جامع مسجد دہلی، 1966ء، ص 334۔

3 ”انیس شناسی“، مرتب گوپی چند نارگ، ص 191۔

شبیہ الحسن صاحب کے اس نظریہ کی تقدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ مناظرِ نظرت پر جو نظمیں آزاد، اسلیل اور اونچ گیا وی نے لکھیں۔ ان میں سے اکثر موضوعات پر انیں ودیہر لکھے چکے تھے۔ مثلاً آزاد کی نظمیں：“شام کی آمد اور کیفیت”，“جاڑا اور کبرا”， اسلیل کی نظمیں：“صح کی آمد”，“نسیمِ حرر”，“شام کا جھپٹنا” اور اونچ گیا وی کی نظمیں：“نسیمِ حرر”，“صح بہار”，“غیرہ۔

اسی کے ساتھ جہاں انیں کی پیروی کی جا رہی تھی وہاں تقیدی سطح پر جو کتابیں لکھی گئیں، اس میں مرثیے کو بہت اہمیت دی گئی مثلاً ”آبِ حیات“، ”مقدمہ شعر و شاعری“ اور ”موازیۃ انیں ودیہر“ اس کی سب سے نمایاں مثالیں ہیں۔

### سودا کے تقیدی نظریات

سودا نے اپنے عہد کے مرثیہ گو شعرا کی بے راہ روی پر سخت تقید کی۔ انہوں نے اپنی نظم ”سمیل ہدایت“ میں مرثیے کے ایک صفتِ محض ہونے کا شعوری احساس دلایا۔ انہوں نے عروضی خایروں کے علاوہ مرثیے کے کردار کی رتبہ شناسی پر بھی توجہ دلائی۔ یہی وجہ ہے کہ بیسویں صدی کی مرثیہ گوئی ”مظلوم حسین“ کے مجائے فاتح اور سورا حسین کا تصور پیش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مرثیے میں ہمیشی تجربے بھی کیے۔ ان کے کلیات میں منفرد، مستزاد منفرد، مثلث مستزاد، مربع، مربع مستزاد، ترکیب بند، ترجیح بند، تمحس، تمحس ترجیح بند، اور مندش، مندش ترکیب بند کی ہیئت میں مرثیے ملتے ہیں۔

### انیں کے تقیدی افکار

انیں نے مرثیے کے متعلق بعض بنیادی باتیں کہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے مرثیے ”نمک خوانِ نکلم ہے فصاحت میری“ میں مرثیے کے اصولوں کا اظہار کیا ہے۔ اس مرثیے کے چند بند مرثیے کی تاریخ میں غور و گلکار دروازہ کھولتے ہیں۔

لقطع مغلق نہ ہو، چلک نہ ہو، تقید نہ ہو



وہ مرقع ہو کہ دیکھیں اسے گراہل شعور  
ہر ورق میں کہیں سایہ نظر آئے کہیں نور



روز مرہ شرقا کا ہو سلاست ہو وہی لب والجہ وہی سادہ ہو ممتاز ہو وہی  
سامعین جلد سمجھ لیں جسے صنعت ہو وہی یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی  
لفظ بھی چست ہو مضمون بھی عالی ہوئے  
مرشیدہ درد کی پاتوں سے نہ خالی ہوئے  
ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے سرمد زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے  
تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے زیب ہے خالی سیہ چڑہ گل رو کے لیے  
داند آنکھ کہ فصاحت بہ کلام دارو  
ہر خن موقع و ہر کختہ کلام دارو  
بزم کا رنگ جدا، رزم کا میداں ہے جدا یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستان ہے جدا  
فہم کامل ہو تو ہر نام کا عنوان ہے جدا مختصر پڑھ کے رلا دینے کا سماں ہے جدا  
دب بہ بھی ہو، مصائب بھی ہو، تو صیف بھی ہو  
دل بھی مفتوح ہوں رقت بھی ہو، تعریف بھی ہو  
بیسویں صدی کی مرشیدہ گوئی کو جو شعری ضابطہ ملادہ انیں کے انھیں بندوں سے ملا۔  
اسی لیے جدید مرثیوں میں میں تفصیل سے نہیں لکھتے جاتے بلکہ چند بند مصائب کے ہوتے  
ہیں۔ سودا اور انیں کے بعد ہی مرشیدہ کو وہ مرتبہ ملا، جس کی وجہ سے آزاد، حالی اور بُلی نے اس  
پر قلم اٹھایا۔ مرشیدہ پر آزاد کا سب سے بنیادی اعتراض یہ ہے کہ رزم بزم کے پھیلاؤ نے مرشیدہ  
کا دامن نگ کر دیا۔ آزاد کے مقابلے میں حالی نے تفصیل سے مرشیدہ پر بحث کی ہے۔

### حالی کا مقدمہ

”مقدمہ شعرو شاعری“ (1893) میں مرشیدہ کے مضامین پر اعتراض کرتے

ہوئے حالی لکھتے ہیں:

”مرشیہ میں رزم و بزم اور فخر و خودستائی اور سرپا و غیرہ کو داخل کرنا، لمبی لمبی تہبیدیں اور طوطے باندھنے، گھوڑے اور تکوار وغیرہ کی تعریف میں نازک خیالیاں اور بلند پروازیاں کرنا اور شاعرانہ ہنر دکھانا مرشیہ کے موضوع کے بالکل خلاف ہیں۔“ (ص 179)

حالی کے نظریات سے اختلاف کے بہت سے پہلو موجود ہیں، لیکن وہ سب سے غیر جانب دار ہیں، جنہوں نے مریمیے کے متعلق بعض تقیدی سوالات اٹھائے ہیں اور مریمیے کو ایک صفتِ خون کی حیثیت سے دیکھا ہے۔

### شبیلی کا موازنہ

مریمیے کی تقیدی تاریخ میں موازنہ سرفہrst ہے۔ شبیلی نے انہیں کو موضوع بنایا کہ ان کے کلام میں شاعری کے جس قدر اوصاف پائے جاتے ہیں اور کسی کے کلام میں نہیں پائے جاتے۔ گویا شبیلی نے موازنہ میں انہیں کو مکمل شاعر کے روپ میں پیش کیا۔ انہوں نے موازنہ میں انہیں کے متعلق جو رائے قائم کی ہے، وہ حرف بہ حرف درست ہے، لیکن دیر کے معاملے میں ان سے ذرا سی لغوش ہو گئی۔ دیر کے کلام میں فصاحت و باغت و تخلیق و حماکات انہیں کے مقابلے میں کم سبھی پھر بھی ہے اور بہت ہے۔ جس کا ذکر یہاں ضروری نہیں۔ میرے کام کی بات توانی ہے کہ موازنہ نے محض ابلاغ و اشاعت ہی کو تحریر کی بنا کا سب قرار نہیں دیا اور شاعرانہ زاویوں اور نسیائی جمتوں سے مریمیے کو پر کھنے کا کام شروع ہوا۔

بیسویں صدی کے بدلتے ہوئے ادب پر غالب، انہیں اور حالی کے اثرات زیادہ گھبرے تھے۔ شعر و ادب کی روایتیں بدل رہی تھیں۔ سائنس و فلسفہ اور علوم مادہ کی تعلیم زور کچڑ رہی تھی۔ مغرب کے اثر سے تہذیبی اور تمدنی سطح پر تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ جن لوگوں نے اس بدلتی ہوئی روشن کو محسوس کیا، ان لوگوں کے فن نے نئی فضا میں سانس لینا شروع کیا۔ مریمیے کے جن شعراء نے اس تبدیلی کو محسوس کیا ان کے یہاں مریمیے میں بھی ایک قسم کی تبدیلی آئی۔

شاد عظیم آبادی اور اونچ لکھنؤی کے مریثے نئی منزل کا پتہ دیتے ہیں۔

موضوع سماجی اعتبار سے بدلتے ہیں اور زبان موضوع کے اعتبار سے بدلتی ہے۔ جب زندگی کروٹ بدلتی ہے اور معاشرے کوئئے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو موضوعات میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ جہاں تک ہیئت کا تعلق ہے، اس میں اس وقت تک تبدیلی نہیں آتی جب تک شاعر یہ نہ سمجھے کہ اس کے تجربات خام سانچے میں داخل رہے ہیں۔ مرثیہ ایک نظم مسلسل ہے مگر واقعات کو ایک مرتب شکل میں لکھا جاتا رہا ہے۔ بیسویں صدی کی ابتداء میں بھی مرثیہ اسی ترتیب سے لکھا جاتا رہا۔ مرثیے کی تزکیب میں چہرہ، آمد، سرایا، رجز، جنگ، شہادت، بین کے اجزاء شامل ہیں اور یہی اجزاء مرثیے کے داخلی ساخت قرار پائے۔ بہت سے مرثیہ نگاروں نے مرثیے کے نظام تزکیب سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ سرایا، رجز اور شہادت کے اجزاء کو بہت کم کر کے ان کی جگہ نئے مضمایں کو جگہ دی۔ موضوع میں ترمیم اور تبدیلی کو کچھ لوگوں نے پسند نہیں کیا اور اچھے سے اچھے مرثیے کو مسدس کہنے لگے۔ گویا اس نظام تزکیبی سے ہٹ کر کہا جانے والا مرثیہ نہیں بلکہ مسدس ہے، جب کہ مسدس کوئی صفتِ خن نہیں بلکہ ہیئت ہے۔ ان مرثیوں کے چہرے بالخصوص عصری تقاضوں کے آئینے ہیں، جن میں مرثیے کا ارتقاء صاف نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی تبدیلی اور معاشرتی تبدیلیوں کا عکس بھی نمایاں ہے۔ ان مرثیوں میں انسان کی عقلی ترقیوں کو موضوع بجٹھ بنا لایا گیا ہے۔

مرثیے کی خارجی ہیئت مسدس ہی رہی البتہ چند مرثیہ نگاروں نے ہیئت میں تبدیلی کی کوشش کی اور نئے تجربات کیے لیکن مرثیے کی مقبول ہیئت مسدس ہی کبھی جاںکتی ہے۔ مسدس میں تیسرا شعر ٹیپ کھلاتا ہے اور عموماً زوردار ہوتا ہے اور اپنے پہلے دونوں شعروں سے الگ تفہیہ اور ردیف رکھتا ہے۔ مرثیہ سودا سے لے کر اب تک اسی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ غالب نے بھی اسی فارم میں طبع آزمائی کی۔ مسدس کی بحر، موضوعات، جنگ، ہنگام و غا، مار، ذھاڑ، رب، دبدبہ، وحشت، سور ماوں کے رجز، صح کام، گرمی کی شدت، پانی، پھولوں کا کھلانا اور کیفیت آمد بہار کے لیے مناسب ہے۔ مرثیے کا ہر بند ایک اکائی ہوتا ہے اور عام طور پر پیر اگر فیکل ترتیب کے لحاظ سے مریوط ہوتا ہے۔ ہر بند کے آخر کا مضمون اگلے بند

کے سرے سے جاتا ہے۔ ہر بند کا تیرا مصرعِ مضمون کو اٹھانے کے کام آتا ہے۔ چوتھے مصرع میں شعر کی اٹھان صاف نظر آتی ہے تاکہ بیت کا مضمون تیرے اور چوتھے مصرع کی حیثیت کے مطابق بڑھے۔ پانچویں پچھے مصرع میں انتہا کا عمل دکھائی دیتا ہے۔ مسدس کی اس خوبی کے پیش نظر بیسویں صدی میں بھی اسی بیت کو اپنایا گیا۔ البتہ مواد میں تبدیلی واقع ہوئی۔

بیت اور مواد کے رشتے کو سمجھنے کے لیے ذیل میں چند نادین کے خیالات پیش کیے جاتے ہیں:

”شاعر کا پہلا کام شاعری ہے۔ وعظ دینا نہیں... شاعر کا تعلق  
جذبات کی دنیا سے ہے۔ اگر وہ اپنے تمام ساز و سامان، تمام رنگ و بو،  
تمام ترجم و موسیقی کو پوری طرح کام میں نہیں لائے گا، اگر فن کے اعتبار  
سے اس میں بھوٹنا پن ہوگا، اگر وہ ہمارے احساسات کو لطافت کے  
ساتھ بیدار کرنے میں قاصر ہے گا تو اچھے سے اچھے خیال کا وہی حشر  
ہوگا جو دانے کا بخیر میں ہوتا ہے۔“

(سجاد ظہیر: ”اردو کی جدید انقلابی شاعری“، نیا ادب 1939)

”مواد اور اسلوب لازم و ملزم ہیں اور زندہ ادب میں ان کو  
ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ ادب کوئی باہری چیز نہیں ہے  
 بلکہ مواد کے ساتھ اس کی اندر وہی ترکیب میں شامل ہے اور ادب میں  
 زندگی اور بالیدگی پیدا کرتا ہے۔ اسلوب سے مواد میں جان آتی ہے۔  
 ہر قوت اظہار کے بعد حقیقت ہوتی ہے اور اظہار کے معنی یہ ہیں کہ کوئی  
 مخصوص موزوں صورت اختیار کی جائے۔ پرانے اسلوب کی غلامانہ  
 تقیید تو یقیناً ہمارے حق میں موت کا حکم رکھتی ہے، لیکن نئے مواد کے  
 لیے موزوں اسالیب جو اتنی تو اتنا رکھتے ہوں کہ مواد کو جاندار بنا سکیں  
 نہایت ضروری ہیں ورنہ ادیب کی کوئی کوشش ادبی کہے جانے کی مستحق

نہ ہوگی۔ فکر اور اسلوب ایک راگ کے دوسرا ہیں جن کے مل کر ایک ہو جانے سے راگ پیدا ہوتا ہے اور جن کے بغیر ہم راگ کا تصور نہیں کر سکتے۔ ادب میں ہم کو پرانے اسالیب سے کام لیتا ہے اور نئے فکری میلانات کے مطابق نئے اسالیب بھی ایجاد کرنا ہے لیکن ہر بغیر سوچی سمجھی بدعت کو ہم اسلوب نہیں کہہ سکتے۔ اسلوب تو وہ ہے جس کو خود مواد متعین کرے گا مگر جب یہ اسلوب وجود میں آجائے گا تو ایسا ہو گا کہ زندگی کا ضامن ہو سکے گا۔

(جنون گورکپوری: ”ادب اور زندگی“، ص 62)

”آپ کچھ بھی کہتے، ادب کی جان تمیل، استعارہ اور رمز دایما ہیں۔ ادیب اپنی فکر کے لیے فن ڈھونڈھتا ہے۔ جہاں لکر کے بغیر فن بے معنی، بے مقصد اور بے کار ہوتا ہے وہاں فن کے بغیر فکر کی تاثیر، اس کا جادو، اس کی جذباتی ابیل، اس کی قوت اور طاقت یا تو محدود ہو جاتی ہے یا ناکام۔ فن ان معنوں میں افادی نہیں ہے جن معنوں میں ہر افادی ہے۔ فن حسن کاری کر کے مسرت اور مسرت کے ساتھ بصیرت میں اضافہ کرتا ہے۔ فن کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، فکر کی خاطر بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔“

(آل احمد سرور: ”ادب اور نظریہ“، ص 279)

”ترقبی پسند ادب کا زاویہ نظر مواد اور بیت کے تعلق کے پارے میں بہت واضح ہے۔ وہ تمام شعرا اور فقاد جوزندگی کو نامیاتی مانتے ہیں، جو مقدار سے خصوصیتوں کے بدلتے کے قائل ہیں، جو شاعری کو زندگی کا مظہر مانتے ہیں، جو ادب کو سماجی ترقی کا آلہ سمجھتے ہیں، جو تمدن کو عام کرنا اور فنونی لطیفہ کو عوام کی چیز مانتے ہیں وہ کسی حالت میں بھی بیت اور اسلوب کو مواد پر اہمیت دینے کے لیے

تیار نہیں۔“

(اختشام حسین: تقدیدی جائزے، ص 251)

مندرجہ بالا اقتباسات سے ظاہر ہے کہ شاعری میں نہ صرف مواد کی اہمیت ہے اور نہ صرف ہیئت کی۔ ہیئت کسی تجربے کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے اور اس کے دائرے میں شاعری کی تمام تکنیک آجائی ہے۔ کوئی بھی فن پارہ مواد اور ہیئت کے حسین امتزاج کا نام ہے۔

بیسویں صدی کے ربع اول میں مرثیہ نگاروں میں دوناں ایسے ہیں جن کی مرثیہ گوئی جدید مرثیہ گوئی کے پیش منظر میں قابل ذکر ہے۔ ایک شادا اور دوسراے اوچ۔ ان شعراء کے دور تک قدیم طرز کی مرثیہ گوئی تقریباً موت ڈلتی ہے۔ چند شعراء پرانی روشن پرسر جاری رکھتے ہیں، چنانچہ ان میں تو انائی کی کمی نظر آتی ہے۔

انیس و دبیر کے زمانے سے ہی دونوں کے طرزِ خن میں فرق ہونے کی وجہ سے ”گروہ بن گئے تھے۔ ان کے خاندان کے افراد اور شاگردوں نے بھی انہیں کے طرز پر مرثیہ گوئی شروع کی۔ انیس و دبیر کے علاوہ میر عشق بھی تھے جو ان دونوں سے الگ رہ کر انہاں الگ رنگ اختیار کر رہے تھے۔ ان مراتی میں تغزل کا رنگ جملکنے لگا تھا۔

صدر حسین نے شعرائے بعد انیس کو دھصول میں تقیم کیا ہے۔ ”مرثیہ بعد انیس“

میں لکھتے ہیں:

”پہلا طبقہ تو ان شعراء سے متعلق ہے جنہیں عہد انیس کے اثرات برآہ راست پکنے۔ یہ دھشورا ہیں، جن کا شاعر انہیں اعتبار قریب قریب انیس و دبیر کی آخری زندگی میں قائم ہو چکا تھا لیکن ان کے کمالات انیس و دبیر، موس، انس وغیرہ کی وفات کے بعد سامنے آئے اور قریب قریب پچیس یا تیس سال تک نورافشاనیاں کر کے ان کی شمع حیات گل ہو گئی۔ دوسرا طبقہ ان شعراء سے متعلق ہے جن کا فن شعر گوئی پہلے طبقے کے بعد مکمل ہوا جو پہ استثنائے مرزا اوچ اور شاد عظیم آپادی

پہلے طبقے کے اساتذہ کے شاگرد تھے۔ مرزا اونج اور شاددوا یے افراد اس حصے میں نظر آئیں گے جو انہیں کے وقت سے ہی شاعری کر رہے تھے، لیکن ان کی آوازوں میں احتجادی قوت قریب قریب 1900 میں پا اس کے بعد پیدا ہوئی۔ یہ طبقہ ایک طرف تو عہد انہیں کے اثرات سے ملا ہوا ہے اور دوسری طرف دو رہاضر سے یعنی اس میں 1900 سے لے کر آج تک کے تمام مرثیہ گوشامل ہیں جن کی فہرست را طولانی ہے، لیکن بعض ہمتوں کے خیال سے ہم پیش کرتے ہیں۔“

(صدر حسین: نگار، نومبر 1933)

#### دبستانِ دبیر:

خاندانی شعراء: مرزا محمد جعفر اونج

مرزا طاہر رفیق

خاندان کے شاگرد: شاد عظیم آبادی

صغیر بلگرای

منظفوعلی خاں کوثر

فراست زید پوری

فضل حسین ثابت

سرفراز حسین خبیر

#### دبستانِ انیس:

خاندانی شعراء: جلیس، عارف، قدیم، عروج، ذکی، فائز،

جلیل، فائق، فرنید

خاندان کے شاگرد: فارغ سیتاپوری، علی حامد چونپوری،

ربیاض الدین ربیاض، مہاراجہ سید محمد علی خاں ساحر

## دستان عشق :

پیارے صاحب رشید، باقر مرزا حمید، ادب،  
 مودب، سجاد حسین شدید، قسم، مہذب  
 خاندانِ اجتہاد: فاخر، ذاخر، جاوید، حسین، حکیم آشفتہ  
 انفرادی شعراء: بیان یزدانی، شیم امروہوی، بزم اکبر آبادی،  
 آغا شاعر دہلوی



## (ب) دلستانِ انیس

اردو زبان میں مرشیہ کی ابتداء ہی ضرورت سے ہوئی اور نہ ہب وہ تھا جس میں  
اہل بیت کی محبت آیہ مودت کے مطابق کسی واجبات سے کم نہ تھی۔ اس جذبہِ محبت نے مجلس  
عزما کے مقصد تھہرائے، ایک تو واقعہ کربلا کے واقعات کی تبلیغ دوسرے ان کے مصائب  
شناکر گریہ و بکا۔ مرشیہ جو کہ مجلس عزا کی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر لکھا جاتا تھا، ان  
دونوں مقصدوں سے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ انیس نے سامعین کے ذوق  
احساس اور ماحول کے اثرات کو شامل کر کے مرشیہ کو عروج پر پہنچا دیا۔

انیس کے فوراً بعد شروع ہونے والا دور انیس کے اثرات سے اتنا قریب تھا کہ نہ تو  
مرشیے کا مقصد بدلا اور نہ افراد مرشیہ کے تصور میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی۔ انیس نے مرشیے کا  
جومعیار پیش کیا تھا یعنی۔

دبدبہ بھی ہو مصائب بھی ہو تو صیف بھی ہو  
دل بھی مخلوط ہوں، رقت بھی ہو تعریف بھی ہو  
دبدبہ سے مراد ہے زبان کی بلند آنگی، مصائب کے معنی ہیں، ہیروکی بے کسی اس کی شہادت  
اور غم انگیز واقعات کے بیانات، آخر میں تو صیف کا مطلب ہے انسان کی صفات: صبر و ایثار،  
شجاعت و استقلال، رحم و کرم، کمالات، حرب ضرب کی مدح سرائی اور ان تینوں عنوانات کا  
لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ شاعری کی تعریف کی جائے۔ سامعین کے دل مخلوط ہوں اور گریہ و بکا سے

مجلس کا مقصد پورا ہو۔ اب اس نظریے کی روشنی میں مریئے کے حدود یہ ہوئے۔

(1) پہ اعتبار ساخت: چہرہ، بہار، رخصت، آمد، رجز، جنگ اور شہادت۔

(2) پہ اعتبار مضامین: مناظر فطرت، جذبات نگاری، فون جنگ، جنگ کا

میدان، میدان کے نقشے، کردار نگاری اور اخلاقی درس۔

یہ حد بندیاں مذہبی عقاید اور ماحول کے امتراج سے مقرر ہوئی تھیں۔ انہیں کے بعد جتنے شعراء آئے انھیں بھی اسی حد بندی کے اندر مرثیہ کہنا پڑا، جب تک خود ماحول اور مذہبی نظموں نے اپنارخ نہیں بدلا۔ انہیں کے بعد مرثیہ ساخت کے اعتبار سے بالکل ویسا ہی رہا۔ اب ہم دوستاں انہیں کی مرثیہ گوئی کا مختصر جائزہ پیش کرتے ہیں:

### خورشید علی نقیش: (1234ھ-1318ھ)

انہیں کے تین بیٹے نقیس، سلیس اور رئیس میں نقیس فن مرثیہ گوئی میں صحیح طور پر انہیں کے جانشین تھے۔ اگر چہ نقیس کا انتقال 1901 میں ہو گیا تھا، لیکن بیسویں صدی کی ابتدا میں پہلا نام نقیس کا آتا ہے۔ وہ مرثیہ نگاری میں انہیں یاد ہیر کے مقابلے کوئی انفرادی حیثیت تو قائم نہیں کر سکے، لیکن ان کے کلام میں وہ شکوہ، پاکپن، سلاست، روانی اور جنگلی ہے جو ایک قادر الکلام شاعر کا حصہ ہوتا ہے۔

مرثیہ کے مضامین کو خارجی اور داخلی دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ خارجی کے ذیل میں مریئے کے تین مخصوص عنوان واقعہ نگاری، مناظر قدرت اور روز میہ بیانات آتے ہیں۔ اگر چہ ان کے بیان میں بھی کسی حد تک داخلی شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ واقعہ نگاری میں بڑے بڑے تخلیقی اضافے کیے، جو بلاغت اصول کے مطابق ہیں۔ واقعہ نگاری کے بعد مناظر قدرت کا بیان ہے۔ نقیس نے اس سلسلے میں سب سے زیادہ کہا۔ رزمیہ عناصر میں بھی نقیس کے بیہاں جوش و خروش موجود ہے۔ لیکن پہلوان ایسے کھڑا ہوا، اس طرح توارنکالی، دو نیزے اس طرح گتھ گئے وغیرہ، اس تفصیل سے سامنے نہیں آتے جس طرح انہیں کے بیہاں نظر آتے ہیں۔ انفرادی طور پر جو جنگ ہوتی ہے اس کا ذکر نقیس اتنی کامیابی کے ساتھ نہیں

کر پاتے لیکن گھسان کارن پڑنے کا منظر نہیں کے یہاں بہت خوب ہے۔ ایسے موقعوں پر  
ہبیت ناک سماں نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ جنگ کا ایک منظر مطلع ”میں بلبل شیریں خن  
با غ علی ہوں“

تبیغوں پر ہیں تینیں تو سناؤں پر سنائیں      ناؤک پر ہے ناؤک، تو کمانوں پر کمانیں  
تیردوں کی ہیں نوکیں کہ ہیں انقی کی بانیں      سب لیس ہیں لڑنے پر لڑائے ہوئے جانیں  
انھی ہوئی ڈھالیں صفت ابر بھم ہیں  
تا دور نشاں اوپنے ہیں تکواریں علم ہیں

بھڑکے فرس تو گھوڑوں سے اہل ست مرے      ہل چل یہ پڑ گئی کہ پیارے بھم گرے  
صف پر گری جو صفت تو علم پر علم گرے      نیزے گرے کہ ہاتھ سے جیسے قلم گرے  
کانپے جو ہاتھ قبضہ شمشیر چھٹ گئے  
رعشہ ہوا کہ چنکیوں سے تیر چھٹ گئے

شاعری کا داخلی پہلو بہت اہم ہوتا ہے اس کے لیے زبردست وسعت نظر اور  
 قادر الکلامی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انس کے پاس دوز برداشت اہم خوبیاں تھیں: ایک تو ان  
کی زبان اور دوسرے واقعات اور کردار کے ذیل میں ان کی نفیاتی پہنچ۔ انس کے کلام کو  
معیار بنا کر مرشیہ لکھنے والوں نے خارجی پہلو پر زیادہ زور دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے  
خارجی پہلو کو ہی انس کا خاص پہلو سمجھا ہو۔ حالانکہ اصل خصوصیت انس کے داخلی پہلو میں  
تمہی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی نگاہ اس پہلو پر گئی ہو لیکن اس پر ان کو عبور نہ حاصل رہا  
ہو۔ داخلی شاعری کا کمال سیرت نگاری، نفیاتی تجزیہ اور جذبات کی مصوری میں سامنے آتا  
ہے۔ نفیاتی تجزیہ اور جذبات کی مصوری میں نہیں اتنے کامیاب نہیں جتنا کہ انس۔ انس کی  
نظر، ہمیشہ اس بات پر رہتی کہ کس طرح کا کردار ہے اور مختلف موقعوں پر کس جذبے کا کتنا اثر  
واقع ہوگا۔ نہیں کے یہاں جذبات کی مصوری انس کے مقابلے میں کم سبی لیکن پھر بھی ہے  
اور بہت ہے۔ نہیں نے حفظ مراتب اور سن کا لحاظ رکھتے ہوئے نفیات کی غمازی کی ہے۔  
بچوں کے جذبات و احساسات کی غمازی کی ایک مثال ملاحظہ ہو۔

چلایا ہم کو چھوڑ کے بابا کہاں چلے اے جاں نثار سید والا کہاں چلے  
 ہتھیار ج کے لاکھوں میں تنہا کہاں چلے خیسے میں سب کو چھوڑ کے پیاسا کہاں چلے  
 اماں نے کہہ دیا ہے کہ لے آؤ باپ کو  
 لیجے یہ مشک دی ہے سکنے نے آپ کو  
 ساقی نامہ نقیس کے مراثی میں کمی کے ساتھ متا ہے اور مرشیہ کا تقدس برقرار رہتا  
 ہے۔ بقول تقام حسین جعفری:

”مرشیہ میں ساقی نامہ کی داغ بیل انیس مرحوم نے ڈالی۔“

میر نقیس نے مرشیے کے اس گوشے کو بہت وسعت دی۔ ساقی نامے  
 کے مفہوم میں تبدیلی ہوئی۔ شاعر کا خطاب ساقی کوثر سے ہوتا تھا اور  
 وقت دوران کو پکارا جاتا۔<sup>1</sup>

محضیر یہ کہ زبان و بیان میں ٹکوہ اور نازک خیالی کے اعتبار سے نقیس کے مراثی  
 اپنا ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔

### جلیس

سید ابو محمد عرف ابو صاحب جلیس، میر سلیس کے صاحبزادے تھے۔ پیارے  
 صاحب رشید سے اصلاح لیتے تھے۔ عین عالمِ شباب میں 1325ھ میں رحلت کر گئے۔ ان کی  
 شہرت بہت کم ہوئی۔

### سید علی محمد عارف لکھنؤی (1859-1916)

سید علی محمد میر نقیس کے نواسے تھے۔ مرشیہ گوئی اور مرشیہ خوانی کے اصول اپنے نانا  
 نقیس سے سکھے۔ مرشیے کی ساخت زبان اور خیالات کے اعتبار سے نقیس ہی کی پیروی کی۔

جدو آبا کا چلن چھٹنے نہ پائے مجھ سے  
 طرزِ مرغوب کہن چھٹنے نہ پائے مجھ سے

<sup>1</sup> ”شاگردان میر انیس“، تقام حسین جعفری، جس 185.

عارف کی زندگی اسی فکر میں کثی گئی کہ ”ظرز مرغوب بخن چھٹنے نہ پائے“، اس لیے ان کے مراثی کا انداز انہی نفس ہی کا ہے، لیکن انداز کچھ کمزور ہے۔ آپ کے مراثی پاکستان میں ”معارف بخن“ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔

ان کے مراثی میں دبتان انہیں کے شعراۓ کی طرح انہیں کی پیرودی کے سبب کوئی امتیازی حیثیت حاصل نہیں کر سکے۔ مرشیدہ نگاری میں ووئی نئی راہ روشن اختیار نہیں کی۔ انہیں و دیہر کی مرشیدہ نگاری میں اپنائے گئے عناصر یا موضوعات پر ہی طبع آزمائی کی۔ ان کے مراثی میں تین خصوصیات نمایاں ہیں :

1۔ مضمون آفرینی یا رعنائی خیال، 2۔ جوش بیان، 3۔ مرشدیت

عارف ہیرودی کی سیرت اور اس پر ظلم و تم کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں اور بین کے اشارات کچھ ایسی بر جنگلی سے کر جاتے ہیں، جن میں خیالات و زبان کی سادگی بھی ہوتی ہے اور جذبات کی تخلیل بھی، اس لیے سوز و گداز تیزتر ہو جاتا ہے۔ جناب علی اکبر کے حال میں ایک مرشید کا کچھ حصہ دیکھئے۔

آپس میں رہا کرتی تھیں باقیتی یہی پھروں سب کی یہ تمنا تھی کہ جلدی یہ جواں ہوں  
دل بڑھتا تھا مال باپ کا یہ بڑھتے تھے جوں جوں جو چاہنے والے تھے وہ دیتے تھے دعا یوں

ارمان ہو پورا شیر وala کی بہن کا

وہ دون ہو کہ اس گھر میں قدم آئے وہن کا

وہ عورتیں جن سے کہ زیادہ تھی ملاقات آتی تھیں زیارت کے لیے اکثر اوقات

یوں دست ادب جوڑ کے کہتی تھیں وہ خوش ذات بی بی کہو فرزند کی شہزادی کہیں بات

فرماتی تھیں زینب ابھی جلدی مجھے کیا ہے

ہو جائے گی شادی بھی جو منظور خدا ہے

یوں پوچھو تو پیغام گئے آئے کئی جا لیکن ابھی راضی نہیں شاہنشہ والا

گوسب سے زیادہ مجھے اس کی ہے تمنا پر مصلحت ایسی ہے کہ ہے دیر ہی زینا

جودل میں ہے ان کے نہیں ظاہروہ کسی پر

موقوف ہے یا وقت پر یا شہ کی خوشی پر

عورتوں کے جذبات اور ان کی گفتگو کی مصوری کیسی لا جواب ہے۔

عارف نے واقعات کر بلا کے سلسلے میں دہستان انھیں کے شعراء کی طرح تصرفات کیے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے ان پاتوں میں اختلاف کی گنجائش بھلے ہی نکل آئے لیکن نفیاں کی رو سے یہ ساری باتیں قرین قیاس ہیں۔ مندرجہ بالا ہندوؤں کے علاوہ ایک موقع اور دیکھنے جہاں عون و محمد امام حسین سے رخصت لے چکے ہیں۔ ماں کو یہ جلدی ہے کہ بیٹے جلد ماموں پر فدا ہوں اس لیے انھیں منظور نہیں کہ بچے خیمے میں آ کر رخصت کے لیے دیر لگا میں لیکن اور یہ بیان ملننا چاہتی ہیں۔ اس موقع پر جذبات کی مصوری اس طرح کی ہے۔

بولی بانو کہ بلا لاو انھیں گھر میں ذرا کہاں نہ بنتے کہ کیا کام ہے یاں اب ان کا عرض کی دیر نہ ہو آپ کا ہے یہ منشاء ہم وہیں جا کے ملے آتے ہیں بولیں اچھا

حق مرے پانے کا جو ہے ادا کر کے مریں

کہہ دوسرا ماموں کے قدموں پر فدا کر کے مریں

عرض کی بانوئے ذی جاہ نے باد یہہ تر دیکھ لیں آپ بھی تو چل کے انھیں ایک نظر ہو کے مغموم یہ کہنے لگیں شہ کی خواہر فائدہ؟ دیکھ لیا ان کو پھر اک بار اگر غم فرقہ دل م Fletcher کو نہ تڑپائے کہیں

ذر ہے البت کا مجھے جوش نہ آجائے کہیں

ہم زباں ہو کے کیا سب نے جواہ حداصرار اٹھ کے ہمراہ گئیں تادر خیمه نا چار جھک کے کرنے لگے تسلیمیں جو وہ گل رخسار دل نہ قابو میں رہا آگیا بے ساختہ پیار

ہاتھ پھیلہ کے اشارے سے بلایا ان کو

ایک ہی بار کلیج سے لگایا ان کو

آئی نئھے سے دلوں کے جودھ کنے کی صدا دیکھ کے چہروں کو فرمایا کہ واری یہ سیا عرض کی مرنے سے ہم نہیں کچھ خوف اصلاح تھا مگر آپ ہی کی بس خفگی کا دھڑکا

پھر کہا آپ کا دل سینہ میں کیوں بُل ہے

منہ پھر اکر کہا بُنونے کہ ماں کا دل ہے

بولیں یہ دیکھ کے بانو کی طرف نینبُزار      جو میں کہتی تھی وہی بات ہوئی آخر کار  
 گو ہے بے اشک ابھی تک مری پشم خوں بار      مقضنائے بشریت ہے مگر ہوں نا چار  
 ضعف سا کچھ جگرو دل میں ہوا جاتا ہے

اب سدھاریں کہ مرے صبر میں فرق آتا ہے

عارف کی مرثیہ گوئی پر ڈاکٹر صدر حسین تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”لیکن جمیعی طور پر یہ شخص بھی پایا جاتا ہے کہ انہیں جیسی  
 قادر الکلامی نہ ہونے کی وجہ سے اکثر قامتِ خیال پر قبائے زبان مسکی  
 ہوئی ہے۔ جس کی وجہ سے ان کے مراثی کے چہروں میں جہاں تخیل  
 پیاری کاموڑ ملتا ہے روانی کے بجائے تکلف سا پیدا ہو جاتا ہے، لیکن  
 انہیں نقش کے نمونے نگاہوں میں تھے اس لیے بعض جگہ بند کے بند  
 سانچے میں ڈھلنے ہوئے نظر آتے ہیں۔“<sup>1</sup>

رزمیہ عناصر عارف کے بیہاں بہت ہی معمولی ہیں۔ عارف کے مرثیے حرب،  
 ضرب اور تکوار کی تعریف ہی پر ختم ہو جاتے ہیں۔



<sup>1</sup> ”مرثیہ بعد انہیں“، صدر حسین۔ ”نگار“، نومبر، ۴۳، ص ۶۔

## (ج) دبستانِ دبیر

ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی<sup>۱</sup> اور سکندر آغا<sup>۲</sup> نے دبستانِ دبیر میں کئی شعراً کا ذکر کیا ہے۔ سکندر آغا نے تو مرزا اونج کے شاگردوں کی چالیس شعر اپر مشتمل ایک فہرست مرتب کی ہے، جس میں چند کو خصوصی اہمیت کا حامل بتایا ہے۔

”مرزا اونج کی حیات میں یونس زید پوری، فراست زید پوری، طالب حسین طالب، سرفراز حسین خیر، بادشاہ حسین عرفان نے شهرت پائی۔“<sup>۳</sup>

مرزا اونج (1853-1918)

جدید مرثیے کے پس منظر میں اونج اپنے اسلوب، طرز فکر کے اعتبار سے ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ جدید مرثیے کی جانب پہلا قدم اونج نے اندازیا۔ انہوں نے دبیریت کی تمام تر لسانی، فنی، علمی اور شعری صفات کے ساتھ مرثیہ گوئی کے میدان میں قدم رکھا، وہ مرثیے میں موضوع کے اختیاب اور بندش میں دبیری کی ممتازت رکھتے ہیں۔

میرانیس نے والد خلیق کے حوالے سے لکھا تھا:

۱۔ ”دبستانِ دبیر“، ”ڈاکٹر حسین فاروقی“

۲۔ ”مرزا اونج، حیات اور کارناٹے“، ”سکندر آغا“

۳۔ ”مرزا اونج، حیات اور کارناٹے“، ”سکندر آغا“

حقاً كه خیق کی ہے سر بر زبان  
 مرزا اونج اپنے والد کے حوالے سے کہتے ہیں ع  
 ہو بہودییر کی تو نکھی زبان  
 ایک بند بھی ملاحظہ ہوے

لو خلعت انعام ہوا نظم کو حاصل امداد شہنشاہ دو عالم ہوئی حاصل  
 الہام خدا ہے کہ بیان کر سر محفل علامہ حلی کے مقالات مقاتل  
 بندش ہونی طرزِ خن جانے نہ پائے

اس باخچے میں غیر کارگ آنے نہ پائے

اونج نے تقریباً سو مراثی تصنیف کیے، جن میں سے ایک مجموعہ "معراج الکلام"  
 کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ابتدائی عمر میں ان پر پوری طرح "دییریت" مسلط تھی، لیکن  
 رفتہ رفتہ زمانے کے مذاق سے مجبور ہو کر "ایسیت" کی طرف آئے۔ نظرِ الحسن فوق "سبع  
 مثانی" کے دیباچے میں لکھتے ہیں:-

"موجوہہ زمانے کے عام مذاق اور ملک کے عام رجحان طبائع  
 کو دیکھ کر استاذی معظی مرزا اونج صاحب مرحوم اور مکرمی مرزا طاہر  
 صاحب بہت کچھ مرزا صاحب کے رنگ سے الگ ہو گئے اور دونوں  
 صاحبوں کے کلام میں "ایسیت" کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔" ۱  
 صدر حسین لکھتے ہیں:-

"اس میں شک نہیں کلام انہیں کی ادبی طقوں میں مقبولت  
 اور "موازنہ" کی تصنیف ان کی ملک سے روزگاری اتنی بڑھ گئی تھی کہ  
 بڑے بڑے فرسودہ وضع کے پابند مرثیہ گویوں کو بھی اپنے قدیم رنگ  
 میں جا بجا تبدیلیاں کر کے اندازانہ کی تقلید کرنی پڑی۔ بہر حال اس  
 کوشش میں مرزا اونج کے کلام میں انہیں دو دییر دونوں کا انتزاع پیدا

۱۔ بحوالہ سید فراز حسین خیر لکھنؤی، نیم بک ڈپ لکھنؤ، ۱۹۶۰ء

ہو گیا۔<sup>1</sup>

ان کے ابتدائی کلام اور اخیر عمر کے کلام سے دو نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ منظر نگاری کی ایک مثال ملاحظہ ہو جس میں دیریت کارنگ ہے۔

ظلمت ہوئی جب زلف کشاپرہ شب میں      بخت سیہ روز چھپا پردا شب میں  
سرکی جورخ سر سے ردا پردا شب میں      روپوش ہوا مہر سرا پردا شب میں  
دکھانے لگے روئے جہاں تاب ستارے  
چمکے صفت طالع مہتاب ستارے  
اب ایک اور منظر ملاحظہ ہو جس میں انسیست کارنگ ہے۔

عجیب رنگ ، نرالا سماں ، نیا عالم      وہ مٹھنڈی مٹھنڈی ہوا وہ تریخ شبنم  
وہ ضو قلن علم آفتاب کا پرچم      وہ ڈوبتے ہوئے تاروں کی روشنی مدھم  
حر کے غازہ کافور کا وہ بہہ جانا  
وہ مشک شب کی سیاہی کا پیچھے رہ جانا

حر کی دیتے تھے غنچے چنک چنک کے خبر      سروں کے ناخوں کے لئے سرک گئے تھے گر  
بہار دیکھتے تھے پھول اٹھا اٹھا کے سر      شجر تھے مو تماشا بلند ہو ہو کر  
ہوائے گل میں ہوں کی طرح سے بڑھتی تھیں  
چل چل کے درختوں پہ بیتیں چڑھتی تھیں

کہیں کہیں ایک ہی مریثے میں ایک بند دیر کے رنگ پر ہے تو دوسرا انیس کے رنگ پر۔ اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ مصرع انیس کے رنگ میں ہیں اور اسی بند کے کچھ مصرع دیر کے رنگ میں۔ انیس دیر سے انھیں جو اسلوب ملا تھا، ان میں ثقلات بھی تھی، جس نے خالص مفکرانہ مضامین کے نباہ میں وقتیں پیدا کر دی تھیں۔ محمد رضا کاظمی لکھتے ہیں۔ ”زبان پر اس قدر عبور کے باوجود وہ وقار علمیت کا سر الاطافت اظہار سے نہیں ملا سکے۔“<sup>2</sup> لیکن ان کی

<sup>1</sup> ”مرشید بعد انیس“، ہصفدر جسین، ”نگاہ“، نومبر، 43، ص 13۔

<sup>2</sup> ”جدید اردو مرثیہ“، محمد رضا کاظمی، جس 39۔

طبعت مصلحانہ تھی۔ جن چیزوں کی ضرورت محسوس کی، انھیں مرثیوں میں بیان کر دیا۔ انھوں نے اس عام رواج پر توجہ دی کہ کلاسیکی مرثیہ میں ہندی تہذیب کا رنگ بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ خواتین... بلکہ صبر و شکر کے مناظر بھی نایاب ہیں۔ کردار نگاری کی اصلاح کے علاوہ تاریخی تنقید پر بھی توجہ دی اور غلط روایتوں سے پرہیز کیا۔ رخصت کے حصے کی بے اعتدالی کی اور تغزیل کے پورروہ بہاریہ اور ساتی ناموں کے پیش نظر اون نے مرثیے کی بیت میں بھی ترمیم کرنے کی کوشش کی۔ پرانے عناصر کی ترتیب میں تو انھیں کامیابی ملی مگر جو عناصر انھوں نے داخل کیے، ان کی کوئی صحتی سجاوٹ نہ ہو سکی۔ کہیں کہیں بیان و اقتات کے تسلیم کے ساتھ نہیں، بلکہ جذبات کے دھارے پر سفر کرتا ہے، لیکن ترتیب و تہذیب بیانیہ سے بالکل الگ بھی نہیں ہونے پاتی۔ جدید مرثیے کی جانب پہلاؤ قدم مرزا اون نے اٹھایا۔ انھوں نے مرثیے میں اصلاح کی ضرورت محسوس کی۔ جہاں تک موضوعات کا سوال ہے، انھوں نے درس اخلاق کو اپنا شیوه بنایا اور سماجی تنقید کے لیے جگہ بنائی اور معاصرانہ مسائل پر اظہار رائے کو راہ دی۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیاوی ترقی کو صرف مسلمان قوم تک محدود رکھا جائے۔ انھوں نے مرثیے میں فلسفہ اور منطق کو جگہ دی۔ ایک تشیب میں انھوں نے فلسفہ الہیات پر بحث کی ہے۔ انھوں نے اپنے فن کو مقصد کا پابند رکھا۔ انھیں تاریخ کا گہر اشور تھا اس لیے انھوں نے ضعیف روایتوں کو ترک کیا۔ محمد رضا کاظمی لکھتے ہیں:

”اون کے یہاں جدت طرازی کے بہت پہلو ہیں اور ہر پہلو جدید مرثیہ کے حق میں ایک نیک فال ثابت ہوا۔ جدید مرثیہ میں سیاسی اور فکری شاعری کے جودا، ہم دھارے بہر رہے ہیں ان دونوں کا سرچشمہ اون ہی کا کلام ہے۔“<sup>1</sup>

مرزا اون نے اپنے زمانے کے مسائل اور اخلاقی پہلوؤں کو مرثیوں میں جگہ دی۔ دنیا کی بے شباتی، مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب، طلباء اور نوجوانوں میں احساسِ فرض شناسی اور تہذیب و ہنرمندی کو اپنے مرثیوں میں جگہ دی اور اردو مرثیے کو قوی

<sup>1</sup> ”جدید اردو مرثیہ“: محمد رضا کاظمی، ص ۲۷۔

درد کے ساتھ اصلاحِ قوم کے جذبے سے روشناس کیا۔ انہوں نے مرثیے کے موضوعات میں تبدیلی یا اضافہ کرنے کی کوشش کی بہار اور ساتی نامہ کو مرثیے کے لیے موزوں نہیں سمجھا۔ اصلاحی صورتوں اور تبلیغ کو بھی مدد نظر رکھا۔

اگرچہ اوج نے سماجی مسائل کو مرثیوں میں جگہ دینی چاہی، لیکن ان کے مرثیوں کے کامیاب حصے وہی ہیں جہاں وہ انہیں کے رنگ کے قریب آگئے ہیں۔

بدلی ہوا سوار ہوا جب وہ لالہ فام صل علی وہ شان وہ شوکت وہ احترام  
وہ طفظہ وہ رعب وہ سطوت وہ احتشام صر صر ہٹی بڑھا جو سندسک خرام  
دم بھر لیا قرار نہ حد نگاہ میں  
سایہ بھی خاک ہو گیا پس پس کے راہ میں  
ہاں اے کمیت فکر دکھا بانکپن کی چال پریاں ٹھل ہوں قاف میں چل اس چلن کی چال  
ہو بونے گل کی سیر ہوائے چمن کی چال دلدل کی جست، شیر کا حملہ، ہرن کی چال  
ہاں شہ سوار عقل طبیعت تھی رہے  
اکھڑے جو یہ سمند تو پڑی بھی رہے

پوکے پھنتے ہی ہوا دشت میں اک عالم نور ذرے ذرے سے ہوا جلوہ قدرت کاظہور  
سن کے آوازہ تشیع امام جمہور حمد حق پر ہوئے مصروف درختوں پر طیور  
جو نہ خوش لجن تھے منقار تھے کھولے وہ بھی  
دل پھر کنے لگے اس طرح سے بولے وہ بھی  
آپ کے چہرے کارنگ اور بہار ایک طرف آپ کا صوت دعا بانگ ہزار ایک طرف  
مرغوار ایک طرف اور وہ کچھار ایک طرف اور پیاسوں میں وہ پانی کی پکار ایک طرف  
شور دریا سے وہ سب کشتم غم روتے تھے  
پانی بہنے کی صدائں کے حرم روتے تھے  
اوج کو کلا سیکی کے پس منظر میں جدید کہا جا سکتا ہے، ورنہ اعتقاد اور بہت قدامت پسند تھے۔

ان کے مراثی میں عملی انقلاب کی ترغیب تو ہے مگر اونچ اسے آزادی بند کے نصب اعین سے واضح طور پر شسلک نہیں کر سکے۔

### سید علی محمد شاد عظیم آبادی (1846-1927)

شاد نے پہلا مرثیہ 1871 میں 24 سال کی عمر میں لکھا اور دیبر کو اصلاح کے لیے پیش کیا، لیکن انھیں دیبر کی اصلاحیں پسند نہ آئیں اور کچھ عرصہ کے لیے انھوں نے مرثیہ کہنا ترک کر دیا۔ مراثی شاد کے مقدمہ نگار نقی احمد ارشاد نے لکھا ہے کہ شاد نے اوائل زندگی میں مرثیہ کہنا ترک کر دیا تھا اور غزل پر اکتفا کی۔ آخر عمر میں احباب کے اصرار پر دو ایک مرثیے بھی کہے، تعریفیں ہوئیں، دل بڑھا، پھر چند مرثیے اور تصنیف کیے۔ یہ مراثی جو پیش کیے جائیں ہیں غالباً 1900 کے بعد کہے گئے تھے۔ 1924 کے بعد مرثیہ نہیں کہا۔ 1927 کی 7 جنوری کو بیامِ احل آپ بچا۔<sup>1</sup>

ڈاکٹر صدر حسین کا خیال ہے کہ شاد کے مراثی کی تعداد سو سے اوپر ہے۔ جن کے مجموعی اشعار تقریباً سانچھے ہزار تک پہنچتے ہیں، لیکن ان کی اشاعت تک وجود میں نہیں آسکی۔

مرثیہ گوئی کے سلسلے میں شاد کا رشتہ شاعری ایک طرف میر انیس سے، دوسری طرف مرزا دیبر سے اور تیسرا طرف عہد حاضر کے اثرات سے ملا ہوا ہے۔ انھوں نے مرثیہ کے مضامین پر تقدیمی نظر ڈالی اور وہ حصے جو اصلاحیت سے قریب نہ تھے، حذف کرنے کی کوشش کی۔

شاد کی مرثیہ گوئی پر نظر کرنے سے پہلے ان کے نظریات پر نظر ڈالنی چاہیے۔ مرثیہ گوئی سے متعلق انھوں نے اپنے خیالات ”کلر بیخ“ اور ”شاد کی کہانی شاد کی زبانی“ میں بیان کیے ہیں۔ ان کے خیالات درج ذیل ہیں:-

(1) مضمون خلافِ روایات نہ ہوں۔

(2) مضمون منفی صبر و اخلاق اہل بیت نہ ہوں۔

<sup>1</sup> ”مراثی شاد“، جلد اول، مرتبہ حمید عظیم آبادی، مطبوعہ پشنہ 1371ھ، ص 7۔

(3) طریقہ ادا ایسا نہ ہو کہ مفہوم ہی بدل جائے۔

(4) موثر اور سمجھی ہو۔

(5) زبان فضیح ہو۔

شاد کا خیال ہے کہ بزرگان دین کی شان میں جو نظریں لکھی جاتیں ہیں، بظاہر اس میں کتنا ہی مبالغہ کیوں نہ ہو، ورحقیقت اس بذہب کے معتقد یعنی کی نظر میں مبالغہ نہیں۔ لیکن اس کے درائج سمجھاتے ہوئے شاد کہتے ہیں کہ اگر کوئی واقعہ قلم کیا جا رہا ہو تو چاہیے کہ اصل واقعہ اصل روایات میں کوئی گھٹا ڈھٹا ڈھٹا اپنی طرف سے نہ کرے۔ ہاں ایسی خارجی پاتیں اس میں لانے کا مضافات نہیں، جس سے نفس واقعہ میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ بزرگان دین کے مکالمات کو قلم بند کرتے وقت یا ان کے مکالمات کو اپنی زبان میں پھیلا کر بیان کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اصل مفہوم بدلتے نہ پائے۔ مثلاً شجاعت کا مقام ہے تو ایسی جگہ پسپائی نہ پیدا ہو۔ مثلاً اصل واقعہ میں تو استقلال و صبر و خودداری ہے مگر کسی غرض خاص سے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ استقلال و صبر کی عوض کثرت اضطراب و مخالف صبر باتیں پائی جاتی ہیں۔

واقعہ کر بلا میں صفات آرائی، اظہار و بدبہ و شان امام و رفتائے امام، ان کی متبرک عورتوں، ان کے گھوڑوں، ان کی تلواروں، اور ان کی لڑائیوں کے جہاں تک اوصاف بیان ہوں، دین داروں کی نظر میں صحیح ہیں۔ یہی حال مصائب کا ہے۔ مصائب بدقہ ہر بہت مبالغہ کے ساتھ بہت شدید کھائی دیں، لیکن حق یوں ہے کہ کربلا میں جو مصائب گذرتے ہیں وہ ایسے سخت ترین مصائب تھے کہ ان کے بیان میں کتنا ہی مبالغہ کوئی کرنے لیکن اسے ہرگز مبالغہ نہ سمجھنا چاہیے۔

شاد کے ان خیالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک نئے قسم کا مرثیہ ایجاد کرنا چاہتے تھے۔ اسے فلسفیانہ مرثیہ کہئے یا قطبی مرثیہ۔ ان کے مرثیے ہیئت کے لحاظ سے روایتی ہیں۔ لیکن روایتی راہ سے اخراج کیا ہے۔ انہوں نے اپنے مرثیوں میں نئے نئے مضامین داخل کیے، جس سے معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ ایک مرثیے کے مقدمے میں فلسفہ نفس کو

پتھصیل بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسانی صفات صمدی کا مظہر ہے اور یہی سبب ہے کہ اس کامیلان اعلیٰ طرف ہے۔ فطرتادہ اعلیٰ درجے پر ترقی کے لیے مجبور ہے۔ روح پوچنکہ جسی علاقت میں گرفتار ہے، جب تک ان علاقوں کی کثافت کو دور نہ کرے معرفت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اخلاق کو درست کرے۔ پیغمبر اور نبی اس لیے آئے کہ انسانی اخلاق کی اصلاح کریں۔ انسان کا فرض ہے کہ اپنی روح کی کثافت پاک کرے۔

شاد نے مراثی کی تہبیدوں میں نئے نئے مضامین داخل کیے جو روایتی مرثیوں میں نہیں پائے جاتے۔ یہاں کی ایجاد ہے اور اسی جدت کے پیش نظر بندھے نئے مضامین پر اکتفا نہیں کرنا چاہتے، جن کی تکرار سے طبیعت کو لطف حاصل نہ ہو۔ اسی یکسانی کو دور کرنے کے لیے شاد فلسفہ نفس، فلسفہ مذہب، فلسفہ اخلاق کثرت سے داخل کرتے ہیں اور اس بات کی بھی کوشش کی کہ خوبی اور سلامت ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ یہاں کی ایجاد ہے، جس کی مثال مشکل ہی سے ملے گی۔ اب رہی ان مضامین کو مرثیہ کے قالب میں ڈھالنے کی بات تو اس میں شاد کو مکمل کامیابی نہیں ملی۔ محمد رضا کاظمی کا خیال ہے کہ وہ اپنے مراثی کے تقلیدی حصوں میں زیادہ کامیاب ہیں۔ ۱

شاد نے مرثیے کے قریب قریب کبھی عناصر پر طبع آزمائی کی۔ رخصت اور سراپا دغیرہ کے بیان میں امام حسین اور ان کے اہل حرم کے مراتب کا لحاظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ قوم انس و دبیر کے طرز کے مرثیے پسند کرتی ہے۔ ایک بند میں اس کی وضاحت کی ہے۔

اے قلمِ عام طریقے کے بھی لکھ ایسے بند  
کن کے احباب بہر طور کریں جس کو پسند  
پیروی روٹی خاص کی کوشش تا چند  
کھیچ ششیر دکھا سرعتِ رفتار سمند  
کیا کروں کیا نہ کروں، ول ہیں ناخواں اس کے

اہمی اس قسم میں کثرت سے ہیں خواہاں اس کے

محمد رضا کاظمی کا خیال ہے کہ شاد نے ائمہ پر اعتراض کے ساتھ تصحیح کی جو کوشش

۱۔ ”جدید اردو مرثیہ“، محمد رضا کاظمی، ص ۷۵۔

کی ہے، اس میں بھی بعض مقامات پر ان کو کامیابی ہوئی اور بعض مقامات پر ناکامی۔ علم کے سلسلے میں عون و محمد سے جناب نسبت کی گفتگو مراثی انیں کے مشہور مقامات میں سے ہے۔ اب اسی منظر کو ایک دوسرے رخ سے شاد کے یہاں دیکھئے۔ فرزندِ ان حضرت عباش اپنی والدہ ماجدہ سے مخاطب ہیں۔ مطلع ہے ع

اے طبع خسروان ادب سے خراج لے



اے بیجی وہ آگئے پاپا پے میں ثار      وہ دیکھئے جھکے پے تسلیم چند پار  
راست اٹھا رہے ہیں وہی شکر کرد گار      دل کو قلق ہے آپ جو روئی ہیں بار بار  
اب روکیے خدا کے لیے اضطراب کو  
بایا علم لیے ہیں مبارک جناب کو

شاد نے مناظر صبر و استقلال دکھائے ہیں۔ کمال فتن کا مظاہرہ کیا ہے۔ کلاسیکی مرثیوں کے تقریباً تمام اجزاء ترکیبی پران کے یہاں بندل جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے باقاعدہ انھیں خطوط پر چلنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس بند میں حضرت عباش کا مکالمہ دیکھئے۔ شاد نے الیے کے انسانی گوشوں کی ترجیحی کس طرح کی ہے۔

خیے میں میری لاش جو لائے امام دیں      ہٹ جائیو خدا کے لیے تم الگ کہیں  
بچوں کا بھی قیام مناسب وہاں نہیں      نازک ہیں پچھوں سے بھی زیادہ یہ نازشیں  
کیوں کر سکیں گے اس المد دل خراش کو  
دیکھا نہیں کبھی کسی زخمی کی لاش کو

اور حضرت حبیب این مظاہر کا رجز ملاحظہ ہو۔ طوالت کے خوف سے چند مصرع پیش کیے جاتے ہیں۔

یوں مٹا دوں کہ ملے پھرنہ نشانی تیری  
لے نکل غول سے دیکھوں تو جوانی تیری



مرنے سے خوف جہل ہے اے بنت مرتضی

جتاب نسب کی اپنے صاحبزادوں سے گفتگو دیکھئے۔

نکلے اگر رجز بھی زبان سے تو لا جواب گویا کہ لفظ لفظ فصاحت کی ہو کتاب  
دشمن سے یوں زبان سے نہ کرنا کبھی عتاب دینا زبان تنقیح سے ہر بات کا جواب  
بجھیں طویل ہوں یہ شرافت سے دور ہے

جاہل سے تم کو ردو بدلت کیا ضرور ہے

مختصر یہ کہ شاد نے مرثیہ گوئی میں نئے نئے مضامین داخل کیے اور اس فن کی اصلاح  
کی کوشش کی۔ شاد کے مرثیے اردو مرثیے کے ایک اہم موزع کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ناقدین کی رائے:-

”غرض یہ باتی مثل روز روشن ہے کہ بقول قاضی عبدالودود صاحب شاد نے  
مرثیے میں بھی ایک خاص راہ نکالی۔“

کلیم الدین احمد

”زبان و ادب“ کا شاندبر، فروری، مارچ 1979ء ص 6

”شاد مغربی ادب سے کافی متاثر تھے اور یہ چاہتے تھے کہ  
اپنے مراثی میں وہ رنگ پیدا کر دیں جس کی آزاد اور حالی تبلیغ کر رہے  
تھے۔“

ڈاکٹر حسین فاروقی

”دستان دیر“ ص 222

”ان کے مراثی جہاں فنی اعتبار سے پختہ ہیں وہیں مقصدی  
آب و رنگ میں سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن انفرادیت کی دھمک اور ایجاد  
کے شوق نے اکثر جگہ سلاست اور روانی کو آورد سے بدلت دیا ہے۔“

صفدر حسین

”نگار“، نومبر، 1943ء

”انہوں نے صنف مرشیہ میں ایک حکیمانہ اور عارفانہ رنگ بھرا۔ امتحان گاہ کر بلائی روحانی عظمت عز اداران حسین کے ذہن نشین کرائی اور خانوادہ رسالت کے کردار میں صبر استقامت کی جگہ ان کے منفعانہ شیون و شین کے تذکرے سے جو اخلاقی اعتراضات مرشیہ نگاری پر وارد ہوئے تھے، ان کی تلافسی کروی۔ شاد آگر مصلحانہ روشن اختیار نہ کرتے تو اس صنف میں وہ ارتقائی دور نہ آتا جس نے جوش، آل رضا، شوکت تھانوی اور نھوٹی لال حشی جیسے فن کا رپیدا کیے۔“

**جبیل مظہری**

”زبان و ادب“ کا شاد نمبر، مشمول مضمون ”شاد کی استعاراتی شاعری“  
”اکثر مقامات پر وہ تخلیقی سطح کے مقابلے میں تقیدی سطح پر زیادہ مضبوط لکھنے والے نظر آتے ہیں۔ مرثیے کے بدلتے ہوئے خاکے میں جہاں نئے موضوعات و مضمایں داخل کیے گئے ہیں وہاں عموماً شعری حسن کو برقرار رکھنا آسان نہیں رہا۔“

**ہلال نقوی**

”بیسویں صدی اور جدید مرشیہ“، ص 155

”شہادت اور اظہار مقصد کے مناظر جو شاد کے مقصود اصل تھے، اداگی میں شاد کو کمال کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ جگہ جگہ خطبات و مناجات امامؑ نقل ہوئے ہیں جو اپنی دل پذیری میں ہمارے کلائیکل سرمائے کے دوش بد دوش ہیں۔“

**محمد رضا کاظمی**

”جدید اردو مرشیہ“، ص 81

”شاد کے مراثی میں تاریخ احادیث کے بیان کے ساتھ ساتھ تبلیغی نظریات، پند و نصائح اور قوم کی اصلاح کے مضمایں ملئے

ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ روایت پسند نہیں، بلکہ روایت شناس  
تھے۔ دنیا کے مسائل سے غافل نہیں تھے۔ وہ قوم میں ذہنی بیداری لانا  
چاہتے تھے۔ ان کے کلام میں خبراء اور توازن ہے جو مقصدی اور  
اقادی شاعری کے لیے لازم ہے۔“

سید طاہر حسین کاظمی

”اردو مرثیہ انس کے بعد“، ص 42

حامد علی جوپوری:

یہ بھی شاد کے زمانے کے مرثیہ گو ہیں۔ انہوں نے قرآنی آیات اور احادیث کے  
حوالے سے ساخت کر بلکہ معنویت واضح کی۔ شاد کی طرح مرثیہ کی ساخت پرانی ہے مگر  
ما فوق الفطرت عناصر خارج کر دیے ہیں اور بہاریہ مضمائیں، ساقی نام اور منظر نگاری کی جگہ  
زندگی کے سنجیدہ مسائل مرثیے میں بیان کیے ہیں۔

## (د) دبستانِ عشق

زبان و بیان کی اصلاحی کو ششوں کی بنابر اس دبستان کو انفرادیت حاصل ہوئی۔ ان شعراء نے تغزل اور ساتھی نامہ پر بھی توجہ کی۔ عشق و عشق کے بعد رشید، شدید و غیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ بیسویں صدی میں پیارے صاحب رشید کی مرثیہ گوئی کو اس لحاظ سے کافی اہمیت حاصل ہے۔

پیارے صاحب رشید (1845-1917)

سید مصطفیٰ میرزا نام، پیارے صاحب عرفیت اور رشید خلاص تھا۔ میرزا نس کے صاحزادے اور میرا نس کے نواسے تھے۔ اپنے زمانے کے تین بڑے شعراً نس، عشق اور عشق کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ وہ خود کہتے ہیں  
میں بھی ہوں وارثِ طرزخن میرا نس      ہوں عشق کے سبب ملک مظاہیں کا ریس  
منس خلق ہوں میں میری زباں ہے جو سلیس      ایک ہی باغ کے دو پھول ہیں میں اور نس  
خوب تحقیق سے بچپن میں رہی کد مجھ کو  
ستند ہوں کہ ملی عشق کی سند مجھ کو  
عشق کی طرح رشید نے بھی غزلیں اور مرثیے دونوں کہے۔ غزلوں میں جب بختہ  
ہو چکے تب مرثیہ گوئی شروع کی۔ اسی وجہ سے ان کے مراٹی میں ان کے تغزل کا رنگ رج گیا۔  
رشید نے جب مرثیہ گوئی شروع کی تو انس، دیبر، منس اور انس کا زمانہ گذر چکا

تھا۔ تعشق، نشیں اور وحید بھی تخلی کی بہت سی راہوں کو طے کر چکے تھے۔ مرشیدہ میں کوئی پہلو تو شنے شرہ اور نہتر قی کے کوئی امکانات ہی باقی رہے۔ بقول مجتبی حسین:

”انیں کے بعد مرثیے میں اضافہ کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ اسے  
ترقی دینا اور آگے بڑھانا تو بڑی بات تھی۔ اس کے لوازم اور اس کے  
معیار کو قائم رکھنا ہی کچھ ہل کام نہ تھا۔“<sup>1</sup>

سفارش حسین رضوی نے اسی بات کو اس طرح بیان کیا ہے۔

”جس طرح چھوٹے بچے لکڑی کے کچھ بلکڑوں کو نبردار

ترتیب دے کر کھلو نے کامکان بنالیتے ہیں، مرشیدہ کوئی بھی اسی طرح  
چند مقررہ چیزوں کو معینہ طریقے پر ترتیب دینے کا نام ہو گیا۔ مرشیدہ کوئی  
میں کوئی تنواع نہ تھا، رشید نے مرشیدہ کوئی میں تنواع پیدا کیا۔ مرشیدہ کے  
کچھ گوشوں، خاص کر بہار اور ساقی نامے کو، جن سے طبیعت کو مناسبت  
تھی، اپنی طبیعت کی جولاس گاہ بنایا اور گل بوئے کھلانے جو ہمیشہ  
تروتازہ رہیں گے۔“<sup>2</sup>

رشید کی طبیعت غزل پر بہت مائل تھی۔ وہ مرثیے میں غزل کے امتحان سے کوئی  
رنگ پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن اس فن میں تعشق پہلے ہی بڑے کمال دکھا چکے تھے۔ انہوں نے  
اپنے زمانے کے ادبی مذاق کو دیکھتے ہوئے مرثیے کے حدود پر نظر ڈالی۔ انھیں بہار اور ساقی  
نامہ دوائی کی چیزیں ملیں، جن میں انفرادیت حاصل کرنے کے امکانات تھے۔ ساقی نامے کی  
ابتداء اگرچہ میر انیں کے عہد ہی میں ہو چکی تھی لیکن بالکل ابتدائی حالت پر تھا۔ بہار کی صورت  
البتہ انیں، مؤنس، نشیں، ماہر کے ہاتھوں قریب قریب مکمل ہو چکی تھی۔ رشید نے اس صنف پر  
بہت کچھ کیا۔ لیکن جدت و انفرادیت کے شوق نے بہار کو منظرِ نگاری سے بنا کر گل و بلبل کے  
رازو نیاز میں الجھادیا، جس کی وجہ سے بہار کی صورت ایسی ہو گئی جو مرثیے کے سوز و گداز سے

<sup>1</sup> مضمون ”خاندان انیں کے چند نامور شعرا“، مجتبی حسین، مشمولہ ”ارشاد“، کراچی، جون 1962ء، ص 17۔

<sup>2</sup> ”اردو مرشیدہ“: سفارش حسین، مطبوعہ 1965ء، ص 382۔

میں نہیں کھاتی۔

پچھے عجیب صورتیں غصوں کی ہیں بھولی بھائی      جو فیر آگیا بھر لی زرگل سے جھوٹی  
منع بلبل نے کیا چیز کسی نے جو لی      بوی زگس تجھے کیا بحث ہے تو کیوں بوی  
بات جاتی رہے یہ حسن بیان کھل جائے  
کہیں ایسا نہ ہو سون کی زبان کھل جائے

اس کے برخلاف رشید کے کلام میں بھاری صحیح کے اعلیٰ ترین مناظر بھی موجود ہیں۔  
وہ سماں صحیح کا اور جانوروں کا وہ غل      پھول جو کھل رہے ہیں نغمہ سرا ہے بلبل  
جب ہوا آئی جھٹکنے لگا زفیں سنبل      ٹھنڈی ٹھنڈی وہ نیم اوس میں ڈوبے ہوئے گل  
وہ ہوا دشت میں آئی کہ چمن پھول گئے

پیاس دو روز کی سب غنچہ دہن بھول گئے  
ایسی مستانہ روشن باد بھاری آئی      الجھے پھولوں میں قدم بزرے میں ٹھوکر کھائی  
آنکھ زگس کی کھلی باغ میں آہٹ پائی      شاخیں جھوٹیں کہ ہر اک خل نے لی انگڑائی  
بلبل اس درجہ ہوئی شاد کہ چلانے لگی  
سبزہ لہرانے لگا نہر میں موج آنے لگی

ایک منظر اور دیکھئے۔

پھول کھلنے لگے بلبل کی صدا آنے لگی      کہ نظر باغ کی صحراء میں فضا آنے لگی۔  
غنچے گل ہونے لگے باد صبا آنے لگی      ٹھنڈی ٹھنڈی لپ دریا کی ہوا آنے لگی  
پچھے ہر مرتبہ آقا کی طرف مڑنے لگے  
زفیں ہلنے لگیں دامانِ قبا اڑنے لگے

رشید کو بھار اور ساتی نامے کا موجود کہا جاتا ہے۔ ایسیں کے بعد شاید ہی کوئی ایسا  
مرشیہ نگار گذر اہو، جس کا کوئی مخصوص رنگ ہو۔ لیکن رشید کا نام آتے ہی ساتی نامہ کا اضافہ  
نظر وہ میں گھوم جاتا ہے۔ نصیر حسین خیال، حامد حسن قادری، طاہر فاروقی، مرزا رضا حسین  
اور بعض دوسرے لکھنے والوں کی رائے یہی ہے کہ مرثیوں میں ساتی نامہ کا اضافہ رشید نے بھی

کیا۔ ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ مرزا دبیر نے اپنے ایک شاگرد مشیر لکھنؤی کو مشورہ دیا کہ وہ خالقین ائمہ رسول گی جھوکھا کریں اور ایسی تخلیق کا نام مرشیہ کے وزن پر ہر سیہ رکھ لیں۔ بقول معین الدین مضمون، ساتی نامہ اس ہر سیہ کی زینت بنا تھا۔ بعد میں مرشیہ گوشراۓ نے بھی اسے گوارہ کر لیا۔ ساتی نامہ میں روئے خن ساقی کوثر کی جانب ہوتا ہے۔ مشیر لکھنؤی کا ایک بزرگ بہت مشہور ہے۔

تو اپنے ایک جام پر نازار ہے ساقیا  
چودہ پلانے والے ہیں پروادا ہے مجھ کو کیا  
بتلائے دیتا ہوں تجھے مے خانوں کا پتہ بطيحا و کاظمین و خراسان و سامرا  
خوشید مدعا مرا برج شرف میں ہے  
اک کربلا میں اک مراساتی نجف میں ہے

انیں نقیس کے یہاں بھی ساقی نامے کے اشارے موجود ہیں۔ لیکن ان تمام تحقیقی صداقتوں کے باوجود یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ رشید وہ پہلے مرشیہ گوشاعر ہیں، جنہوں نے اتنی شدت اور کثرت سے ساقی نامے لکھے کہ اب وہ انھیں کے نام سے مشہور ہو کر رہ گئے ہیں۔ آغا شہر اپنی کتاب ”حضرت رشید“ میں لکھتے ہیں:-

”انھوں نے مرشیے کے مقررہ مضامین میں سے ایک گوشہ  
نکالا اور وہاں غزل کے چلپے مضامین اس خوبصورتی سے صرف کیے کہ  
مرشیے کا ایک نیا جز ہو گیا۔“ ۱

رشید کو بہار اور ساتی نامے سے اتنا شوق تھا کہ ان کا شاید ہی کوئی مرشیہ ایسا ہو، جس میں بہار اور ساتی نامہ نہ ہو۔ ان مضامین کو مرشیے کے ہر حصے میں پروار یعنی میں انھیں قدرت حاصل تھی۔ بقول آغا شہر، جہاں چاہتے تھے بے تکلف ساتی کو پکار لیتے تھے، جہاں چاہتے تھے چن آرائی کرنے لگتے تھے اور کچھ ایسے اسلوب سے کہ سننے والے یا کیا یک تحریر ہو کر بلند آواز میں داد دینے لگتے تھے۔ جناب عباش کے نہر پر جانے کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں اور سامع کو یہ گمان بھی نہیں گذرتا کہ ساتی نامہ شروع ہونے والا ہے۔ یا کیا رشید یہ

۱ ”حضرت رشید“، آغا شہر، مطبع تھوڑی نولہ، لکھنؤ، 1922، ص 101۔

مصرع پڑھتے ہیں ع

نہر پر جائیں گے ہم تھوڑا سا پانی لیں گے

اور پھر ساتی نامہ شروع ہوتا ہے۔

ساقیا نہر پر سقائے حرم جاتا ہے      کچھ برا رنگ زمانے کا نظر آتا ہے  
 ہو گئی فکر سوا نشہ جو کم پاتا ہے      جند دے جام یہ مے کش ترا چلاتا ہے  
 نشہ ہو صاف تو اعدا کی صفائی لکھوں  
 خوب لڑ جائے طبیعت تو لڑائی لکھوں

اس طرح کے مضامین رزم کے وحشت ناک ماحول میں بھی پیش کیے گئے ہیں۔ رزم کی ہولناکی اور بتاہ کاری اس طرح کے مضامین کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ تلوار اور گھوڑے کی تعریف میں بھی غزل کے مضامین پیش کیے گئے ہیں۔ گھوڑے بھی حسین پیکر اختیار کر لیتے ہیں۔

رشید کے مراثی کا یہ انداز دیکھ کر یہ خیال گزرتا ہے کہ انہوں نے مراثی کی ضروریات کو نظر انداز کر دیا اور رنخ و غم، شجاعت و بہادری، ایثار و قربانی وغیرہ کے جذبات برائیگینیت کرنے کے بجائے خوش کن مضامین کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور مرثیہ نگاری کی روح سے الگ ہو گئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ رشید نے حریت و مردالگی کے جذبات پیش کرنے کے بجائے شادمانی کی فضایپیدا کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہر شاعر سماجی تقاضوں سے مجبور ہوتا ہے۔ رشید نے بھی اپنے سامعین کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے بہار کے مضامین پیش کیے اور مرثیے میں نوع پیدا کیا اور اس بات کا خیال رکھا کہ سامعین کا ذہن معرکہ کر بلاء سے ہم آہنگ رہے۔ انہوں نے بہار کے بیان میں اپنی مذہبی عقیدت کو بھی نمایاں کرنے کی کوشش کی۔ ان کا تصور بہار بہشت کا تصور پیش کرتا ہے، جو شہادت کے بعد ہر شہید کا مقدر ہے۔

مرثیوں کی جذبات نگاری میں رنخ و غم کے جذبات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ان کے مراثی میں جذبات کی شدت ہے اور انداز بیان کا خلوص بھی۔ ان کے مراثی

میں جذبات کی شدت برابر ابھرتی ہے۔ نیز رشید نے ایک ہی آدمی کے مختلف موقعوں پر الگ الگ جذبات بھی پیان کیے ہیں۔ جوانوں اور بڑھوں کے علاوہ بچوں کے جذبات بھی سن و سال کے لحاظ سے پیش کیے ہیں۔ بچوں کی نفیات سے بھی گھری واقفیت رکھتے ہیں۔

امام حسین میدان قتال سے عباش علمدار کے مشک و علم کو واپس لاتے ہیں تو اہل حرم میں صفات بچھ جاتی ہے لیکن کیونکہ خوش ہیں کہ ان کے چچا واپس آگئے پانی چلو میں لیا تو ہوا دل رنجور کہا اپنے سے کہ پیاس سے ہیں شہنشاہ غیور سمجھو عباش کہ یہ بات وفا سے ہے دور تھوڑے عرصے میں نتم ہو گئے نہ گری کا وفور ایک قطرہ بھی جو پی لو گے تو شرم آئے گی پیاس بچھ جائے گی جب روح نکل جائے گی

رشید نے امام حسین کی صلح پسندی اور دوراندیشی کو نداش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی حقانیت مسلم الثبوت بنانے کے لیے امام حسین جدوجہد کرتے ہیں اور اس کے لیے انھیں اپنے ششماہی علی اصغر سے بہت مدد ملتی ہے۔ وہ اسے فوج بیزیدی کے سامنے پیش کر کے ان کی بدکاری کا اعتراف انھیں کی زبان میں کرادیتے ہیں۔

نکلے خیمے سے عجب یاں سے سلطان ام دشت میں ایک بلندی پر کیا آکے قیام لے کے ہاتھوں میں بڑھلیا طرف لشکر شام کھول کر منہ علی اصغر کا کیا شہ نے کلام ان کا سن دیکھ لیں اور سوکھے ہوئے لب دیکھیں

تم میں جو صاحب اولاد ہو وہ سب دیکھیں

رو دیئے بعض پیشیاں ہوئے بعضے بے پیر حرملہ سے پرسعد نے کی یہ تقریر کر قطع کلام شیر اس ستم گرنے بڑا ظلم کیا ، مارا تیر

باغ جنت میں دل فاطمہ بے تیر چھدا

حلق اصغر کا چھدا بازوئے شیر چھدا

بملہ عناصر کے تحت طبع آزمائی کی لیکن ان کی انفرادیت بہاریہ مضامین

میں ہی نظر آتی ہے۔

### جدید مرثیے پر علامہ اقبال کے اثرات

علامہ اقبال مرثیے کے شاعر تو نہیں لیکن مرثیے پر ان کے اثرات بہت گھرے ہیں۔ جو کتابیں یا مضمایں لکھے گئے ان میں اقبال کا ذکر نہیں ملتا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اقبال مرثیے کے باقاعدہ شاعر نہیں تھے۔ اگر اقبال باقاعدہ مرثیہ لکھتے تو بلاشبہ وہ بیسوی صدی کے سب سے بڑے مرثیہ گو ہوتے۔ اقبال کی شاعری کی بنیاد اسلامی افکار پر ہے اور واقعہ کر بلا اسلامی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اقبال ترددید بالطل اور حق کی حمایت میں سرفروشی کو تعلیمات اسلامی کی روح قرار دیتے ہیں۔ بقول ہلال نقوی، ”بہی نکتہ انہوں نے حسین سے سمجھا اور سیکھا۔ ان کے نزد یک قرآن انسان سے وفاداری کا جو مطالبہ کرتا ہے وہ خدا کے لیے ہے، تخت و تاج کے لیے نہیں۔ ان کے اس نظریے کے پس منظر میں حسین ابن علی کے کردار کی وقت نظر آتی ہے۔“<sup>1</sup>

قالہ جاز میں ایک حسین بھی نہیں  
گرچہ ہیں تاب دارا بھی گیسود جلد و فرات  
پروفیسر گوپی چند نارنگ اپنے ایک مضمون ”سانجھ کر بلا بطور شعری استعارہ“ میں  
تحریر فرماتے ہیں۔

”واقع کر بلا اور شہادت حسین کی نئی معنویت کی طرف سب سے پہلے اقبال کی نظر گئی..... حسین کے کردار میں انھیں عشق کا تصور نظر آتا ہے، جوان کی شاعری کا مرکزی نقطہ تھا اور اس میں انھیں حریت کا وہ شعلہ بھی ملتا ہے، جس کی تب و تاب سے وہ ملت کی شیرازہ بندی کرنا چاہتے تھے اور نئے نئے آبادیاتی تناظر میں ہم وطنوں کو جس کی

یاد دلانا چاہتے ہیں۔“<sup>2</sup>

1 ”بیسویں صدی اور جدید مرثیہ“، ہلال نقوی، مطبوعہ کراچی، 1994، ص 174۔

2 ”شب خون“ شمارہ 146

ان کے یہاں حسین، شیری، مقام شیری، اسوہ شیری نئی معنویت کے ساتھ آتے ہیں ان اشعار کو دیکھتے۔

حقیقتِ ابدی ہے مقام شیری  
بدلے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی



غریب سادہ و رنگیں ہے داستانِ حرم  
نہایتِ اس کی حسین ابتدا ہے آمیل



صدقِ طبل بھی ہے عشق، صبرِ حسین بھی ہے عشق  
معمرکہ وجود میں، بدر و حنین بھی ہے عشق

اقبال کے اس تخلیقی رویے کا اثر بعد میں آنے والے شاعروں پر رفتہ رفتہ مرتب ہوا۔ اسی کے ساتھ صنفِ مسدس سے جس طرح اقبال اور ان کے بعد جوش متاثر ہوئے اس کی مثال دوسرے شعراء کے یہاں کم ملے گی۔

اقبال کی اعتبار سے انہیں سے متاثر ہیں۔ بقول سلیم احمد۔ ”شکوہ اور جواب شکوہ پر مرثیہ کا اثر واضح طور پر موجود ہے۔ مرثیہ نہ ہوتا تو اقبال کو مسدس کے استعمال میں شاید اتنی زیادہ کامیابی نہ ہوتی۔“ اقبال کی بعض نظموں کے مصرعوں اور شعروں میں مرثیے میں آنے والے شعروں کی گونج اور جھکار سنائی دیتی ہے۔ لیکن انہوں نے جدید مرثیے کو شدت سے متاثر کیا۔ ”شکوہ“، ”جواب شکوہ“ میں جو لمحہ ہے، اس سے بہت سے مرثیہ گوش شراء متاثر ہوئے۔ ان کے اسلامی افکار میں اسوہ حسین کی جوانقلابی اور فکری طاقت کا فرماء ہے وہ جدید مرثیے میں نئے اسلوب اور نئے جذبے کے ساتھ نمودار ہوئی۔ غلامی کی گھنٹن اور آزادی کی جدو جہد نے کر بلاؤ ایک نیا سیاسی تناظر دیا۔ اقبال کی سعی پیغم، عشقِ حقیقی اور قربانی جیسی اعلیٰ قدرتوں سے خاص لگاؤ رہا۔ انہوں نے ان تمام قدرتوں کو امام حسین کی شخصیت میں پایا۔ فقر، یقین اور عشق اقبال کی شاعری کی بڑی طاقتیں ہیں۔ اقبال نے اپنے فلسفے کی وضاحت کے

لیے حضرت علی کا انتخاب اس لیے کیا کہ ان میں علم، عشق اور عمل تینوں خوبیاں جمع ہو گئی تھیں۔ انھیں امام حسین کی شخصیت میں انقلابی روح نظر آتی تھی اور انھوں نے شہادت امام حسین کی معنویت کی طرف اشارے نظموں کے دائرے میں رکر کیے، جس سے بعد کے مرشیدہ نگار متاثر ہوئے۔

چہار تک ہیئت کا سوال ہے اقبال کی اکثر نظمیں مسدس کی ہیئت میں ہیں۔ جوش کے پہلے جموجھے "روح ادب" کی پہلی نظم بھی مسدس ہی کی ہیئت میں تھی۔ پروفیسر مجتبی حسین نے لکھا ہے۔ "مسدس کی ہیئت کو میرانیس نے بالکل نئی زندگی دے دی تھی۔ حالی نے اس سے براہ راست استفادہ کیا اور جب اقبال کا دور آیا تو انھوں نے بھی فیضان انیس کے زیر اثر اپنی بعض بہترین نظمیں مسدس ہی میں لکھیں۔"<sup>1</sup>

"شكوه" و "جواب شکوه" اس کی بہترین مثالیں ہیں جس پر اسلوب انیس اور مرشیے کی بیانیہ روانی دیکھی جاسکتی ہے۔ میوسیں صدی میں نئی طرز کی جو مرشیہ گوئی شروع ہوئی اس پر بھی اس کے اثرات گھرے پڑے۔ اقبال کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا محمد علی چوہر نے بھی کربلا اور حسین سے متعلق نیا انقلابی شعور دیا۔ جو ہر کے سیاسی اشارے قفس، گلچیں، بیزید، مجنون، فرہاد اور حسین ابن علی بھی اسی انداز سے نئے حالات کے لیے استعمال ہوئے۔ چند اشعار جو بہت مشہور ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔

دو ریحیات آئے گا قاتل قضا کے بعد  
ہے ابتدا ہماری تری انتہا کے بعد



قتلِ حسینِ اصل میں مرگِ بیزید ہے  
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد  
یہ شعر عزاً سیہ شاعری میں بہت مقبول ہوا۔ امام حسین کے ذکر کو جو ہر کی انقلابی شاعری میں  
ایک استعارے کی جگہ ملی ہے۔

<sup>1</sup> مضمون "صنف مسدس پر انیس کے اثرات"، مجتبی حسین، رسالہ سراج، سراج الدوّلہ کالج، ص 13۔

بیسویں صدی کے ربع اول میں اور شاد نے مرثیے کو ایک نیا موز دینے کی کوشش کی، لیکن اقبال اور محمد علی جوہر نے انقلابی اور فکری احساس کو زیادہ منتشر کیا۔ اسی زمانے میں آزاد واقعہ کر بلا کی تشریح کر رہے تھے۔ انھیں تمام اثرات نے جدید مرثیہ نگاری کو ایک نیا شعور دیا۔

بیسویں صدی کے ربع اول میں بحیثیت مرثیہ نگار متعارف ہونے والوں میں دلورام بائزی، جوش اور سیم قابل ذکر ہیں۔ اسی دور میں عزیر لکھنؤی کا بھی ایک مرثیہ قابل ذکر ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب صفائی لکھنؤی اور بجم آنندی اپنی مذہبی اور اصلاحی شاعری کے ذریعہ شعر و ادب کے مزاج کو بدل چکے تھے اور تو یہ جذبے سے لوگوں کے دلوں کو سرشار کر رہے تھے۔ بقول احتشام حسین۔ ”میرا خیال ہے کہ شعوری طور پر صفائی ہی پہلے لکھنؤی شاعر ہیں جنھوں نے جدید ادبی تحریکات کو صرف سمجھا ہی نہیں بلکہ ان کا خیر مقدم بھی کیا۔“<sup>1</sup>

### دلورام کوثری

اسم شریف دلورام اور کوثری تخلص تھا۔ سالار جنگ میوزیم میں کوثری کی جو تصانیف ہیں ان کی فہرست یہ ہے:-

(1) ”آب کوثر“: 64 صفحات پر مشتمل کتاب میں محمد اہل محمد کی تعریفیں ہیں۔ پھر اس کے بعد مناقب ہیں۔ ”نویں جام“ میں اپنے رشتہ داروں کی ہدایت کے لیے دعا ہے۔ ان اشعار میں بقول اکبر حیدری کاشمیری، میر حسن کارنگ اختیار کیا گیا ہے۔<sup>2</sup>

(2) ”بشارت انجلی“

(3) ”اعجاز جعفری“

(4) ”قرآن اور حسین“

غزلوں اور نغمت کے علاوہ ان کا ایک مرثیہ ”قرآن اور حسین“ مشہور ہے۔ سـ نـ تـصـنـیـفـ کـےـ بـارـےـ مـیـںـ کـسـیـ اـیـکـ سـالـ پـرـ انـگـلـیـ نـہـیـںـ رـکـھـیـ جـاـسـکـتـیـ۔ ڈـاـکـٹـرـ صـدـرـ حـسـینـ کـےـ مـطـابـقـ

1. دیوان صفائی (صحیفۃ الغزل)، احتشام حسین، سرفراز تو یہ پریس لکھنؤی 1953ء، ص 21۔

2. ”اعلم“، مرثیہ دسلام نمبر، جون 1993ء، اکبر حیدری کاشمیری، ترتیب: علی جواد زیدی، ص 149

انھوں نے یہ مرثیہ 1918 سے قبل تحریر کیا تھا۔ ۱۔ امیر علی جونپوری کے مطابق انھوں نے یہ مرثیہ 1928 میں موچی دروازے کی مجلس میں خود پڑھا گئے۔ ہلال نقوی نے اس کا سن تصنیف 1912 اور 1915 کے درمیان بتایا ہے۔ ۲۔ دلوارام کوثری کے چار چانچ مرثیوں کا ذکر ملتا ہے۔

”قرآن اور حسین“ مرثیے کے مردجہ ڈھانچے سے ہٹ کر لکھا گیا ہے۔ روایت مرثیوں کی طرح اس میں سرپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ وغیرہ کے اجزاء نہیں ہیں۔ یہ بات حیرت کی ہے کہ ہلال نقوی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پہلا موضوع عاتی مرثیہ دلوارام کوثری نے لکھا جو جوش کے ”آوازہ حق“ اور نیم کے ”گل خوش رنگ“ سے ان معنوں میں مختلف ہے کہ اس میں موضوع کا تسلسل ہے اور پورا مرثیہ قرآن اور حسین کے مطالعہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اکثر ناقدین جدید مرثیہ لکھنے کا سہرا جوش کے سرباند ہتھے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ کوثری کی جدت فکر، اونج، شاد، جوش، نیم کی جدتوں سے ایک مختلف جدت ہے۔ اس جدت کا تعلق توی مسائل، مقصد شہادت اور انقلاب سے نہیں بلکہ اس مرثیہ میں جو نیا پن ہے وہ ایک خاص موضوع کا تجزیاتی اور تقابلی مطالعہ ہے، جس کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی چلی گئی ہیں۔ کوثری کے مرثیہ سے تمہید کے کچھ بند، جن میں قرآن اور حسین کے باہمی تعلق اور وقار کا ذکر کیا گیا ہے بیان میں روانی اور بر جستگی ہے، ملاحظہ ہوں:

قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں      دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں  
کیا وصف ان کا ہو کہ ہے لکنت زبان میں      یہم ندا یہ غیب سے آتی ہے کان میں  
قرآن کلام پاک ہے شبیر نور ہے  
دونوں جہاں میں دونوں کا یکساں ظہور ہے

۱۔ مراسلہ نام ہلال نقوی۔

۲۔ ”مرثیہ نگاران اردو“، امیر علی بیگ جونپوری، سرفراز نقوی پرنس لکھنؤ، اگست 1985ء، ص 412۔

۳۔ ”بیسویں صدی اور جدید مرثیہ“، مرتبہ: ہلال نقوی، ص 94۔

باری ہے ایک، ایک ہدایت کی ہے کتاب شافع ہے ایک، ایک شفاعت کی ہے کتاب  
اک ہے امام، ایک نبوت کی ہے کتاب حضرت کا یقین واس، وہ حضرت کی ہے کتاب  
ان دونوں پر تمام فضائل تمام ہیں  
دونوں یہ گوشہ گاہ رسول امام ہیں

قرآن اگر حسین کو کہیے تو ہے بجا اصغر دل حسین ہے یہیں کبria  
یوسف کا سورہ ہے علی اکبر سامہ لقا سقائے آل سورہ کوثر ہے واہ وا  
الکھف گر جبیب امام غیور ہے  
حر دلیر سورہ توبہ ضرور ہے

امام حسین کی قرآن پر برتری ثابت کرنے کے لیے کوثری نے چند نکات بیان کیے ہیں۔  
ہیں ایسے ایسے اور بھی مضمون ہزارہا کر سکتی ہے بیان جنہیں فکر خوش رسا  
لیکن تمام سے یہی آخر ہے مدعا افضل کتاب حق سے ہے سلطان کربلا  
حرمت کلام حق کی شدیدیں کے ساتھ ہے  
قرآن اور حسین کا ہر وقت ساتھ ہے

اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے احادیث اور روایات کا سہارا لیا ہے۔ مرشیہ  
کے مطالعہ سے اہلبیت اور اسلامی اصول کے بہت سے گوشے قاری کے سامنے آتے ہیں۔  
سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ابتداء سے انتہا تک موضوع سے الگ نہیں ہوئے  
ہیں۔ گریز کی منزل ملاحظہ ہو۔

قرآن میں گر ہیں زیر وزیر پیش جا بجا تھے بے شمار زخم تن شاہ کربلا  
لفظوں سے گر ہے مصحف داور بھرا ہوا روشن ہیں داغ ہائے دلی شاہ کربلا  
شہ بے وطن ہیں درہم و برہم کلام ہے  
دونوں کا حال غم سے پریشان مدام ہے

جو شیخ آبادی نے ”ذا کر سے خطاب“ اور ”سو گوار ان حسین سے خطاب“ لکھ کر  
نے طرز کی مرشیہ نگاری کی داغ بیل ڈال دی تھی۔ ان کے پہلے مجموعے ”شعلہ و شبتم“ 1936  
میں ایک مرشیہ ”آوازہ حق“ بھی شامل ہے۔ جوش کی مرشیہ نگاری پر تبصرہ آئندہ باب میں کیا

جائے گا۔ ”آوازِ حق“، چونکہ 1936 سے پہلے لکھا گیا ہے، اس لیے یہاں اتنا کہنا کافی ہوگا کہ یہ مرثیہ جوش کا واحد مرثیہ ہے، جس میں کلاسیکی مرثیوں کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ۲۹ بندوں پر مشتمل چہرہ، ذکرِ حسین، فوجِ یزید کے رو بروامام کی تقریر، تلوار کی تعریف ہاتھ کی آواز، بحدہ شبیر، اور قوم کو پیرویِ حسین کا درس وغیرہ شامل ہیں۔ کسی بھی صرفِ خن کی ابتداء، ارتقاء، اس کا درجہ کمال پر پہنچنا اور زوال، اس ملک کی زمین، زبان اور زمانے پر منحصر ہے۔ اردو مرثیے کی ابتداء سے مسکین، سکندر، سودا اور میر تک اور احسان، افرادہ اور گدا فضیح، دلگیر، خلیق اور ضمیر تک اور ضمیر سے انہیں تک درجہ کمال تک پہنچ گیا۔ انہیں دیر (55-75) کے آخری زمانے ہی میں ہندوستان معاشری، ثقافتی، تہذیبی اور مجلسی تبدیلیوں کا شکار ہو چکا تھا اور انہیں کے بعد اردو مرثیے کو انہیں جیسی مہارت کا شاعر بھی نہیں ملا۔ شادِ عظیم آبادی (1846-1937) کو زمانے کی اس تبدیلی کا احساس تھا۔ انہوں نے اردو و مرثیہ کو ایک نئی شکل دینے کے لیے باقاعدہ نئے اصول مرتب کیے اور مبالغہ کی شدت، لا حاصل میں، تصوراتی و اquatats، اہانت آمیز کردار نگاری کی جگہ شہادت کا مقصد، واقعہ کر بلکی عظمت، فلسفہ مذہب، فلسفہ نفس، فلسفہ صبر و اخلاق سے متعلق مضامین مرثیے میں داخل کیے۔ یہ بات دیگر ہے کہ شاد کے کچھ اصول ایسے بھی تھے، جن سے شعریت کو نقصان پہنچا اور مرثیہ کمکل اور موثر نہ ہو سکا جتنا انہیں کے دور تک تھا۔ شادِ عظیم آبادی کے دور سے اب تک اردو مرثیہ نئے امکانات کی تلاش میں ہے۔ شاد، ہی کی زمین عظیم آباد کے مرثیہ گو بہار حسین آبادی ہیں۔

### سید محمد ہاشم بہار حسین آبادی (1864-1929)

بہار حسین آبادی اب تک گنای کے دھنڈکلوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ ان پر پہلا تحقیقی کام پروفیسر رذیشان فاطمی نے کیا، جس کے ذریعہ اردو دنیا اس بالکمال شاعر سے پوری طرح متعارف ہوئی۔ جابر حسین صاحب نے بہار حسین آبادی کے کلام کو شائع کیا۔ ان کے سات مراثی کو جابر حسین صاحب نے الگ الگ مقدمے کے ساتھ شائع کیا۔ یہ مراثی بہار

فاؤنڈیشن، عظیم آباد، پٹنس، سے شائع ہوئے۔ تفصیلات حسب ذیل ہیں:-

کتاب	سال تخلیق	تاریخ اشاعت
1- ذہن رسا	1920	10 مئی 1996
2- نموذجِ خن	1920	11 مئی 1996
3- کیمیاۓ خن	1920	12 مئی 1996
4- خاصانِ خدا	1923	13 مئی 1996
5- گنج شہیداں	1923	14 مئی 1996
6- سرمایہ تحسین	1924	15 مئی 1996
7- قصرِ جناں	1926	16 مئی 1996
8- رباعیات	(رباعیوں کا مجموعی)	25 مئی 1996
9- نالہ شبگیر	(طویل فارسی مشنوی)	10 اکتوبر 1996

مذکورہ بالا نو کتابوں میں شروع کی سات کتابیں مراثی کا مجموعہ ہیں۔ ان مراثی پر سب سے پہلے ماہنامہ ”شبِ خون“ ال آباد، شمارہ 206، مئی 97 میں سید ارشاد حیدر کے تبصرے شائع ہوئے۔ لیہ دستیاب مراثی 619 بندوں پر مشتمل ہیں، جن کے اشعار کی مجموعی تعداد 2157 ہوتی ہے۔ ان موضوعاتی مراثی کا سن تصنیف 1920 سے 1926 کے درمیان ہے۔ دولام کوثری کے مرثیے ”حسین اور قرآن“ (1915) کے بعد بہار حسین آبادی کے یہ مرثیے موضوعاتی مراثی کے باب میں اضافہ ہیں۔ نیم امر وہی کا پہلا مرثیہ ”گل خوش رنگ“ (1923) اور عزیز کا پہلا مرثیہ ”درس وفا“ (1924) میں تصنیف کیا گیا تھا۔ پہلی نقوی کا خیال ہے کہ ”موضوعاتی مرثیوں کے فروغ واستحکام میں پہلا نام جوش کا ہے۔“ یہ بات حیرت کی ہے کہ جوش نے اپنا پہلا ”مرثیہ آوازِ حق“ 1920 کے آخر یا 1921 میں اور دوسرا مرثیہ ”حسین اور انقلاب“ 1941 میں تصنیف کیا اور 1941 سے پہلے موضوعاتی مراثی کثیر تعداد میں تصنیف کیے جا چکے تھے۔ 1930 میں جمیل مظہری نے بھی موضوعاتی مراثی میں

1۔ ”شبِ خون“، شمارہ 206، مئی، 97۔

قابل قدر اضافہ کیا۔ ہلال نقوی نے بہار حسین آبادی کا ذکر بھی نہیں کیا، جب کہ ان کی تحقیق "بیسویں صدی اور جدید مرثیہ" ہزار صخوں پر مشتمل ہے۔ حیرت ہے کہ ان تجرباتی مرثیوں پر کسی ناقد کی نظر تک نہیں پڑی۔ جابر حسین نے 75 سال قبل تصنیف کیے گئے ان مرثیوں کا الگ الگ پیش لفظ لکھ کر شائع کرایا۔

ان مراثی کی تمہید میں زور بیان کی نمائش کے لیے نہیں لکھی گئی ہیں، بلکہ تمہید کا استعمال دانشورانہ نکات کے بیان کے لیے کیا گیا ہے۔

**ذہن رسما:** بہار حسین آبادی کے مرثیوں میں پہلا مرثیہ ہے۔ یہ مرثیہ 160 بندوں پر مشتمل ہے۔ ان کے دیگر مراثی محض اسی پچاہی بندوں پر ہی مشتمل ہیں، سوا آخری مرثیے کے جو 157 بندوں پر مشتمل ہے۔ "ذہن رسما" میں فلسفہ زندگی، فلسفہ صبر و اخلاق، ثقافت اور معاشرت وغیرہ سے متعلق موضوعات شامل کیے گئے ہیں۔ شہادت کے تین اور یعنی کا صرف ایک بند ہے اور ان میں شدت بھی کم ہے۔ لیکن خاصانِ خدا کے اعلیٰ کرواروں پر زیادہ زور ہے۔ پورا واقعہ کر بلا آخر کے 45 بندوں پر مختصر اسمیت دیا گیا ہے۔ اس میں زمین کر بلا پر امام حسین کی آمد سے لے کر شہادت تک کا بیان ہے۔ ان پاتلوں سے ظاہر کہ مرثیہ شاد عظیم آبادی کے بنائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں کہا گیا ہے۔ کہیں کہیں رعایت لفظی کا اچھا نمونہ بھی متاتا ہے۔

فرمایا ذرا ذکر خدا کرنے دے ناری  
ہے وقت قضا فرش ادا کرنے دے ناری



گاہک وئی کیوں کسر بازار ہواں کا  
سر نیچ لے اپنا تو خریدار ہواں کا  
☆

راحت جو ملی رنج کے پہلو نکل آئے  
آئی جو بھی آنکھ سے آنسو نکل آئے

غالباً بہار حسین آبادی اس راز سے واقف تھے کہ مسدس کا تیر امضرع پر زور ہونا چاہیے۔ ان

کے مدرس میں تیرا مصرع غیر متوقع ہوتا ضرور ہے لیکن اس میں وہ قوت نہیں ہوتی جوانیں  
کے مرثیوں کا امتیاز ہے۔

اس مرثیے کا پہلا بند ملاحظہ ہو۔

اے طبع ضعیف آل کی الفت میں جواں ہو	اے ضعف بصر سرمہ پشمائنِ جہاں ہو
اے کاہشِ اندام ترقی کا نشاں ہو	اے قوتِ اسلام رگ و پے سے عیاں ہو
آئی دل سے صد اغم کے ٹگوں میں	
سرخی ہے رخ فتح کی مظلوم کے خون میں	

**نمود سخن:** یہ مرثیہ 18 بندوں پر مشتمل ہے اس نظم میں حضرت امام حسین کی ولادت با سعادت، اس موقع پر اظہار مسرت، حضور کی آغوش میں آ کر ان کی آنکھیں کھولنے، رونا بند کرنے اور فطرس کی بخشش وغیرہ کا بیان ہے۔ تمہید میں مناظرِ فطرت، فلسفہ حیات و کائنات، انسانی جذبات اور اخلاقی اقدار وغیرہ سے متعلق موضوعات شامل ہیں۔ اس مرثیے میں رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین کے بند نہیں ہیں، بلکہ اس کی فضا اس مجلسِ حیسی ہے، جس میں فضائلِ محمد وآلِ محمد بیان کیے جاتے ہیں اور آخر میں چند جملے مصائب کے۔ بہار حسین آبادی نے اس نظم میں واقعہ کربلا نہ بیان کر کے صرف آخری مصرع ع ”اور اس کے ساتھ کیا کیا سلوک امت نے“ میں بکل مصائب کی طرف اشارہ کر کے نظم کو تکمیل کر دیا۔

**کیمیائی سخن:** 88 بندوں پر مشتمل ہے۔ مرثیہ کی تمہید کے بندوں میں شاعر نے آل رسول پر ہوئے ظلم کا سبب جانا چاہا۔ اس کے بعد حسین کی کربلا میں آمد سے شہادت کے بعد یزید کی سر حسین سے بدکلائی تک کا واقعہ نظم کیا ہے اور یہاں تمہید کے بندوں میں اٹھائے گئے سوال کا جواب یزید کی زبان سے دیا، پھر مرثیہ گوفلسفہ شہادت اور مقصد شہادت نظم کرتے ہوئے ایک دوسرے سوال کی طرف موڑ دیا کہ روز عاشورہ چونکہ حسین نے شہادت کا مرتبہ پایا اس لیے کیا یہ خوشی کا دن ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اس وقت کا واقعہ نظم کیا جب حسین صغیر سن تھے اور رسول نے گریہ کرتے ہوئے امام حسین پر کربلا میں ہونے والے مظالم کا ذکر کیا تھا اور حضرت علی و فاطمہ زہرا نے بھی گریہ کیا تھا۔ یہاں کربلا

کے مظالم کا دوبارہ ذکر آگیا، لیکن مرشیہ میں شروع سے آخر تک ربط برقرار ہے۔ نقی احمد ارشاد لکھتے ہیں۔ ”بہار صاحب نے واقعہ کربلا کی اصلیت و مہیت کو سمجھا جوان کے سمجھی مرثیوں سے ظاہر ہے۔“<sup>1</sup> یہ مرشیہ عام مرثیوں سے ہی نہیں، خود بہار حسین آبادی کے مندرجہ بالا دونوں مرثیوں سے بھی مختلف ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہار حسین آبادی مرشیہ کی اندر ورنی ساخت پر طرح طرح کے تجربے کر رہے تھے۔ سیدہ جعفر<sup>2</sup> ہتھی ہیں:

”بہار حسین آبادی کے مراثی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے  
کہ انھوں نے اردو کے نامور مرشیہ نگاروں کی روایات کا احترام کیا۔  
اس کی پاسداری اور پذیرائی سے بے اعتنائی نہیں برلتی، مرشیہ کی بیت  
کو منقلب نہیں کیا، مرتبیے کے روایتی اسلوب کو جدت و تازگی سے آشنا  
کر کے اسے نئے دور کے شعری تقاضوں اور عصری مسائل سے ہم  
آہنگ کر دیا۔“<sup>2</sup>

بہار حسین آبادی نے نئی نسل کے لیے راہ ہموار کی۔ اور مرشیہ نگاری میں فقرہ پیائی اور بندھی بھی روشنوں سے انحراف کی جرأت پیدا کی۔ انھوں نے اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا کہ ہر صنف شخص وقت کے تقاضوں اور عصری میلانات کے ساتھ نئے سانچوں میں ڈھلتی ہے۔

**خاصان خدا:** 82 بندوں پر مشتمل 1923 کی تخلیق ہے۔ اس مرشیے کی ابتداء ”خاصان خدا حائل اندوہ بلا ہیں“ مصرع سے ہوتی ہے۔ تمام تشبیران خدا کے اندوہ میں ہونے کا ذکر کرتے ہوئے آخری پیغمبر کی شبِ ہجرت کے ذکر سےنظم کا رخ فھائل حضرت علیؑ کی طرف موڑ دیا ہے، لیکن ان کا اصل مقصد فلسفہ صبر و تحمل، ایثار و قربانی، رموز حیات، عدل وغیرہ کا بیان کرنا ہے۔ شہادت حضرت علیؑ کا ذکر صرف ایک مصرع ”کم تھابن ملجم نے جو تکوار لگائی“ میں ہی تمام کرديتے ہیں۔ مرشیہ یہاں تمام نہیں ہوتا بلکہ ابن ملجم سے سوال

<sup>1</sup> ”مراثی بہار حسین آبادی“، نقی احمد ارشاد، ”ترجمان“، عظیم آباد، نومبر، 1999، ترتیب جابر حسین، ص 448

<sup>2</sup> مشمول مضمون، ”ترجمان“ (!)، سیدہ جعفر، اردو مرکز عظیم آباد، جنوری 1999، ترتیب جابر حسین، ص 75۔

کرنے اور اس کے ساتھ سلوک کا ذکر کرتے ہوئے مرثیہ کو اس واقعہ کا سبب بیان کر کے تمام کرتے ہیں، جب حضرت علیؑ کو عمر ابن عبدود کے لحاب دین پھیلنے پر غصہ آگیا تھا اور اس وقت اسے قتل نہیں کیا تھا۔ اس مرثیے میں تاریخی واقعات زیادہ تر اشاروں میں ہی بیان کیے گئے ہیں۔ خطاب یہ بھار حسین آبادی کے بیہاں 1936 سے پہلے ہی نظر آجاتا ہے لیکن اعتدال کے ساتھ۔

**گنج شہیدان:** 85 بندوں پر مشتمل 1923 کی تخلیق ہے۔ یہ مرثیہ حضرت علیؑ کے فضائل سے شروع ہو کر واقعہ کربلا تک آتا ہے۔ علیؑ کے شیر حضرت عبائش کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے، لیکن ان کی شہادت پر کوئی مبنی نہیں ہے، البتہ مرثیہ کے آخر میں عزاداران حسینؑ سے خطاب ہے کہ وہ گریہ کریں۔

اس مرثیہ میں حضرت علیؑ کے اوصاف، شہیدان کربلا کے جذبات و خیالات، جنگ کا منظر اور شہادت کا پیان معتدل انداز میں پیش کیا گیا ہے۔

**سرمایہ تحسین:** 46 بندوں پر مشتمل ہے اور 1924 میں لکھا گیا ہے۔ یہ مرثیہ بھی مندرجہ بالامراضی سے مختلف ہے۔ اس میں تمہید کے بندوں میں ذہنی اور روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے حقیقت عظیٰ کی جتو، جو اسلام، بانی اسلام اور حسینؑ تک پہنچتی ہے، کا بیان ہے۔ بیہاں واقعہ کربلا بیان نہ کر کے اس کے مقصد پر زور دیا گیا ہے۔ آخر میں تین بندوں میں امت سے رونے کی تلقین کی گئی ہے۔

تمام بندائیک دوسرے سے اس طرح پوسٹ میں کہ پڑتے ہی نہیں چلتا کہ گریز کب آیا اور شاعر اپنے مقصد پر کب آیا۔

**قصر جہاں:** یہ مرثیہ بھی ان کے دوسرے مرثیوں سے مختلف ہے۔ 157 بندوں پر مشتمل مرثیے کی تمہید ہی میں روز عاشور جنت کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے، جہاں تمام پیغمبران مع حضرت علیؑ اور فاطمۃؓ کے کربلا کے شہیدوں کے منتظر ہیں۔ اس منظر میں حضرت حر سے لے کر حسینؑ تک شہیدوں کا استقبال اور ان سے کربلا کے حالات دریافت کیے گئے ہیں۔ لیکن واقعہ کربلا جوں ہی شروع ہوتا ہے دوسرਾ شہید داخل ہو جاتا ہے۔ آخر کار جریل

ایمن ابتدا سے آخر تک پورا واقعہ چشم دید بیان کرتے ہیں۔ اس طرح منظر در منظر یہ مرثیہ ذرا سے کی فضا پیدا کر دیتا ہے اور قارئین کی دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ اس طرز کا غالباً یہ پہلا مرثیہ ہے۔ مشکل الفاظ کم سے کم استعمال کیے گئے ہیں کیونکہ مصروعون کو مکالے کی شکل میں پیش کرنا تھا اور مکالے ہی ذرا سے کی جان ہوتے ہیں۔

ساخت کے اعتبار سے مراثی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جدید مرثیے کے بانی شاد نے جو تبدیلیاں کیں، ان کا تعلق بڑی حد تک موضوع سے تھا۔ انہوں نے اجزاء مرثیہ سے یکسر انکار نہیں کیا تھا۔ بہار حسین آبادی نے اجزاء مرثیہ سے بھی انکار کر دیا۔ شاید اسی لیے علامہ جمیل مظہری نے بہار حسین آبادی کے مرحیوں کو ”ہنی انقلاب“ کہا تھا۔ سیدہ جعفر لکھتی ہیں:

”بہار نے مرثیے میں مضمرا مکانات کو تسلیل کی منزل پر پہنچا کر اسے ایک نئی معنویت اور نئی جہت عطا کی۔ بہار نے حسین اور ان کے رفقاء کو ایسے نصب الحین اور آ درش کرواروں کی حیثیت سے اپنے مرحیوں میں پیش کیا جن کے کارنا نے نوع انسان کے لیے مشعل ہدایت ثابت ہوتے ہیں۔ شاعر نے واقعات کر بلا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کی ہے اور حسین کی حق پرستی، صداقت شعاری اور شر پر خیر کی تاریخی فتح کو موجودہ دور کے انسان کے لیے ایک دعوت فکر اور محکم کے طور پر پیش کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نئے مسائل سے دوچار انسان آج کے سماج میں ان اعلیٰ کرواروں کی سیرت سے درس حاصل کر سکتا ہے اور زندگی گزارنے کا نیا عزم اور حوصلہ پاسکتا ہے۔<sup>1</sup>

بہار کے مرحیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے حسین الحق نے لکھا ہے:

<sup>1</sup> مشمولہ مضمون، ”بہار حسین آبادی، اردو مرثیے کا موجود“، سیدہ جعفر ”ترجمان“، جنوری، 1999، ص

”بہار کے بہاں جذبے کی ارادی تکمیل کے بجائے فطری ارتقاء کے نمونے دستیاب ہیں اور بہار نے مریئی کی داخلی ساخت بدلتے کی کوشش کی۔“<sup>1</sup>



جوش نے پہلا مرثیہ ”آوازہ حق“ 1920 میں لکھا۔ اسی کے ساتھ نیم نے اپنا پہلا مرثیہ ”گل خوش رنگ“ 1923 میں تحریر کیا۔ اس کے بعد جمیل مظہری نے اپنا مرثیہ ”عرفان عشق“ 1930 میں تحریر کیا۔ عزیز لکھنؤی کا مرثیہ ”درس وفا“ (1924) بھی قابل ذکر ہے۔ جو موضوع عالی پیرائے میں لکھا گیا ہے۔ انھوں نے بھی مصرع اول سے مصرع آخرتک اپنے موضوع ”وفا“ کو کسی مقام پر ترک نہیں کیا۔ اس مریئی کا ایک بند ملاحظہ ہو، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جدید مرثیہ رلانے کے بجائے قوم کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔

دیکھئے نہیں دنیا میں کہیں ایسے وقار مرنے کے لیے موت سے پہلے ہوئے تیار پہنچے ہوئے زر ہوں پہ دلوں کو دم پیکار سامان مسرت تھے انھیں موت کے آثار

تکلیف میں آفاق سے منہ موڑ رہے تھے

ہنس ہنس کے مگر خاک پر دم توڑ رہے تھے

عزیز لکھنؤی کے مریئی ”درس وفا“ اور جمیل مظہری کے مریئی ”عرفان عشق“ کے بعد حکیم آشفتہ نے بھی چند مریئی لکھے اور کربلا کے مجاہدوں کی شجاعت کا ذکر کر کے مریئی کو پرانی ڈگر سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اسی زمانے میں زائر سیتاپوری نے جدید مریئی کی تاریخ کو انقلابی لمحہ دیا۔ انھوں نے 1932 میں اپنا پہلا مرثیہ کہا۔

زار سیتاپوری کے بعد سید ناظر حسین نقوی (1890-1970) جو اردو دنیا میں موجود سروی کھلاتے ہیں پہلا مرثیہ 1933 میں لکھا۔

<sup>1</sup> مشمولہ مضمون، ”بہار میں آبادی، ایک بلند قامت مریئی گو“، حسین الحق ”تر جان“، جنوری، 1999

### اٹر لکھنوی

اس دور کی مرشیدہ نگاری میں ایک اہم نام جعفر علی خاں اثر کا ہے۔ اٹر لکھنوی غزل کے معبر شاعر ہیں۔ شعراء میں وہ میرانیس اور میر تقی میر کو بے حد پسند کرتے تھے۔ ان کے تقیدی مضمایں ”چھان بین“ اور اثر کے مضمایں کے علاوہ ”میرانیس کی مرشیدہ نگاری“ اور ”مزامیر“ بے حد مقبول کتائیں ہیں۔ ”مزامیر“ تو میر کے کلام کا انتخاب ہے جس میں انھوں نے میر پر بہترین مقدمہ لکھا ہے لیکن ”میرانیس کی مرشیدہ نگاری“ ان کے ان مضمایں کا جمیون ہے جس میں انھوں نے ڈاکٹر احسن فاروقی کے مضمون ”مرشیدہ نگاری اور میرانیس“ جو ”نگار“ میں شائع ہوا، کامل جواب تحریر کیا ہے اور انیس کی شاعرانہ عظمت بیان کی ہے۔

اثر نے ایک مرشیدہ ”آئین شہادت“ بھی لکھا جو بقول صدر حسین ۱ لے 1934 کی تصنیف ہے۔ یہ مرشیدہ انھوں نے نظریے کے ماتحت کہا۔ چند بند ملاحظہ ہوں۔

”اے خامہ رنگیں رہ مدحت میں روں ہو“



کونین کا سردار حسین ابِن علی<sup>۱</sup> ہے سرچشمہ انوار حسین ابِن علی<sup>۱</sup> ہے  
دانندہ اسرار حسین ابِن علی<sup>۱</sup> ہے امت کا سردار حسین ابِن علی<sup>۱</sup> ہے  
مقدور کے مدح امام دوسرا کا  
حقا کہ وہ محبوب ہے محبوب خدا کا

اس نام سے وابستہ ہوئی رحمت باری وہ نامہ سیاہی ہے نہ وہ رجس کی خواری  
سربز ہے دیں ضرب لگی کفرپہ کاری اسلام کے گلشن میں چلی باد بھاری  
تاراج خزان اب یہ چمن ہونگیں سکتا  
افسانہ شیر کہن ہو نہیں سکتا

<sup>1</sup> ”مرشیدہ بعد انیس“؛ صدر حسین، مشمولہ مضمون، ”نگار“، دسمبر، 1943، ص 15۔

اے عیسیٰ اسلام ترے نام کے صدقے  
آغاز کے قربان ہوں انجام کے صدقے کشان کا پیغام ہے پیغام کے صدقے  
محروم نہ ہو گا کبھی اب جوش نمو سے  
ایماں کا چن ٹیخ دیا تو نے لہو سے

تو گلشن تقدیس کا وہ سرو روائ ہے پاکی ترا سایہ ہے صفا تیرا نشاں ہے  
اسلام کے پیکر میں تو ہی روح روائ ہے اے مرکز توریز ترا مثل کہاں ہے  
حلقے میں لیے برقی سر طور کی کرئیں  
اک نقطے پہنچ آئی ہے سب نور کی کرئیں

ان کا مرثیہ ان کے اس خیال کی غمازی کرتا ہے جو انھوں نے نیم امر و ہوی کے  
مرثیے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا:

”مرثیے کو اگر زندہ رکھنا ہے تو زمانے کے ساتھ اس کا رنگ  
بھی بدلتا ہو گا اور بجائے واقعات کے فلسفہ واقعات بیان کرنے کی  
ضرورت روز بروز زیادہ شدت سے محسوس ہو گی۔“ ۱

1943 میں اثر کے مرنے کے بعد مرثیہ نگاری کا ایک دور ختم ہو جاتا ہے اور ترقی  
پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔

### نھونی لال و حشی (1890-1950) ۲

نھونی لال و حشی کا ذکر دو وجہ سے ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک غیر مسلم شاعر  
ہیں، دوسرے یہ کہ ان کا مرثیہ قومی تیکھتی کی مثال ہے۔ اگرچہ ان کا کوئی مجموعہ نظر سے نہیں  
گذر اسوانے ایک مرثیہ ”فکر رسا“ کے، جسے جابر حسین نے بہار فاؤنڈیشن، لوہیا گر، پٹنہ  
سے شائع کیا۔ جابر حسین لکھتے ہیں۔ ”خبر ملی ہے کہ ان کے مرثیوں کا غیر مطبوعہ مجموعہ جناب محمد  
رضا کاظمی کے پاس کراچی میں محفوظ ہے۔ ۳

۱۔ ”سازھریت“، نیم امر و ہوی، مطبوعہ لکھنؤ، اشاعت سوم، تبصرہ جعفر علی خاں اثر۔

۲۔ نھونی لال و حشی کی پیدائش انیسویں صدی کی آخری دہائی میں حاجی پور (ویٹاں) کے ایک کھتری گھرانے  
میں ہوئی۔ ۳۔ ”فکر رسا“، نھونی لال و حشی، مرتب: جابر حسین، بہار فاؤنڈیشن، پٹنہ

نھوںی لال وحشی جمیل مظہری کے معاصر اور ان کے والدگرای جناب خورشید حسن  
کے تلمذ تھے۔ ”فُکر رسا“ کے آخری بند میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے:  
بس اے زپاں خموش کر دل کو نہیں ہے تاب      اس مریئے کا نذر کر استاد کو ثواب  
خورشید یعنی اونج خجن کا وہ آفتاب      جس کے شعاع فیض سے وحشی ہے بہرہ یاب  
مداخ خاص تھا جو شہہ مشرقین کا  
جس نے ہمیں بنا دیا بندہ صیئن کا

وحشی نے اس مریئے میں جو روایت نظم کی ہے اسے مستند تو نہیں کہا جاسکتا۔ کوئی  
کھتری کر بلائیں صیئن کے ساتھ شہید ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس سے وحشی کے جذبہ دلا کا ضرور پڑتے  
چلتا ہے۔ معز کر بل اصرف صیئن اور یزید کی جنگ نہ تھی بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے سب  
سے بڑی قربانی تھی۔ صیئن نے جو پیغام دیا تھا وہ رنگ و نسل اور جغرافیائی حدود کا پابند نہ تھا۔  
اس لیے ہر مدد و مول رکھتے ہیں اور حسینؑ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ نھوںی لال وحشی بھی ایک  
درود مدد و مول رکھتے ہیں اور حسینؑ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ انھیں اس بات کا شدید احساس  
ہے کہ امام حسینؑ نے ہندوستان آنا چاہا تھا۔ مگر راہ بند کر دی گئی۔ وہ صیئن کی صدائے ہل  
من پر بلیک کہتے ہیں۔

دل ان کے کھدہ رہے ہیں کہ بلیک یا صیئن      آتا جو اس طرف کو قدم آپ کا صیئن  
بچے نہ ہوتے کشہ تھے جفا صیئن      سیدانیوں کے سر سے نہ چھٹتی رو، صیئن  
ہوتے ثمار پائے امام ام پہ ہم  
کعبہ بناتے آپ کے نقش قدم پہ ہم

اس کے علاوہ وہ نام نہاد مسلمانوں پر طنز بھی کرتے ہیں۔ ہندو ہونے کے ناطے ان  
کے یہاں کر بلائی جنگ کے ساتھ ساتھ مہابھارت کی جنگ کا نقشہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں  
اصلوں کی پاسداری بھی کی جاتی تھی۔ مہابھارت کے کرداروں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:  
تموار سے گرا کے سہارا بھی دیتے تھے      ارتھی کوسور ماوں کی کاندھا بھی دیتے تھے  
ماوں کو جا کے بیٹے کا پرسہ بھی دیتے تھے      ستونیوں کو لاش پہ پہنچا بھی دیتے تھے  
لاکھوں میں اک جوان بھی نہ اتنا ذیل تھا  
پانی کسی طرف کا ہو پانی سکیل تھا

لیکن وہ کس طرح کے مسلمان تھے بدشمار جن کی شقاوتوں دل تاریخ پر ہیں بار  
رکھا نبی کی آل کو پیاسا خدا کی مار ریتی پر زخم کھا کے گرا جب کوئی سوار  
گھوڑے بھگائے ان کے تن پاش پاش پر  
روئے دیا بہن کو نہ بھائی کی لاش پر

وحشی کو جو دور ملا تھا، اس دور میں مرثیہ اپنے روایتی انداز کو ترک کر رہا تھا اور  
چہرہ، سر اپا، رخصت، رجز، شہادت اور بین وغیرہ اجزاء کی سختی سے پابندی نہیں کی جاتی  
تھی۔ لیکن اکثر شعر اور قارئین اس تبدیلی کو جس میں مرثیہ ایک موضوعاتی نظم کی صورت  
اختیار کر رہا تھا، قبول نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے انھوں نے روایتی اجزاء کی بھی پابندی کی  
ہے۔ اور مرثیے کو ایک موضوعاتی پیکر میں ڈھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ وحشی اپنی فکر رسا  
کو مرثیے کے چہرے میں عقل اور عشق کی معراج بتاتے ہیں اور اپنی شاعری کی تعریف  
بھی کرتے ہیں۔

معراج عقل و عشق ہے فکر رسا مری دنیاۓ رنگ و بو میں بندگی ہے نو امری  
موتی اٹا رہی ہے چن کی گھٹا مری جاتی ہے بت کدوں میں ہرم تک صد امری  
کیوں کرنہ ہو کہ شاعر نگیں بیان ہوں میں  
مستی فروش بادہ چشم بتاں ہوں میں

چہرے کے علاوہ ساتی نامہ کے مسلسل بندان کی قوتِ اظہار کے آئینہ دار ہیں۔  
انھیں زبان و بیان پر قدرت حاصل ہے۔ مرثیے کے اجزاء سے ان کی ہندوستانیت پیکتی ہے  
اور تعصیب و تنج نظری سے دور نظر آتی ہے۔

ساتی خدا کے ہاتھ کی کھینچی شراب دے جس سے خمیر دل ہے وہ اصلی شراب دے  
قرآن کے ساتھ عرش سے اتری شراب دے رندان بزم خاص کی جھوٹی شراب دے  
چھوٹ اس میں کیا چشیدہ طمار ہی سہی  
درد ایا غ بوزر و عمار ہی سہی

ہوں تشنہ کام معرفت عشق کبریا      پینے سے مجھ کو کام ہے پنگھٹ میں جا بجا  
 بھٹا و طوس و کاشی و پریاگ بندھیا      محرا و کاظمین و جگن ناتھ و کربلا  
 اللہ رے تشقی مرے ذوقی صفات کی  
 گنگا سے ہمکنار ہیں موجیں فرات کی  
 چہرے اور ساقی نامے کے بعد گریز کی منزل آتی ہے۔

ساقی جگر ہے خون ہٹا شیشہ و شراب      ہے نام سے فرات کے یوں دل کو اخطراب  
 جس طرح ہو فرات میں موجود کا تیچ و تاب      یاد آگیا وہ وادی غربت وہ قحط آب  
 ان سالکان راہ خدا پر خودی ثار  
 اس تشقی پر روح کی ہر تشقی ثار  
 اس کے بعد نوادر کر بلا میں داخل ہوتا ہے اور امام سے جنگ کی اجازت طلب کرتا  
 ہے۔ امام منع کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم ہندو ہیں اس لیے ہماری قربانی قبول نہیں ہو رہی  
 ہے اس پر امام اس جذبے کو دیکھ کر راضی ہو جاتے ہیں۔

ہندو ہے تو مگر بشر معتدل تو ہے      فطرت کا ظلم تیرے لیے جاں گسل تو ہے  
 تیرے خدا سے تیری خودی منفعل تو ہے      ایماں نہ ہو مگر تیرے پہلو میں دل تو ہے  
 سینے میں جس کے دل ہو بس انسان ہے وہی  
 جس میں سلامتی ہے مسلمان ہے وہی  
 جنگ سے پہلے رجز کا حصہ ہیر و کا تعارف پیش کرتا ہے اور اس کی شخصیت سے  
 روشناس کرواتا ہے۔

نعرہ یہ تھا کہ تکتے ہو حیرت سے کیا ادھر      رادون کی نسل تم ہو میں ہوں رام کا پیر  
 برپا ہے آج پھر وہی پیکار خیر و شر      مردان حق کو نرغہ باطل کا کیا ہے ڈر  
 آگ اپنی برق تشقی سے جا کر لگائیں گے  
 کوفہ کو کیا دمشق کو لئا بنا میں گے

اردو مرثیہ نگاروں نے دست بdest جنگ، اجتماعی جنگ اور داد و پیچ کے ساتھ ساتھ گھوڑے اور تلوار کو بھی رزم آرائی کے جز کے طور پر پیش کیا ہے۔ وحشی کے مرثیوں میں بھی یا جزا موجود ہیں مگر جہاں تلوار کی جنگ کے مناظر دکھائے ہیں وہاں بھیم کی گدا اور ارجمن کے تیر کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی تدمیم جنگ مہابھارت تھی اور یہاں کے یودھا ارجمن اور بھیم ہی تھے۔ ایک ہندوستانی شاعر کے ذہن کا اس طرف منتقل ہونا فطری بات ہے۔ وحشی نے کھتری کی جنگ کی بہت کامیاب تصویر پیش کی ہے۔ جنگ کا نقشہ ملاحظہ ہو۔

تحاگر ز اس کے ہاتھ میں یا بھیم کی گدا جس کو گھما رہا تھا صفوں میں وہ برلا فوجوں کا دل بڑھا جو سوئے شاہ دوسرا لے کر جہاد جنگ کی نکلا وہ منچلا  
کچھی کمال جو معرکہ گیر و دار میں

ارجمن کے تیر چلنے لگے کارزار میں

مہابھارت کی جنگ ذہن میں رپھی بھی ہونے کے باوجود وحشی کی یہ تصویر اتنی فطری نہیں جتنی یہ تلوار کی جنگ۔ شاید یہ کلام انہیں کے گھرے مطالعے کا سبب ہو۔

چتوں غصب کی تھی تو اشارے تھے بے پناہ ہر سو جگا رہی تھی پری جادوئے نگاہ در آئی قلب میں جو ہوا میرہ تباہ شامی یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا ہوئی تباہ

پیچھا کیے ہے تیخ دو پیکر کی آگ بھاگ

ایک ایک کو پکار رہا تھا کہ بھاگ بھاگ

غرض وحشی ایک باکمال شاعر ہیں اور ان کا نام بھی جوش، جیل وغیرہ کے ساتھ یا جا سکتا ہے۔ جابر حسین ان کے مرثیے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”ہندو میتھا لو جی سے جڑے کرداروں، علامتوں اور مقامات نیز ہندو مذہب کے تاریخی پس منظر کا جس شاعرانہ چا بک دستی سے ان کے مرثیوں میں استعمال ہوا ہے اس کی مثال کم لٹی ہے۔ وحشی نے ہندو دیوتاؤں کے تعلق سے جو امجز اپنے مرثیوں میں ابھارے ہیں اور جن الفاظ میں امام حسین سے عقیدت و احترام کا اظہار کیا ہے اس سے نہ صرف وحشی کے وسعت ذہن و قلب کا پتہ چلتا ہے، بلکہ مشترکہ مذہبی، سماجی اور تہذیبی کلچر کی تدوین بھی

نمایاں ہوتی ہے۔<sup>1</sup>

کچھ اسی طرح کی بات سیدہ جعفر بھی لکھتی ہیں:

”وحشی کے مرثیہ کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہندو صنیمات سے متعلق کرداروں اور علامتوں اور مقامات کے علاوہ ہندو مذہب کے تاریخی و تہذیبی تناظر کی طرف بھی بیش اشارے کیے ہیں۔“<sup>2</sup>

سید ارشاد حیدر ”فکر رسا“ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وحشی کا عقیدہ اتنا تو ہے اور زبان اتنی سلیس اور شستہ ہے کہ اگر اس مرثیے میں کہیں کہیں ہندو دیو مالا، مہا بھارت اور راماائن کے کرداروں سے کام نہ لیا ہوتا اور اپنے ہندو ہونے کا اعلان نہ کیا ہوتا تو یہ گمان بھی نہ ہوتا کہ شاعر لکھنؤ کے باہر کہیں کا ہے۔<sup>3</sup>



۱۔ ”نحوی لال و حشی“، جابر حسین، ترجمان، جنوری 1999ء۔ ص 130-131۔

۲۔ ”نحوی لال و حشی کا ایک منفرد مرثیہ“، سیدہ جعفر، ترجمان، جنوری 1999ء۔ ص 139۔

۳۔ ”شب خون“ شمارہ 209، 2، اگست 1997ء،



باب چہارم

اردو مرثیہ 1936 کے بعد



## (الف) قدیم طرز کے مرثیہ نگار

ادب انسان کے خیالات کے اظہار کا نام ہے اور اس کے خیالات و جذبات کی بنیاد تجربات پر ہوتی ہے۔ ادب اور فن کا ارتقاء خلا میں نہیں ہوتا۔ فن کا رکھ تخلیقات انھیں روایات اور سماجی ماحول سے وابستہ ہوتی ہیں، جن میں وہ سانس لیتی ہیں۔ جن حالات سے اس کی زندگی دو چار ہوتی ہے اس کے نقوش خیالات کے ذریعہ ادب میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اگرچہ اس کے لیے آزاد، خالی اور پھر چکبست، اقبال، جوش وغیرہ فضاء ہموار کر چکے تھے۔ یہ تحریک انسان دوستی، عقل پسندی، حب الوطنی، سامراجی و شمنی اور آزادی کے جذبے کو لے کر آگے بڑھی اور ادب برائے زندگی کے نظریے کو اپنایا۔

ترقی پسند تحریک نے بہت سے تجربے کیے جو مواد اور بہیت دونوں کے لحاظ سے اہم ہیں۔ اس تحریک کے نزدیک ادب کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ انسان اور انسانیت کی خدمت کرے۔ 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ملک کا بٹوارہ بھی ہوا۔ ادیبوں اور شاعروں نے زیادہ تر فسادات کے واقعات کو اپنا موضوع بنایا۔ اس زمانے میں جو نظمیں لکھی گئیں دراصل وہ عوام کے مرشوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تصورات میں تبدیلی اور تغیر سے زندگی کے بہت سے جوں کے ساتھ تمام اصناف بھی متاثر ہوئے اور مرثیہ بھی اس سے نہ پچ سکا۔ چنانچہ جدید مرثیے کی بنیاد، تحریک آزادی کے پرآشوب مگر ولہ انگیز حالات

میں رکھی گئی۔ اردو مرثیہ میں نے نئے موضوعات کو شامل کرنے والوں میں جوش، جمیل، آل رضا، نیسم امر و ہوی، نجم وغیرہ شامل ہیں۔ جوش نے اپنے ولوہ انگریز مرثیوں سے انقلاب اور آزادی کی تحریک کا کام لیا اور سیاسی موضوعات نظم کیے۔ آل رضا نے واقعات کو فلسفیانہ نظریات سے پیش کرنے کی کوشش کی۔ جمیل نے مرثیوں کے ذریعے قوم کی اصلاح اور بیداری کا کام لیا۔ نجم نے واقعہ کربلا اور ذکر حسین کی اہمیت کا بیان نظم کیا۔ نیسم نے عام مسائل کے ساتھ مصائب کے بیان میں قدیم معیار کو برقرار رکھا۔ 1938 سے 1947 تک کا دور آزادی کی تحریک کا بڑا جان دار دور تھا۔ جس میں عوام کے حوصلے بلند سے بلند تھوتے گئے۔ لیکن 1947 کے بعد اس ولوہ انگریزی میں کچھ کمی آئی اور شاعروں میں بھرت کا کرب دیکھنے کو ملتا ہے۔ صبا اکبر آبادی کا مرثیہ ”بھرت“ اس کی مثال ہے۔ 1936 میں صبا اکبر آبادی نے اپنا پہلا مرثیہ لکھا۔ عبدالرؤف عروج لکھتے ہیں۔

”صبا صاحب نے پہلا مرثیہ 1936 میں لکھا تھا اور اسے آگرہ کی ایک مجلس میں پڑھا تھا۔ جس کو پسند کرنے والوں میں نجم آفندی جیسے مشاہیر بھی شامل تھے۔ اس مرثیہ کے بعد کسی دور میں بھی ان کی طبیعت میں جمود ہوا نہ ٹھہرا اؤ، وہ برابر اور مسلسل لکھ رہے ہیں۔“<sup>1</sup>

ان کے مراثی کے تین مجموعے ”سریکف“، ”شہادت“ اور ”خون ناب“ شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے مراثی پر تبصرہ آئندہ باب میں کیا جائے گا۔

اس دور کے مرثیہ نگاروں کے لیے اہم مسئلہ یہ ہے کہ انقلاب پذیر دنیا کے مسائل اور مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی سائنسی روشنی کو مرثیہ کی بساط میں کس طرح سینا جائے۔ اس نے شاعروں کو نئے تجربوں کی دعوت دی اور روایات سے بغاوت کے احساس نے اس دعوت کو عام کیا۔ چنانچہ مرثیہ نگاروں نے اپنے مرثیے کو مقررہ نظام ترکیبی سے الگ کر لیا۔ صدر حسین لکھتے ہیں:

<sup>1</sup> ”خون ناب“، صبا اکبر آبادی، عبدالرؤف عروج، مشمول مضمون، ترتیب: مشق خواجه۔

”قدیم مرثیے کے بعض اجزاء اور موضوعات پر آج تک

جتنے اعتراضات ہوئے تھے، جدید مرثیہ ان سب سے صاف ہے۔

کیونکہ مناظر کا خلاف واقعہ بیان، گھوڑے اور تلوار کی مبالغہ آمیز تعریفیں، ساتی نامے کی بے اعتدالیاں، خواتین کا اضطراب و اضطرار وغیرہ بیانات موجودہ مرثیے میں نہیں ملتے۔ جدید مرثیے میں تخلی کی پرواز کو اتنا دخل نہیں جتنا تاریخی واقعیت کو۔ جدید مرثیے گو عقیدت مندی کی سطح سے بلند ہو کر انسانی بصیرت کے ساتھ چلتے ہیں، خدا یہ سفر مبارک کرے۔“<sup>1</sup>

جہاں تک ہیئت کا سوال ہے اس دور میں مسدس کا ہی انتخاب کیا گیا۔ کیونکہ مسدس کی بحر میں جور و افی اور پیک تھی وہ کسی دوسرا ہیئت میں نہ تھی، لیکن موضوع اور مواد کی پیش کش کا انداز ضرور غور و فکر کا مرکز بنا۔ کلاسیک مرثیوں میں جن عناصر کو تقریباً ترتیب دار پیش کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اس عہد کے شاعر اس کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ اب محض واقعہ کر بلایا اس کا کوئی ایک حصہ بیان کرنے کے بجائے اس کے فکری پہلوؤں پر زور دیا جانے لگا اور ہیئت سے زیادہ معنویت پر توجہ دی جانے لگی۔

جدید طرز کے مرثیہ نگاروں کے ساتھ ساتھ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو جدید مرثیہ کو مرثیہ نہ مان کر مسدس کہتا تھا اور قدیم طرز کو اپنائے ہوئے تھا۔ ان شعراء میں بعض تو مستقل مرثیہ گو تھے اور مرثیہ گوئی کے کسی نہ کسی دبتان یا خاندانی سلسلوں سے وابستہ تھے۔ ان شعراء میں طاہر صاحب رفع، مودب لکھنؤی، بابو صاحب فائق، منے صاحب ذکی، فراست زید پوری، مہذب لکھنؤی اور شدید و خبیر اہمیت کے حامل ہیں۔

### مہذب لکھنؤی

اردو مرثیہ جو لکھنؤ میں اپنے کمال کو پہنچا اور جہاں سے جدید مرثیوں کا آغاز ہوا وہاں

<sup>1</sup> ”مرثیہ بعد افیس“، صدر حسین

مہذب اپنے قدیم طرز پر قائم رہے۔ وہ مرثیوں میں کسی قسم کی جدید روشن کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ کثرت سے مرثیہ کہنے کے باوجود ان کے مرثیے بے روح ہو کر رہ گئے۔ ان کے مرثیوں میں جہاں کہیں تازگی کا احساس ہوتا ہے، وہ کسی نئے خیال یا واقعہ کے اظہار میں کسی نئے رخ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مرثیہ گوئی کے چوتھے دور میں شمار کرتے ہیں۔ ”مراٹی مہذب“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”چوتھا دور جس میں میراث میں جناب شدید، خبیر و صادق ہیں۔ یہ دور بڑی کمپرسی کا ہے، کوئی قدر نہیں، ذوقِ ادب و زبان ختم ہو چکا ہے، چونکہ مرثیہ گوئی کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں اس لیے یہ چند ہستیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے بعد لکھنؤ میں سنا ناظر آئے گا۔“

1

اس کمپرسی کی وجہان کا یہ نظریہ ہے :

”زندگی کا پہلا فرض یہ بحث ہوں کہ اصول ٹوٹنے نہ پائیں، پابندیاں باقی رہیں۔“<sup>2</sup>

ظاہر ہے محض پابندیاں اور زبان و بیان کی خوبیاں ہی کسی تخلیق کو لازوال نہیں بنا تیں۔ ہر دور میں انسانی ضروریات اور مقاصد بدلتے رہتے ہیں اور ہر دور میں سماجی اور فکری تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب جنگ کی تیاریاں، اسلوب کا شور، مبارز طلبی، گھوڑے اور تلوار کی تعریف، یہ مضمایں شاعری، سامعین کی فکر کو مدد و کردیتے ہیں۔ مہذب لکھنؤی نے ان باتوں کا دھیان نہیں رکھا اور باوجود ایک مسلسل مشق خن کے مرثیہ گوئی میں کوئی اہم مقام نہ بنا سکے۔

### شدید لکھنؤی

پیارے صاحب رشید کے نواسے سجاد تحسین شیدید نے بھی روایتی انداز کے مرثیے

1۔ ”مراٹی مہذب“ (جلد اول)، مہذب لکھنؤی، ناشر: سرفراز توپی پرنس لکھنؤ، 1963، ص 7۔

2۔ ”مراٹی نئیں اور اصلاح نہیں“۔ مرتب: مہذب لکھنؤی، ناشر: انجمن حافظ اردو لکھنؤ، 1954، ص 11۔

لکھے ہیں۔ وہ اپنے خاندانی رنگ کو چھوڑ نہیں چاہتے۔  
 میں سالک سالک عشق و انیس ہوں      میں پیر و تعشق و انس و نشیں ہوں  
 میں ورثہ دار خاص رشید و رئیس ہوں      میں منزل عروج زبان سلیس ہوں  
 روشن مرے کلام میں دونوں کی شان ہے  
 میرا ہے یہ بھی وہ بھی مرا خاندان ہے  
 یوں کر شنا تو مان لیں ہم تجوہ کو بے گماں      ہو جدتیں نہ چھوٹے مگر رنگ خانداں  
 مثل رشید صاف سلاست میں ہوزباں      چن لے انیس و عشق و تعشق کی خوبیاں  
 رنگ زمانہ کو بھی ذرا دیکھ بھال لے  
 ان عطروں کا جو ہو سکے جو ہرنکال لے  
 بحر حال شدید کی یہ کوشش بڑی حد تک کامیاب ہے اور قدیم رنگ میں مرثیہ گوئی کو  
 زندہ رکھنا کچھ کم قابلِ احترام نہیں۔ انہوں نے ایک رزم نامہ بھی مرتب کیا تھا جواب "رم  
 نامہ شدید" کے نام سے شائع ہوا ہے۔

### جدید بارہ بنکوی

محمد عسکری صدیقی جدید بارہ بنکوی ولادت 1906 کو تقسیم کے بعد کا غالباً آخری  
 مرثیہ نگار سمجھنا چاہیے، جنہوں نے لکھنؤی طرز کو قائم رکھنے کی کوشش کی۔ ان کے ۶ مرثیوں کا  
 مجموعہ "اعجازِ ناطق" ۱ کے نام سے شائع ہوا۔

وہ جدید مرثیوں کو مرثیہ سانے کے لیے تیار نہیں بلکہ اسے مسدس کہتے ہیں۔ مرثیے  
 کے جو اصول اساتذہ نے مقرر کیے ہیں، جدید اسے توڑنا نہیں چاہتے۔ علامہ جیل مظہری نے  
 لکھا ہے:

"جدید صاحب نے مرثیوں میں رنگ قدیم سے کم اخراج

کیا ہے مگر ان کا تخلص جدید ہے۔" 2

1۔ "اعجازِ ناطق": جدید بارہ بنکوی، طابع نامی پر میں لکھنؤ، 1978۔

2۔ ایضاً، تعارفی کلمات جیل مظہری۔

## (ب) جدید طرز کے مرثیہ نگار

جوش طلح آبادی (1896-1982)

بیسویں صدی میں اوچ اور شاد نے مرثیے میں جدت لانے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کے کلام میں دعوت عمل اور دعوت انقلاب کا تصور اجاگر ہو چکا تھا۔ 1905 کے بعد سے انگریزوں کے خلاف آزادی کی جدوجہد تیز ہوئی تھی۔ انقلاب کے تصور نے فطری طور پر اہل قلم حضرات کو در حسین پر لاکھڑا کیا۔ اقبال اور محمد علی جوہرنے واقعہ نگاری کے بجائے شہادت حسین کے اسباب اور اثرات کی نشان دہی کی۔

ان حالات میں، جوش کی مرثیہ نگاری کا آغاز ہوا۔ وہ پہلے شاعر تھے۔ جنہوں نے مرثیے میں انقلاب اور قومی آزادی کے تصور کو روایج دیا۔ بقول سید محمد عقیل رضوی۔ ”جوش نے سب سے پہلے اپنے مرثیوں میں احتجاجی رخ کو اپنایا۔“<sup>1</sup>

جوش کے مرثیے مدرس کے قابل میں ہونے کے باوجود اندر و فی ترتیب اور مضامین کے لحاظ سے قدیم مرثیوں سے بہت مختلف ہیں۔ جوش نے مرثیے میں نظم کی تئیک استعمال کرنے کی کوشش کی۔ بقول محمد رضا کاظمی:

”اساتذہ لکھنؤ نے مرزا اوچ کی قدرت کی اور واقعہ کر بلائی  
مفارناہ تشریحات کو مرثیے میں فطری ترقی کے طور پر نہیں بلکہ نظم کے

<sup>1</sup> ”مرثیے کی سماجیات“، عقیل رضوی، نصرت پبلیشورز، لکھنؤ، ص 42۔

راستے سے آنا پڑا۔<sup>1</sup>

جوش کے مرثیوں کے بندوں کو نظم کا حصہ بھی بتایا جاتا ہے۔ بھر حال نظم کے پروردہ خیالات کے ساتھ نظم کی تکمیل بھی چلی آئی، جس سے مرثیہ کی رزمیہ ترتیب مجرور ہو گئی۔ جوش کی اس نئی روشن نے دوسرے مرثیہ نگاروں کو بھی متاثر کیا۔ انتشار خیالی سے بچنے کے لیے ایک موضوع کے تحت اپنی فقر کو منظم کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ جہاں تک ہیئت کا تعلق ہے، جوش نے مسدس ہی کو اپنایا ہے۔ جوش نے مرثیہ نگاری میں اپنے شاگرد ہلال نقوی کو 5 دسمبر 1976 کے ایک ائمودیو میں جدید مرثیے کی ہیئت کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا:

”فارم میں تبدیلی لانا کوئی ضروری نہیں۔ مسدس میں چھ

صرعے ہوتے ہیں، جن میں موسمیت بھی ہوتی ہے اور گنجائش بھی۔

اثر اور جوش دونوں باتیں اس سے پیدا ہوتیں ہیں، اس لیے مسدس

مرثیے کے لیے بہترین شکل ہے۔<sup>2</sup>

مرثیے کے لیے اس ہیئت کو مخصوص کرو دینا خلیق و ضمیر اور انیں دییر کا کارنامہ ہے، لیکن اس ہیئت میں نئے شعور کے ساتھ نئے مسائل زندگی کا اضافہ جوش کی دین ہے۔

انیں دییر تک مرثیہ کے موضوعات مناظر فطرت، جنگ کا نقشہ، گھوڑے یا شمشیر کی تعریف اور شہادت کے بیان تک محدود تھے۔ بعد میں ساتی نامہ کا اضافہ کیا گیا۔ جوش کے یہاں مرثیے کی داخلی ہیئت مجرور ہو گئی اور اس کی جگہ ایک ادھوری نظم نے لے لی۔ اسی وجہ سے قدامت پرست لوگ اسے مسدس ہی کہتے ہیں۔

جوش کے مرثیوں کو مسدس کہنا تو آسان ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ مرثیہ تو اپنے موضوع کی وجہ سے مرثیہ کہلاتا ہے، نہ کہ ساخت کے اعتبار سے۔ مرثیے نے مختلف موزوں بھی لیے ہیں۔ پہلا موزوں ہے جب میر ضمیر نے اسے ایک مقررہ ڈھانچہ دیا۔ دوسرا اہم موزوں جو اونج اور شاد کے یہاں نظر آتا ہے۔ تیسرا اہم موزوں مرثیے میں جوش کی بدولت آیا۔ جب

<sup>1</sup> ”جدید اردو مرثیہ“، محمد رضا گاظمی، مکتبہ ادب، کراچی، ص 88۔

<sup>2</sup> ”جدید مرثیے کی تین معماں“، ص 16، سوالہ ادبی مقاولے، گاظم علی خاں۔

روايتی ترتیب مجرو ح ہو گئی تو اسے مسدس کیوں کر کہ سکتے ہیں اور اسے مرثیہ مانے کا کیا جواز ہے، جب کہ ان کے پہلے مرثیے "آوازہ حق" میں تقریباً تمام اجزا موجود ہیں۔

جو ش نے کل نو مرثیے کہے جسے ضمیر اختر نقوی نے مرتب کر کے شائع کر دیا ہے۔<sup>1</sup> جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

عنوان	سنه تصنیف	تعداد بند
1- آوازہ حق	1918 یا 1920	92
2- حسین اور انقلاب	1941	98
3- موجہ فکر	1956	116
4- وحدت انسانی		76
5- طلوع فکر	1957	110
6- عظمت انسان "قلم"		88
7- آگ	1959	
8- زندگی اور سوت آل محمد وآل محمد کی نظر میں	1965	86
9- پانی	1971	95

جدید مرثیے کی نئی راہ کی پہلی منزل عنوان کی شکل میں جوش کے یہاں نظر آتی ہے۔ تدبیح مرثیوں میں عنوان نہیں ملتے بلکہ جس شہید کے حال میں یہ مرثیے ہوتے ہیں، ان پر مثلاً "مرشید درحال جناب حز" وغیرہ لکھ دیا جاتا تھا۔ مرزاد بیر کے بیکٹوں مرثیوں میں صرف ایک مرثیہ "اے شمع قلم انجمن افروز قم ہو" "مظہر حق" کے تاریخی عنوان سے ملتا ہے۔ جو "دفتر ماتم" کی تیر ہو یہ جلد کے صفحات 206 تا 212 میں دیکھا جاسکتا ہے۔ دراصل یہ عنوان تاریخ کے باعث رکھا گیا تھا۔ مندرجہ بالا جوش کے تمام مرثیوں میں عنوان کا التراجم ملتا ہے۔ عقیل رضوی "مرثیے کی سماجیات" میں (ص 79) پر لکھتے ہیں۔ "اسلوب اور مرثیے کا ڈھانچہ جب

1۔ "جو ش کے مرثیے"، مرتب: ضمیر اختر نقوی لکھنؤ، 1981۔

نظم کے قریب آیا تو اس میں موضوعاتی کیفیت بھی پیدا ہو گئی۔<sup>1</sup>

اس کے علاوہ جوش نے اپنے مرثیوں میں اختصار کو مخاطر کھا ہے۔ کلاسیکل مرثیہ فارغ البال کے زمانے کی چیز تھا اور بہت طویل ہوتا تھا۔ جوش نے بندوں کی تعداد مختصر کر دی تاکہ آج کی مصروف زندگی میں اس کی طوالت بارہ نہ ہو۔

مرثیہ قدیم اپنی داخلی ساخت کے اعتبار سے رزمیہ اور الیہ دونوں سے بہت قریب ہے۔ قدیم مرثیہ نگاروں کی رزم آرائی سارے اردو ادب کی آب رو ہے۔ جدید مرثیہ اس موضوع سے خالی ہے یا پھر اس میں وہ شان اور فضاب قرار نہ رکھ سکی۔ رضاہمدانی لکھتے ہیں

”مرثیہ نے جب دور جدید میں قدم رکھا تو عہد نو کے شعرا  
نے روایت کے ساتھ درایت کو بھی پہلو ب پہلو رواد دوان رکھا۔ اس  
کا پہلا مجد اور روایت شکن جوش بیٹھ آبادی ٹھہرا۔ اگرچہ جوش کے  
اوائل کے مرثیے روایت ہی کے پس منظر میں تھے مگر وہ انہیں ودیر کی  
روایت میں کوئی پیش رفت نہ دکھائے لیکن جوں ہی ان کی جودت فکر  
نے روایت سے انحراف کیا تو مرثیہ اکثر نیا انداز لے کر سامنے آیا، جس  
نے ذہنوں کو نہ صرف چونکا یا بلکہ رثائی فکر و حکم کے لیے نئی نئی روشنوں کا  
انکشاف ہوا۔“<sup>1</sup>

جوش نے پلات کی تشکیل اور کردار نگاری پر زور نہیں دیا اور نہ وہ اپنے بیانیہ کے پابند رہے ہیں، حالانکہ ”آوازِ حق“ میں تمام رسی لوازم موجود ہیں لیکن چہرہ، رخصت، رجز، لڑائی، شہادت اور بنی۔ اس کے بعد جوش نے تو می خیالات بھی نظم کر دیے۔ ”آوازِ حق“ میں کردار نگاری کا ایک خوبصورت ملاحظہ ہو۔ لشکر یزید پر امام حسین کی تقریر کار عمل دیکھئے۔  
یہ کہہ کے جو مولا نے نظر کی سوئے کفار تھا سر کو جھکائے ہوئے ہر ایک سیہ کار  
ہر ایک کے چہرے پر خجالت کے تھے آثار یہ رنگ جو دیکھا تو کہا شرنے بیدار  
ہشیار مراتب کے طلب گار جوانو  
ہو جاؤ بس اب جنگ پر تیار جوانو

<sup>1</sup> ”خون ناب“، ترتیب مشق خواب، ص ۱۹۰، مطبع حسیرا اسٹر پارکز، ناظم آباد، کراچی۔

تقریر میں کامل ہیں بہت حضرت شیر ہو جاؤ گے گمراہ اگر ہو گئی تاثیر کیا دری ہے میداں میں بڑھوتوں کے شمشیر یہ زر ہے، یہ دولت ہے، یہ منصب ہے یہ جا گیر ہو جاؤ گے ہشاش وہ انعام ملے گا  
کہتا ہوں کہ سو پشت تک آرام ملے گا

بعد میں انھوں نے لوازم ترک کر دیے۔ انھوں نے افراد کر بلاؤان کی ذات کے آئینے میں دیکھنے کے بجائے ان کو سیاسی و تاریخی اثرات کے آئینے میں دیکھنا شروع کیا۔ کہیں کہیں رزمیہ لے تیز ہو گئی ہے

ذہن بہرے تھے خطابت نہ ہوئی پار آور رس کی بوندوں کو بھلا جذب کرے کیا پھر طبل پر چوت پڑی دشت ہوا زیر وزبر باندھ لی آل محمد نے بھی مرنے پر کمر پھر تو اک برق تپاں جانب اشرار چلی نہ چلی بات تو پھر دھوم سے تکوار چلی کہیں کہیں ڈرامائی تاثر بھی پیدا ہوتا ہے

یوں بجھا کر کھدیے آہوں نے ذلت کے دیے آنسوؤں میں بھے طبل والم کے دبدبے بیڑیوں کی گونج سے ایوان تحرانے لگے ایک بی بی کی خطابت نے ڈھانے زلزلے اشک خوں روشن ہوئے نظرؤں سے تارے گر گئے خاک پر قصر حکومت کے ستارے گر گئے

جو ش نے میر ضمیر سے منسوب ترتیب کے ساتھ پیاسیہ اسلوب کو بھی ترک کر دیا۔ مریشی کو فکری نجی پر ڈالنے کے بعد مریشی کو ایک نئے ڈھانچے کی ضرورت تھی۔ اس لیے انھوں نے طویل نظم کی تکنیک کو اپنایا۔

جو ش کے ابتدائی دور میں ”آوازِ حق“، 1920 اور ”حسین اور انقلاب“ میں ضمنی موضوعات کی گنجائش نہیں، لیکن جو مراثی انھوں نے تقسیم کے بعد لکھے ہیں وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اب جو ش آزادی کے مضامین پیش کرنے سے رہے۔ انھوں نے ہمیشہ

عصری تقاضوں کو اپنے مرثیوں میں جگہ دی۔ اب وہ ان موضوعات کو جگہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن میں آفاقی مسائل ساکھیں۔ ”موت اور زندگی محمد اور آل محمد کی نگاہ میں“ میں انھوں نے زندگی کی تصویر کشی کی ہے لیکن یہاں وہ مرثیت کے مزاد سے بہت دور ہو گئے ہیں۔

زندگی باگیسری، سارنگ، دیپک موہنی      پکھڑی، تلی، صنوبر، دوب، نہریں، چاندنی  
بت تراشی، رقص، موسیقی، خطابت، شاعری      لا جور دی، شرقی، دھانی، گلابی، چمپی  
زعفرانی، آسمانی، ارغوانی، زندگی  
لا جوتی، مدھری، کوئل سہانی، زندگی

یہ مضامین مرثیے کے تقدس کو مجروح کرتے ہیں۔ پیارے صاحب رشید وغیرہ نے مرثیت میں ساقی نامہ کا اضافہ کیا تھا لیکن لذتیت کی حد کو نہیں چھوڑا تھا۔ جوش نے موضوع کی عظمت کے لحاظ سے زبان استعمال نہیں کی۔

محمد رضا کاظمی نے جوش کے مراثی کی اندر ورنی ترتیب کے بارے میں اس طرح روشنی ڈالی ہے:

”کلاسیکی ترتیب کو رد کرنے کے بعد جوش کے مراثی میں

ترتیب کی جو صورت باقی رہی اس کی مشابہت اس صنف سے رہ گئی جو  
ہمارے ادبی تخت الشعور میں ہمیشہ سے رہی ہے، یعنی قصیدہ۔ تشیب  
میں چند عمومی مضامین، قلب میں واقعہ کر بلکہ تشریخ اور آخر میں،  
حالات حاضرہ کا ذکر، مددوح سے عزم و ارادہ کی نعمتوں کی طلب“۔ ۱

جوش کے مراثی کا یہ حصہ سب سے زیادہ کامیاب ہے۔

اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ      اسلام ہے پھر تیر حادث کا نشانہ

کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ رانہ      تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ

مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو

لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علیٰ ہو      (آوازہ حق)

۱۔ ”جدید اردو مرثیہ“، محمد رضا کاظمی، مکتبہ ادب، کراچی، ص ۹۶۔

اے حاملانِ آتش سوزاں بڑھے چلو      اے بیروانِ شاہ شہیداں بڑھے چلو  
 اے فاتحانِ صرصڑ طوفاں بڑھے چلو      اے صاحبانِ ہمت یزداں بڑھے چلو  
 تکوار شر عصر کے سینے میں بھونک دو

ہاں جھونک دو یزید کو دوزخ میں جھونک دو (حسین اور انقلاب)  
 جہل پھر کئے ہے علم کے سر پر قدم      خاک میں پھرمل چکا ہے آدمیت کا بھرم  
 زندگی پر مارتے پھرتے ہیں ٹوکریں پھر درم      کھل چکا ہے پھر دل انساں پر سونے کا علم  
 پھرد فرزنگ رہی ہے شور ہے اشرار کا

صف شکن پر وقت ہے پھر تنخ کی جھکار کا      (موجد فکر)  
 کہہ رہا ہے یہ امرے کون بہ انداز سروش      کہ بس امروز ہے، افراد ہے، فرادا ہے نہ دوش  
 کس کی یارب یہ صدائے کفضا ہے خاموش      میں حسین ابن علی بول رہا ہوں اے جوش  
 بخش دے آگ میرے سر دعا داروں کو

ہاں جگا ڈاب میں سوئی ہوئی تکواروں کو      (قلم)  
 یہ بات حیرت کی ہے کہ جوش کا مزاج رزمیہ سے ہم آہنگ ہے مگر وہ اپنے مراثی میں رزمیہ  
 کے بجائے نظمیہ تکنیک استعمال کرتے ہیں۔ رضا ہمدانی ”سر بکف“ میں لکھتے ہیں:  
 ”قدیم مرثیہ نگاروں کی رزم آرائی سارے اردو ادب کی  
 آبرو ہے۔ اس لیے یہ پھر ہے بہت بھاری، اسے چوم کر چھوڑ دینے  
 ہی میں عافیت ہے۔“

”آوزہ حق“ میں اس بات کا تجزیہ ہو چکا تھا کہ قدیم سانچے اور جدید افکار کی ہم  
 آہنگی ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جوش اپنے سیاسی افکار کو مرثیہ کی بساط میں پوری طرح نہ  
 لاپائے ہوں لیکن حکیمانہ اقوال بڑی خوبی سے نظم کیے ہیں۔ اس اخلاقی سبق کو کہ شادی اور غم  
 زندگی کی صداقتیں ہیں، روح کی بالیدگی میں دونوں کی یکساں حیثیت ہے۔ اس بات کو بیان  
 کرنے کے لیے امام حسین کے خطبے کا سہارا لیتے ہیں۔

تکلیف کے اس باب کو راحت نہیں کہتے جو چند نفس ہو اسے عزت نہیں کہتے  
دیباچہ ماتم کو سرت نہیں کہتے جس شے کو فنا ہو اسے نعمت نہیں کہتے  
آرام کی خواہش نہ کرو قوت زر سے  
لبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے

موقع اور محل کے لحاظ سے بیان میں زمی اور زماں کت پیدا کرنے میں جوش کو قدرت  
حاصل ہے۔ رزمیہ ترتیب کو رد کرنے کے بعد انہوں نے مرشیوں میں ابواب قائم کرنے کی  
بنیاد دی۔ ”عظمت انساں“ یا ”قلم“ کے نام سے جو مرثیہ شائع ہوا ہے، اس میں انہوں نے  
چھ ابواب قائم کیے ہیں: (1) قلم، (2) انسان، (3) اہمیت خدمت انسان، (4) صیئن خادم  
انسانیت، (5) عزاداروں سے خطاب، (6) ...۔ مرشیوں میں ابواب قائم کرنے کی یہ پہلی  
کوشش ہے۔ جو ایک اعتبار سے مرثیے کو ایک نیا تصور فکر عطا کرتی ہے۔ نظموں میں یہ تکنیک  
اپنائی جاتی ہے۔ ایک موضوع پر مسلسل لکھنے کے بعد جب اسی کلٹن سے دوسرا موضوع پیدا  
ہوتا ہے، وہیں پر سرخی قائم کر لی جاتی ہے۔ قدیم مرشیوں میں سرپا، رخصت، آمد، رجز، جگ،  
شہادت اور بنین کے اجزاء ایک ہی مرثیے میں مختلف عنوان کے تحت لکھے جاتے تھے۔

بعد میں جوش نے عناصر اربعہ میں سے ”آگ“ اور ”پانی“ کو موضوع بنایا کہ مرثیے  
لکھے۔ چوں کہ پانی کی واقعہ کربلا کے سیاق و سماں میں ایک خاص حیثیت ہے، اس لیے یہ  
ایک شاہ کار مرثیہ ہے۔ آگ بھی دشمناں اہل بیت کا مقدر ہے، اس لیے یہ موضوع بھی اہمیت  
کا حامل ہے اس کے پہلے کے چار مرثیے ”وحدت انسانی“، ”موجید فخر“، ”حیات اور  
موت“ اور ”قلم“، اپنے عنوان کے لحاظ سے وسیع امکانات کے حامل ہیں۔

قدیم اور جدید مرشیوں میں ”منظرنگاری“ ایک مشترک قدر ہے۔ جوش نے نظموں  
کے مقابلے میں مرشیوں میں منظر نگاری پر کم توجہ دی ہے۔ پھر بھی وہ ایک مصور شاعر نظر آتے  
ہیں اور مناظر فطرت کے نقش ان کے مرشیوں میں اکثر نظر آتے ہیں۔

لبریز زہر جوڑ سے وہ دشت کا ایا غ دکھتے ہوئے وہ دل وہ نکتے ہوئے دماغ  
پر ہول ظلمتوں میں وہ سہبے ہوئے چرا غ آنکھوں کی پیلوں میں عیاں وہ دلوں کے داغ  
بکھرے ہوئے ہوا میں وہ گیسور سول کے

تاروں کی روشنی میں وہ آنسو بقول کے "حسین اور انقلاب"  
اے دوست بتاتا ہوں تجھے روح کے اسرار صدموں سے اگر چور ہے تیرا دل بیمار  
آنکھیں تو اٹھا، دیکھے ذرا حسن کے انوار یہ چاند یہ سورج یہ بنا تاتا یہ کہسار  
کیوں تیرے خیالات پر یشاں ہیں برادر

اک غم ہے تو سویش کے سماں ہیں برادر "آوازِ حق"  
اکثر ناقدین کا خیال ہے کہ جوش کے یہاں "بین" کا فرقان ہے اور یہی اصل  
مقصدِ مرشیہ ہے۔ یہ بات تو پہلے کبھی جا چکی ہے کہ جوش صرف رونے رلانے کو مرشیہ کا مقصد  
نہیں سمجھتے تھے۔ پھر بھی ان کے یہاں مصائب کے بعض بند میکی ہو گئے ہیں۔

زارو نزارِ شنہ و مجرد و ناتوان تہا کھڑا ہوا تھا جو لاکھوں کے درمیاں  
گھیرے ہوئے تھا تیر و تبر نادک و سنان اور سورہ تھا موت کے بستر پہ کارروائی

انتنا نہ تھا کہ حق رفاقت سے کام لے  
گرنے لگیں اگر تو کوئی بڑھ کے قہام لے

جو ش اکثر بین کا تاثر مصائب کے بجائے صبر سے لیتے ہیں۔  
تھی جس کے دوش پاک پہل ولائی لاش انصار سفر و ش کی لاش اقربا کی لاش

عباس سے مجاهد تنے آزمائی لاش قائم سے شاہزادہ گلگوں قبا کی لاش

پھر بھی یہ ہن تھی صبر کی زلفوں سے مل نہ جائے  
اس خوف سے کہ حق کا جنازہ نکل نہ جائے

جس کا هجوم درد و الٰم سے یہ حال تھا سینہ تھا پاٹ پاٹ جگر پامال تھا  
رخ پر تھا تھنگی کا دھواں دل نڈھاں تھا اس کرب میں بھی جس کو فقط یہ خیال تھا

آتش برس رہی ہے تو برسے خیام پر  
آنے نہ پائے آج گرحق کے نام پر "حسین اور انقلاب"

بہر حال جوش نے اردو مرثیے کو ایک نیا موز دیا اور انھیں کے بنائے ہوئے راستے پر جدید مرثیے کا قابل رواں دواں ہے۔ خمیر اختر نقوی لکھتے ہیں:

”بہر حال جوش نے اردو مرثیے کوئی فکر اور نئی روح سے آشنا کیا۔ انہوں نے اپنے مرثیوں میں بلند آہنگی پیدا کرنے کے لیے خطابت کا انداز اپنایا۔ زم روی، افسروگی کے ذریعہ تازگی اور علائقگی پیدا کرنا ان کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس لیے جوش نے خطابت کی گھن گرج کو مرثیے میں کامیابی سے منتقل کیا۔“<sup>1</sup>

جوش کی مرثیہ نگاری کا ایک اور نمایاں پہلوان کا احساس حسن ہے۔ کربلا کے الیہ کے جان لیوا احساس کے ساتھ ان کے مراثی میں احساس حسن بھی ہے۔ عکیل الرحمن لکھتے ہیں:

”ادبی اور فنی نقطہ نگاہ سے جوش کے مرثیوں کا ایک پہلویہ ہے کہ وہ حسن کی ایک لطیف اور نازک ہمہ گیر اور تھہ دار تصویر پیش کرتے ہیں۔“<sup>2</sup>

### سید کاظم علی علامہ جمیل مظہری (1915-1980)

سودائے وقت علامہ جمیل مظہری نے بھی جوش کی طرح مرثیہ کا رشتہ قومی شاعری سے بوڑھے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب رہے۔ سودائے وقت اس لیے کہ سودا کی طرح جمیل مظہری بھی بیک وقت غزل، نظم، قصیدہ، مشنوی، رباعی اور مرثیے کے شاعر رہے ہیں۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنا پہلا مرثیہ بہت پہلے کہا تھا لیکن اس کی اشاعت بعد میں ہوئی۔ ان کا پہلا مرثیہ ”عرفان عشق“ 1930 میں شائع ہوا، اس لیے اردو مرثیے کو اہم موز دینے کا سہرا جمیل مظہری کے سر جاتا ہے۔

ان کے مرثیوں کی اشاعت پہلی بار پاکستان میں ہوئی۔ ڈاکٹر صدر حسین نے ان

<sup>1</sup> مشمولہ مخصوص، ”جوش کی مرثیہ نگاری“، ”ہما“، کا جوش نمبر، جولائی 1982ء، ص 86۔

<sup>2</sup> ”آج کل“، کا جوش نمبر، 1995ء، ص 65۔

کے چھ مرثیوں، چھ قصائد، تین سلام، دس رباعیات اور ایک رتائی نظم پر مشتمل "عرفان جمیل" 1969 میں لاہور سے شائع کی۔ ہندوستان کے اس عظیم شاعر کا کلام پاکستان سے شائع ہوا تھا۔ اس کے دس سال بعد 1979 میں سید ارشاد حیدر نے اس کا ہندوستانی ایڈیشن اصغریہ پبلیکیشن دریا آباد، ال آباد سے شائع کیا۔ جس میں نیر مسعود کا دیباچہ بھی شامل کیا۔ عرفان جمیل کی اشاعت کے بعد صدر حسین نے لاہور سے "وجدان جمیل" "شائع کی جس میں مذہبی نوعیت کی چند نظمیں اور تین مرثیے تھے۔

اس طرح جمیل مظہری نے 1930 سے 1980 تک دس مرثیے لکھے، جن کی تفصیل

یہ ہے :

		عنوان	عنوان
		عرفان عشق	عرفان عشق
32	تعداد بند	سنہ اشاعت	مصنوعہ اول
		1930	عشق کیا ہے غم ہستی سے رہا
			ہو جانا
93		1936	بیان وفا
			رہبری کرتی ہے مقصد کی
			اشاعت کیوں کر
120		1942	عزم حکم
			کھولا عروس شب نے جو
			زلف دراز کو
73		1951	مضراب شہادت
			جنپش سے میرے خامہ
			افسوں طراز کی
32		1956	ارباب وفا
			اے وفما تم ارباب وفا ہو کر
			نہ ہو
74		1957	اسفانہ ہستی
			خم بخم کا کل ہستی کافسانہ
			ہے عجیب
81		1963	شام غریباں
			شاعری بحر معانی کا تلاطم
			ہے جمیل

53	آج دنیا میں شب ہے نہ سویرا ہے جیل	1973	لحہ غور
55	قرباں ہے گر دراہ سفر کس سوار پر	1975	علامداروفا
73	یہ جو تخلیق کی اک رام کہانی ہے جیل	1980	حقیقت نور و نار

ان کے مرثیوں کو ہال نقوی نے بھی "جمیل مظہری کے مرثیے" کے عنوان سے حلقہ فکر و نظر کراچی سے 1988 میں شائع کیا۔

قدیم مرثیہ پر جو اعتراضات تھے، وہ کچھ اس طرح ہیں کہ مرثیے کا مقصد روشنالہا ہے۔ اس لیے شعراء شعری محاسن کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ یہ تصور کہ معمر کہ کربلا میں حصہ لینے والے مافوق طاقت بشری رکھتے تھے۔ کبھی مرثیے کے سامنے یا قاری کو ان کی پیروی اور تقليد نہیں کرنے دیتے تھے۔ مرثیے میں رزم و بزم کی زیادتی مرثیے کے موضوع کے خلاف ہے۔ مرثیہ نگار شعراء نے تاریخ سے انحراف کیا ہے۔ مرثیے کے اجزاء بناؤں ہیں اور مرثیے کے کرد اعرابی سے زیادہ ہندوستانی ہیں وغیرہ۔

ان اعتراضات کا جواب تو پروفیسر مسعود حسن رضوی، علی عباس حسینی، جعفر علی خاں اشکھنواز اور ڈاکٹر حسین فاروقی سے لے کر گوپی چند نارگ ٹک دے چکے ہیں۔ ان اعتراضات کو، جو کسی حد تک درست تھے، جدید مرثیہ نگاروں نے دور کر دیے۔ علامہ جمیل مظہری کے مراثی میں شعری حسن بھی عروج پر ہے۔ جذبہ تقليد پر بھی ابھارتے ہیں، تاریخی کسوٹی پر بھی وہ پورے اترتے ہیں۔ رزم کا ذکر بھی تناسب سے ملتا ہے اور اجزائے مرثیہ بھی بناؤں نہیں بلکہ فطری ہیں اور سب سے بڑھ کر ان کے مراثی میں جگہ جگہ عصری آگاہی کا اظہار ہوتا ہے۔

جمیل مظہری کا مزاج فلسفیا نہ ہے۔ انہوں نے اپنے علم و وجدان اور تجربے کی روشنی میں واقعات کر بلکہ جائزہ لے کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس سانحہ میں انسانی قدر وہ کوئی مکمل طور پر جلوہ گرد کیجھ سکتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ کربلا کی

معنویت کو دور حاضر کے سیاق و سبق میں موضوع بنانا کوئی آسان کام نہیں کیوں کہ اس کے مطالبات بہت سخت ہیں اور سخت ترین مطالب فکری عصر کا اضافہ ہے۔ جمیل مظہری علامہ اقبال سے بہت متاثر ہیں اور انہوں نے ایک فکری سرماڑے کو منظم کرنے کی کوشش کی ہے۔ محمد رضا کاظمی کا خیال ہے:

”جو شکرے مراثی چاہے کتنی ہی بصیرت کے حامل کیوں نہ  
ہوں بنیادی طور پر سیاسی ہیں۔ جمیل مظہری کے مراثی خواہ وہ سیاسی  
واقعات کا فوری رد عمل کیوں نہ ہوں بنیادی طور پر تاریخی ہیں ستارخ  
بھی وہ جو مذہبی اقدار کی حامل ہو۔ مذہب کے موضوع کو جمیل مظہری  
کے افکار میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔“<sup>1</sup>

جمیل مظہری نے اپنی مذہبی عقیدت کے پیش نظر امام عالی مقام اور ان کے رفقاء کو ثبات اور استقلال کے زندہ پیکروں کی صورت میں پیش کیا ہے، جو ثبات حق کے لیے بڑی بڑی قربانی بخوبی پیش کر سکتے ہیں۔ یہاں وہ مظلوم نہیں، مجاهد ہیں اور یہی ان حضرات کا حقیقی کردار ہے۔ ”عرفانِ عشق“ ڈاکٹر صدر حسین کے بقول مولانا ابوالکلام آزاد کے سیاسی نظریات سے متاثر ہو کر لکھا گیا۔ تمهیدی حصے کے بعد یہ بند ملاحظہ ہو۔

اے خوشادہ کہ جو فانوس ہدایت ہو جائیں      مشعل راہ سر وادیٰ غربت ہو جائیں  
اہل بیانش کے لیے دریں بصیرت ہو جائیں      ہو ضرورت تو شہید رہ ملت ہو جائیں  
عزم کچھ کر کے سوئے کوچھ قاتل پنجے  
تیر کر خون کا دریا سر ساحل پنجے

برق شمشیر کی چک کو تماشا سمجھیں      زخم کو اک شر نخلیٰ تمنا سمجھیں  
سیر چشمی سے سمندر کو بھی قطرہ سمجھیں      اپنی تلوار کو بس حاصل دنیا سمجھیں  
شدت عزم سے دنیا میں جگہ پا کے رہیں  
کروٹیں اپنے زمانے کو بدلا کے رہیں

1۔ ”جدید اردو مرثیہ“، محمد رضا کاظمی

پیش بھل کبھی زردن کو جھکاتے بھی نہ ہوں      رخ پھبر کے پر گنگ میں لاتے بھی نہ ہوں  
 تشنلب ہوں تو زبانِ لب پھرا تے بھی نہ ہوں      آنکھ کے سامنے دریا ہو تو جلتے بھی نہ ہوں  
 پختہ آب بقا ڈھونڈ لیں پینے کے لیے  
 مختصر یہ ہے کہ مر جاتے ہیں جینے کے لیے

ایسے مشائی کرداروں کی تلاش میں شاعر کا تختیل اسے میدان کر بلائے جاتا ہے۔  
 جس طرح اقبال کی نظم "حضر راہ" میں شاعر کا تختیل حیات و کائنات کے راز جانے کے لیے  
 جناب خضرتؐ کے لے جاتا ہے، اسی طرح نظمیہ تکنیک اپنا تے ہوئے جیل واقعہ کر بلائے آتے  
 ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ تمہیدی اشعار مرکزی موضوع "عرفانِ عشق" سے مناسبت  
 رکھتے ہیں۔

ایسے لوگوں کا جو تاریخ لگاتی ہے سراغ      کر بلائے نظر آتا ہے اک اجڑا ہوا باعث  
 چند قبریں شب تاریک میں منزل کا سراغ      سینٹے مادر گئی پہ غم ہجر کا داغ  
 گوشِ دل میں ابھی آواز ذرا باقی ہے  
 قافلہ بڑھ گیا نقشِ کف پا باقی ہے  
 معمر کہ وہ کہ جو تاریخ میں ہے لاثانی      وہ کڑی دھوپ وہ سورج کی پیش افشاںی  
 امتحان گاہِ محبت کی فضا طولانی      ننسے بچوں کی یہ فریاد کہ پانی پانی  
 مگر اللہ رے دل ان کا شجاعت ان کی  
 ڈمگانے نہ قدم وہ رے ہمت ان کی  
 مذکورہ بالا بند کو پڑھئے اور قوانی لاثانی، افشاںی، طولانی اور پانی پر غور کیجیے۔

ثار احمد فاروقی نے میر کے مسلسلے میں لکھا ہے کہ "میر" معمولی سے معمولی لفظ سے بھی  
 غافل نہیں،<sup>۱</sup> ممن درج ذیل اشعار میں لفظ "میر" کو بالترتیب تیزی سے اور آہستہ آہستہ ادا کیجیے۔  
 غمِ محبت میں میر صاحب پنگ ہوں میں فقیر ہوتم  
 جو وقت ہو گا کبھی مساعد تو میرے حق میں دعا کرو گے




---

۱۔ "تلash میر" ، ثار احمد فاروقی

گیا تھا اس کی گلی میں سو گیانہ بولا پھر  
میں میر میر کراس کو بہت پکار آیا

دوسرے شعر میں لفظ ”میر“ کو جتنا صحیح کر پڑھئے اتنا لطف آئے گا۔ لفظ میر کو اس انداز میں پڑھئے کہ جیسے کوئی پکار رہا ہو۔ اب لفظ لاٹانی، افشاری، طولانی اور پانی کو آہستہ آہستہ صحیح کر پڑھئے اور ان میں باہمی ربط و تضاد دیکھئے اور ”اللہ رے دل“ اور ”واہ رے ہمت“ پر تحریر اور عقیدت ملاحظہ فرمائیے۔

بچوں سے عشق کے نہیں ہوتا اور وہ بھی اپنے بچوں سے۔ ان بچوں کی پانی پانی کی فریادوں کے نیچے صبر کے ساتھ مصروف جہاد رہنا، یہ ہے عشقِ حقیقی کی منزل۔ اس میں عشق خدا، عشق رسول، عشق امت (امت کی شفاعت کا تصور) اور اعلیٰ انسانی قدروں سے عشق، سبھی کچھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی عشق کے پس منظر میں حضرت امام حسین اور ان کے جری رفقاء کے ظاہری اور باطنی اوصاف کو اس ایجاد و اختصار سے پیش کیے ہیں۔

مر گئے حمد خدا پیاس میں کرتے کرتے دم جو نکلا بھی تو دم عشق کا بھرتے بھرتے ہاتھ سے تنخ نہ چھوٹی کبھی مرتے مرتے قاتل آیا بھی پئے قتل تو ڈرتے ڈرتے

مر کے چہرے پر قسم رہے غازی ایے

سر کئے سجدہ خالق میں نمازی ایے ”عرفان عشق“

قوی مضافین اور سیاسی عضو سب سے زیادہ ”پیمان وفا“ (1935) میں موجود ہیں۔ جس سال جارج پنجم کی جو بلی منائی گئی اور انگریز حکومت نے محرم کی پرواہ کیے بغیر امام باڑوں میں چراغاں کا حکم دیا اور حکم کی تعییں ہو گئی تو قوم کی اس تسلیمی کو چند شعراً نے نشانہ بنایا۔ جیل مظہری نے اس مرشیہ میں تسلیمی کی تاریخ پیش کی اور خیر کے بجائے شرکی تاریخ پیش کی اور طنزیہ بوجہ اپنایا۔ حیف وہ قوم جو ہو ملت شاہ شہداء وہ حکومت کی کنیزی میں یہ حیرت کی ہے جا جس طرف دیکھئے ہے موت کا اک سناثا نہ کوئی پیر تدری ، نہ جوان غوغما

جسم ہیں مدفن دل مجلسیں گورستان ہیں

بستیاں روچ کی اک وادی خاموشائیں ہیں

جائے عبرت ہے ترے حال پے قوم مغفور رخ پکھت کا اثر، دل میں غلامی کا سرور  
نہ اخوت کی تڑپ ہے، نہ سیاست کا شعور نہ خرد ہے نہ جنوں ہے نہ حیا ہے نہ غرور  
زندگی میت احساس ہے دل مردہ ہیں

جتنے جذبات ہیں قوی وہ سب مردہ ہیں

ہے لقب آج ترا امت گرال اے قوم نگ ہے تیرے لیے عرصہ امکال اے قوم  
منفعل تجھ سے ہوئی گردش دورال اے قوم رائیگاں تجھ پہ ہوا خون شہیداں اے قوم  
غم شیر میں کس مند سے ہے تو فریادی  
تجھ سے خود ہے ترے مولا کا لہو فریادی

جمیل مظہری قوم کو نصیحت کرنے کے ساتھ ماضی کی تشریح بھی کرتے جاتے ہیں۔ مکہ سے کربلا  
تک مختلف مقامات پر امام عالی مقام کی تبلیغ کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے  
خطبہ حضرت کامل تھا جوابی چپ تھے عمل سود و زیار کے وہ حسابی چپ تھے  
نظر آتی تھی انھیں اپنی خرابی چپ تھے انہا ہے کہ پیغمبر کے صحابی چپ تھے  
گوئی کر رہ گئی شاہ دوسرا کی آواز

ایک بندہ نہ اٹھاں کے خدا کی آواز

دوسرامنظر عداری کا کوفہ کا منظر ہے۔ جب ابن زیاد کے کہنے پر کشیر ابن شہاب خاصان حصین  
سے مخاطب ہوتا ہے۔

کی منادی کہ بغاوت کا جو دیکھے خواب اس پر آئے گا خداوند خلافت کا عتاب  
ضبط ہو جائیں گے سب منصب وجا گیو خطاب تھا جو اک نگ خطیبان عرب ابن شہاب  
شہریوں کو سربام آکے جو دھمکانے لگا  
اس کی تقریر سے ہاتھوں پر عرق آنے لگا

قصر حاکم کو جو گھیرے تھے وہ غازی بھاگے توڑ کر بیعت مولائے حجازی بھاگے  
جو لوگائے تھے سرہ جسم کی بازی بھاگے جو تیاں چھوڑ کے مسجد کے نمازی بھاگے  
پائی آہست جو سواروں کی توجی چھوٹ گئے  
رشتے ایمان کی نیت کی طرح ٹوٹ گئے

ڈاکٹر صدر حسین ”عرفان جیل“ کے دیباچہ میں لکھتے ہیں۔

”مرشیہ کی غایت چونکہ ہیرود کے اوصاف بیان کر کے ایک غم انگیز فضا کی تخلیق ہوتی ہے، اس لیے جہاں شاعر اپنے ہیرود کے اوصاف سے ہٹ کر قوم کو نصیحت کرنے لگے وہاں مرشیہ اپنے مرتبہ سے گر کر قومی نظم بن جائے گا۔ چنانچہ ہم مظہری کے اس نوع کے اشعار کو مرشیہ کے حدود سے خارج سمجھیں گے۔“

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیرود کے اوصاف سے کیا مراد ہے؟ یا یہ کہ مرشیہ کی غرض غایت کیا ہے؟ کیا واقعہ کر بلکہ مخفی ایک باب ”درد“ ہے، کیا اس کا ایک باب ”درس“ نہیں ہے؟ کیا سیرت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کر کے سخت مند معاشرے کی تعمیر و تشكیل کی کوشش کرنا کوئی عیب ہے؟ اس میں ڈاکٹر عقیل رضوی نے صدر حسین کی عبارت ہی سے ایک لفظ ”ہیرود“ کو لے کر اپنی بات اس طرح کہی:

”اگر لفظ ”ہیرود“ انگریزی تہذیب پسندی کے سماج میں امام حسین کے لیے قابل قبول ہے اور اس لفظ کے استعمال سے مذہبی عقیدت پر چوٹ نہیں پڑتی (کیونکہ ہیرود اصلًا ڈرائے اور فلم کے ایکثر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور واقعہ کر بلکہ خیالی ڈرامائیں) تو مسائل اور مصائب زمانہ جن سے مرشیہ نگار اور اس کا سماج گذر رہا ہے، اس کا تذکرہ غم حسین کی شدت (Intensity) کو کم کیسے کر دے گا۔“

شاید ڈاکٹر صدر حسین کا خیال یہ ہو کہ یہ مضامین مرشیہ کے موضوع سے بالکل الگ نہ ہو جائیں، جیسے جوش کا مرشیہ ”زندگی اور موت آں محمد کی نظر میں“، ”زندگی سے متعلق بند مرشیہ کے تقدیس کو مجرد ہے ہیں۔ جمیل مظہری میں یہ عیب نہیں پایا جاتا۔ جمیل نے مرشیہ کے مرتبے کو گھٹانے کے برعکس واقعہ کر بلکہ نفیاتی، سیاسی اور سماجی پس منظر کو سامنے لا کر مرشیہ کے مضمون کو وسعت دی۔

ڈاکٹر صدر حسین نے یہ مقدمہ 1969 میں لکھا جب کہ 1943 میں "مرثیہ بعد انیں" میں انہوں نے تو مضمایں کی شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ ان کی مراد مرثیہ کی داخلی بیان سے ہو سکتی ہے لیکن نظمیہ عنصر کی افادیت کے متعلق انہوں نے کچھ نہیں لکھا۔

جمیل مظہری کی زبان میں ایک وقار ہے۔ وہ علمی و فکری عصر کو خطیبانہ الجیع عطا کرتا ہے نیز مکالمہ نگاری اور منظر نگاری دونوں میں یکسا نیت پیدا کرتا ہے۔ قوی موضوعات کے ساتھ ساتھ مرثیہ کے کلاسیکی عصر کے ساتھ بھی جمیل نے انصاف کیا۔

1942 کے بعد لکھے گئے مرشیوں "عزم حکم"، "مضراب شہادت" اور "افسادہ ہستی" میں انہوں نے کلاسیکی سانچے کا استعمال کیا۔ اس دور میں سیاسی عصر کی کی کے ساتھ ساتھ فلسفیانہ عصر میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جمیل مظہری نے رزم نگاری میں روحانی اور مادی قوتوں کے مزاج کی کیفیت کو تولا ہے اور ظاہری جنگ کے دوران بھی مظلوم اور ظالم کو ایک سطح پر نہیں لاتے۔

فرمایا کچھ تھے ہوئے گردن سے تیر کو  
احسنت حرملہ ترے نفس شریر کو      "مضراب شہادت"  
ان کی مقبولیت کے اسباب میں مناظر فطرت، ساتی نامہ اور مکالے بھی ہیں۔  
کلاسیکل سانچے کے استعمال میں وہ میر انیں سے قریب نظر آتے ہیں۔ منظر نگاری میں انیں کے یہاں تشبیہ کا استعمال زیادہ ہے اور جمیل کے یہاں استعارے کا۔ لیکن ما حول کی تغیر میں انیں کا ثانی نہیں۔

ان کے کلام میں تشق کارنگ بھی ملتا ہے گر جمیل کے یہاں تغزل میں غنائیت زیادہ

— ہے —

"شام غریباں" کے ذکر کے بغیر جمیل مظہری کا مطالعہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ مرثیہ جمیل کا شاہ کار مرثیہ ہے۔ جس میں کلام جمیل مظہری کے سارے محاسن موجود ہیں۔ یہاں قوم کی اصلاح کے مضمایں نہیں۔ لیکن طنز کے نشتر ہیں جو بین کی شکل میں ہیں اور جذبات نگاری

کے جو ہر دکھائے گئے ہیں۔ قدیم مراثی پر اعتراض تھا کہ اس میں مخدرات عصمت کے صبر کی نفی کی گئی ہے۔ جمیل نے جناب نسب کے کردار کی بھرپور عکاسی کی ہے اور ان کے صبر و ایثار کو سامنے لائے ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں ۔

گونجنا وقت گرتا ہوا رن ختم ہوا  
لہلہتا ہوا بچوں کا چین ختم ہوا



آنکھوں آنکھوں میں لیے شام غربیں آئی



دشت میں گنج شہیداں کی بہار ایک طرف	زرد چہروں پہ پتیں کا غبار ایک طرف
دیسی دیسی سی وہ اشکوں کی پھوار ایک طرف	سہی سہی ہوئی پانی کی پکار ایک طرف
ہنہناتے ہوئے گھوڑوں کی صدائیں اک سمت	
سوکھ سوکھے ہوئے ہونتوں پر دعائیں اک سمت	



موچیں دریا کی ہیں خاموش ہوانیند میں ہے	بے کسی چبپ ہے گروہ شہداء نیند میں ہے
ہر اسرالم و رنج و بلا نیند میں ہے	سوئی ہے غیرت حق قہر خدا نیند میں ہے

کون پھرے پہ ہو بہت اسدرب کے سوا	کوئی بے دار نہیں ہے دل نیند کے سوا
---------------------------------	------------------------------------

آنکھیں اشکوں سے ہیں نہ روح حزیں قلب اداں	بال چہرے پہ پریشاں ہیں مگر جمع ہواس
ہاتھ میں نیزہ خطی لیے باحالت یاس	کبھی اس لاش کے پاس اور کبھی اس لاش کے پاس
کبھی خیمے میں ہیں عابد کی چٹائی کے قریب	
کبھی عباس کے لاشے پر ترا کی کے قریب	

وقت نے سونپ دیا فرض قیادت مجھ کو  
بلنے دیتا نہیں احساس امانت مجھ کو  
اب تو رو نے کی بھی ملتی نہیں فرصت مجھ کو  
کیا کہے گی علی اکٹر کی محبت مجھ کو  
وہ جو سوئی ہے تو سوئے شہداء آئی ہوں  
لوریاں دے کے سکینہ کو سلا آئی ہوں  
مجھ کو اٹھنے نہیں دیتا کوئی بچہ اماں میں جو بیٹھوں تو پھرے کوں طلایا اماں  
اس کو بہلاوں کہ دوں اس کو دلاسا اماں وہ اگر باپ کو پوچھیں تو کہوں کیا اماں  
یہ تو ممکن ہے کہ لوٹدی ہوں، دایہ بن جاؤں  
کس طرح ان کے لیے باپ کا سایہ بن جاؤں

مسدس میں تیسرا مصروع کی تبدیلی:

”عرفان جبیل“ کی اشاعت کے بعد جبیل کے دس مرثیوں میں سے تین مراثی  
”لمحہ غور“، ”علم دار وفا“ اور ”حقیقت نور و نار“ تیرے مصروع کو غیر مقید کر کے لکھے گئے  
ہیں۔ ن۔ م۔ راشد نے اپنی ایک لکم ”رخصت“ (1941) کے کچھ حصے مسدس کی شکل میں  
کہے تھے اور مسدس کے تیرے مصروع کو قافیہ اور ردیف کی قید سے آزاد کر دیا تھا۔  
جبیل مظہری کے نزدیک یہ نمونہ تھا یا نہیں اس سلسلے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ہیئت کی اس  
تبدیلی کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بقول عنوان چشتی:

”ہر دور میں شعری ہیئت کے تجربے ہوتے رہے ہیں اور  
ہوتے رہیں گے۔ ابھی تک تکنیک اور ہیئت کے تمام امکانات سے  
فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ اس لیے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں  
ہیئت کے تجربات کا ذخیرہ اور بڑھے گا اور ان میں توازن پیدا ہو گا مگر  
کوئی تجربہ محض مشق و مژاولت کی بنیاد پر زندہ نہیں رہے گا بلکہ وہی  
تجربے زندہ رہیں گے جن میں اعلیٰ شعری خوبیاں ہوں گی۔“<sup>1</sup>

عنوان چشتی نے وہی بات کہی ہے جو سید احتشام حسین بہت پہلے کہے گئے ہیں۔

<sup>1</sup> ”اردو شاعری میں ہیئت کے تجربے“، عنوان چشتی، ناشر انجمن ترقی اردو ہند 1995ء، ص 25

”تَقْيِيدِي جائزے“ میں ایک مضمون ”مواد اور ہیئت“ کے نام سے ہے، جس میں احتشام صاحب فرماتے ہیں:

”ہیئت کا تعلق مواد کے تغیر سے ہے اس لیے دونوں پر ایک ساتھ نظر ڈالی جاسکتی ہے۔ صرف ہیئت میں تغیر بالکل بے معنی سی بات ہے اور ضرورت کے وقت ہیئت کا تبدیل نہ ہونا یا اسے تبدیل نہ ہونے دینا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔“ ۱

آل احمد سرور حنیف کیفی کی کتاب ”آزاد نظم اور نظم معریٰ“ کے دیباچے میں لکھتے ہیں:

”زندگی جب کروٹ بدلتی ہے، نئے خیالات سامنے آتے ہیں اور نئے تجربات دل و دماغ کو متاثر کرتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پرانی ہیئت پرانا فارم ان تجربات کے اظہار کے لیے ناکافی ہے..... نئے فارم میں یہ تجربہ زیادہ موثر ہوتا ہے۔“ ۲

مرثیہ ہیئت کی مزدوں سے گزرتا ہوا جب مسدس تک پہنچا تو دوسری ہمیتوں میں تجربے کا عمل ختم ہو گیا تھا۔ مسدس کا سفر انہیں دوسری، حالی اور چکبست اور پھر اقبال اور جوش اور خود علامہ جمیل مظہری تک ایک تاریخ بن چکا ہے۔ ایسے میں تیرے مصروع کی تبدیلی کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میر عبد اللہ مسکین کی طرح چوتھے مصروع کو ردیف اور تلقینہ کی قید سے آزاد کیوں نہیں کیا گیا؟

درachi ہیئت کا فریم (مسدس) مرثیے میں ایک نئے زاویے سے استعمال ہوا۔ مرثیے نے مسدس کی معنوی ترکیب کو بھی متعین کر لیا۔ مرثیے کا ہر بند پیرا اگر فیکل ترتیب کے لحاظ سے مربوط ہوتا ہے۔ ہر بند کے آخر کا مضمون معنوی طور پر اگلے بند کے سرے سے ملنا چاہیے۔ بند کا تیرا مصروع مضمون کو اٹھانے کے کام آتا ہے، چوتھے مصروع میں شعر کی اٹھان

۱ ”تَقْيِيدِي جائزے“۔ سید احتشام حسین۔

۲ ”اردو میں آزاد نظم اور نظم معریٰ“، حنیف کیفی، دیباچہ آل احمد سرور۔

صاف نظر آتی ہے تاکہ بیت کا مضمون تیرے اور چوتھے صدرے کی حیثیت کے مطابق آگے بڑھے۔ بقول آل احمد سرور:

”...بیت یا شیپ میں پورے خیال کو سمیٹ کر ایک ایسی منزل پر لانا ہوتا ہے جو پورے سفر کا سنگ میل بن جاتی ہے... اس لیے ہر بند کے چار صدرے سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے ہیں۔“ ۱

اور بقول سعیج الزماں:

”ہر چار صدرے کے بعد دو صدرے دوسرے قافیہ اور رویف کے ساتھ آتے ہیں جس سے اگلے بند کے لیے ایک شہر اول جاتا ہے اور سننے والوں کو یکسانیت کی بے کیفی کا احساس نہیں ہونے پاتا۔“ ۲

ڈاکٹر اکبر حیدری نے بھی اس رائے کا اظہار کیا ہے:  
”مدرس کی شکل میں چار صدرے ایک ہی رنگ کے قافیے کے آتے ہیں تو تحت اللفظ پڑھنے میں تصوری کشی، تاثر، انفعال اور اثر پذیری نہیں ہوتی ہے۔“ ۳

ہیئت کی اسی بحث کو آگے بڑھانے کے لیے پروفیسر اخشم حسین کا قول بھی ملاحظہ ہو:  
”چونکہ تحت اللفظ خوانی میں بھی مدرس میں مدد و ملتی ہے اس لیے ہر وہ مرثیہ جو اس طرح پڑھنے کے لیے لکھا جاتا ہے، مدرس ہی کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرثیے کی معین ہیئت

ہے۔“ ۴

۱۔ مضمون ”انیس کی شاعرانہ عظمت“، آل احمد سرور، مشمولہ انیس شناسی، مرتبہ گوپی چند نارنگ، ص 15۔

۲۔ ”اردو مرثیے کا ارتقاء“، سعیج الزماں، نظامی پرنسپل کھاؤ 1968، ص 45۔

۳۔ مضمون ”انیس اور مدرس“، ڈاکٹر اکبر حیدری، مشمولہ ”مضمون، ماہنامہ آج کل“، شمارہ، جون، 1975، انیس نمبر، ص 53۔

۴۔ ”معراج فکر“، ڈم آفندی ہقدمدہ پروفیسر اخشم حسین، مطبوعہ سرفراز قوی پرنسپل کھاؤ، جنوری، 1960، ص 17۔

چوں کہ مسدس میں تیرا مصرعِ مضمون کو اٹھانے کے کام آتا ہے۔ رباعی میں تیرا مصرعِ روایف اور قافیہ کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ اس لیے جمیل مظہری نے تیرے مصرعے کو تبدیل کر کے ابلاغ کی گنجائش بڑھانے کی کوشش کی۔ ہلال نقوی لکھتے ہیں:

”جمیل مظہری نے تیرے مصرعے کو مقید کر کے مسدس کو ایک نئی سمت دی ہے۔“<sup>۱</sup>

ہلال نقوی جدید مرثیہ نگار ہیں اور انہیں تخلیقی تجربہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابلاغ کی گنجائش اس سے بڑھ جاتی لیکن ڈاکٹر عقیل رضوی کا خیال، جو خود ہلال نقوی کے بارے میں ہے:

”یہ تجربہ کوئی بہتر تجربہ نہیں بلکہ محض تجربہ برائے تجربہ ہے۔ مسدس کے فارم میں شعراء نے اصولی طور پر یہ لحاظ رکھا تھا کہ مسدس کے چاروں مصروعے ایک روایف و قافیہ میں تو ہوں گے مگر ایک کے بعد ایک مصروع بیان واقعہ کو تیز کرتا جائے گا (کمرور شاعر ایسا نہیں بھی کر پائے مگر اصول یہی تھا جو کہیں لکھا نہیں ہے) اور بیت بیان واقعہ کو سب سے زیادہ بلند کر کے بیان کا نتیجہ بھی پیش کرے گی۔ اس لیے بیت کو سست نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک خیال کا نقطہ عروج کبھی جاتی ہے۔ ہلال نقوی کا تیرے مصروعے کو الگ کر لینے کا رویہ خیال کو رفتہ رفتہ عروج کی طرف لے جانے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اس مصروعے پر اسی لیے خیال کے بیان میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے ہم جدت برائے جدت ہی سمجھیں گے۔ اگر اس طرح کے تجربے کرنے ہی ہیں تو عمری مرثیوں کی کوشش کی جاسکتی ہے۔ آزاد نظم کی صورت اختیار کی جائے یا بالکل فری و رس اور نثری نظموں میں یہ تجربے کیے جائیں، شاید کچھ اچھے مرثیے نکل آئیں۔ مسدس کے فارم

<sup>۱</sup> ”نیسویں صدی اور جدید مرثیہ“، ہلال نقوی

کو بگاڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔“<sup>1</sup>

عقل رضوی صاحب نے یہ بات ہال نقوی کے مرثیوں کے سلسلے میں کہی یکن جمیل کے مرثیوں کے بارے میں خاموش رہے (شاید مصلحت)۔ اگر وہ جمیل مظہری کے تجربات پر کچھ روشنی ڈالتے تو شاید اس بات پر مزید غور کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی تبدیلی چاہے وہ موضوع و موارد کی سطح پر ہو یا بیت کی سطح پر اس کے متعلق فوراً فیصلہ کرنا آسان نہیں۔ آخر مرثیہ میں توی مضامین کے متعلق بھی تو اعتبر اضافات کا سلسلہ چلتا رہا۔

بہر حال جمیل مظہری نے ہیئت اور موارد دونوں سطحوں پر تجربات کیے اور وہ اس صدی کے سب سے بڑے مرثیہ نگار ہیں۔ ”عرفان جمیل“ پر تبصرہ کرتے ہوئے شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں :

”جمیل مظہری نے مرثیے میں بعض ندرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک طرح سے جوش بلح آبادی کے طرز مرثیہ گوئی میں نیار گنگ بھرا ہے۔“<sup>2</sup>

پروفیسر مجتبی حسین لکھتے ہیں :

”جمیل مظہری کے مرثیے اعلیٰ شاعری کی اعلیٰ مثال ہیں۔“

اتنی زخمی گمراہی پر سکون آواز اردو شاعری میں تلاش کرنے پر بھی شاید ہی ملے۔ الیہ شاعری کو کیا بنادیتا ہے اور شاعری الیہ کو کیا کچھ کر دیتی ہے، جمیل مظہری کے مرثیے کا مطالعہ یہ راز مکشف کر دیتا ہے۔“<sup>3</sup>

### سید آں رضا (1896-1978)

سید آں رضا نے ابتداء میں غزلیں کیں۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام ”نوائے رضا“<sup>4</sup>

<sup>1</sup> ”مرثیے کی سماجیات“، عقل رضوی، نصرت پبلیشورز، لکھنؤ، ص 155۔

<sup>2</sup> عرفان جمیل پر تبصرہ، شمس الرحمن فاروقی، مشمولہ ”شب خون“، الہ آباد، شمارہ اگست تا نومبر، 1986، ص 70۔

<sup>3</sup> جمیل مظہری کی مرثیہ نگاری، علم کی مابعدالطبعیات، پروفیسر مجتبی حسین، مشمولہ ”کائنات“ ہدایت گڑھ، علامہ جمیل مظہری نمبر، اپریل- جون، 1982

<sup>4</sup> ”نوائے رضا“، سید آں رضا، مطبوعہ نظامی پرنس، لکھنؤ، 1929

1929 میں شائع ہوا۔ ان کی غزلوں میں بھی واقعہ کربلا کی گونج سنائی دیتی ہے۔  
 زبان حرفِ دعا، بحمدے میں سر اور خاک پر بجدہ  
 ہوئے ہوں گے کم اتنے خیر مقدم تحقیق قاتل کے



اے رضا پڑھ لومجعت کی نماز آخر  
 عصر کا وقت ہے خورشید لب با م آخر



شہید ناز تیری بے گناہی کی شہادت ہے  
 ہمیشہ کو زمانے بھر کا ماتم دار ہو جانا  
 بیسویں صدی کے ربع اول کے بعد تک اگرچہ ان کے زمانے میں روایتی طرز پر  
 مرثیہ لکھنے والے موجود تھے لیکن آں رضا، خجم آفندی سے بہت متاثر ہوئے اور پہلا مرثیہ  
 1939 میں لکھا۔ (بقول سید صدر حسین ۱ فروری 1939) تقسیم کے پہلے انہوں نے دو مرثیے  
 کہے:

”کلمہ حق کی ہے تحریر دل فطرت میں“، 1939، ”قاولدہ آل محمد سوئے شام چلا“،  
 1944۔ تیسرا مرثیہ ”بھار پر ہے زمانہ نزولی قرآن کا“ 1946 میں لکھنا شروع کیا اور ترقیم ہند  
 کے بعد اسے کراچی میں مکمل کیا۔ ان کا بیک مرثیوں پر مشتمل مجموعہ ”مراٹی رضا“ کے نام سے  
 خراسان اسلامک ریسرچ سنتر، کراچی سے 1981 میں شائع ہوا۔ اول الذکر دونوں مرثیے  
 ”شہادت سے پہلے“ اور ”شہادت کے بعد“ کے نام سے شائع ہوئے۔ یعنی شہادت کے  
 اسباب و علل اور اس کے نتائج، انہیں دور خون کو آل رضانے اپنے مرثیے کا موضوع بنایا ہے۔  
 ان کے مرثیوں میں اسی تصور کو مرکزیت حاصل ہے۔ انہوں نے روایت قدیم کے مطابق،  
 چہرہ، گرین، رخصت، میدان جنگ میں آمد، جنگ، شہادت اور دیگر اجزاء مرثیہ کو طبوظونہیں  
 رکھا۔ وہ مرثیے کو نیا انداز دینا چاہتے تھے۔ ہر صاحب فکر شاعر کی طرح ان کے مراٹی میں

1 ”رمزنگار ان کربلا“، ڈاکٹر سید صدر حسین، منگ میل ہبھی کیشنز، لاہور، 1977

بصرا نہ پیرا یہ اظہار ملتا ہے۔

انھوں نے اپنے فن کے بارے میں اپنے مرثیے "انیں اہل ادب ہے وقارِ مجبرا کا"  
میں اظہارِ خیال کیا ہے ۔

ہر اک زمانے میں اجزاءِ مرثیہ بدلتے تھے ایک دور ہتھی میں مرثیوں کے رنگ نئے  
کہو ضرور کہو جو بزرگ کہتے تھے مگر کچھ اپنی طرف سے بھی خاص بات رہے  
کلام غیر کو اپنا لیا تو کیا حاصل  
اول بدل کے وہی کہہ دیا تو کیا حاصل

روایتی اجزاء ترکیبی کو نظر انداز کرنے کے باعث "رجز" ان کے مرثیوں میں نہیں  
آیا لیکن متصادم قوموں کا سرپا انھوں نے اس طرح پیش کیا ہے۔

منتظر وقت کو تھا ایسے ہی ایثار سے کام ارتقا دو نظریوں کا ہوا طشت ازبام  
ایک اسلام سے منسوب حکومت کا نظام دوسرا مورد آلام حقیقی اسلام  
ایک سرچڑھ کے بیزید اموی میں ابھرا  
دوسرا پس کے حسین ابن علی میں ابھرا

اس کو یا کہ کہ نیا دین کا افسانہ بنے اس کو یہ فکر کہ اسلام تماشا نہ بنے  
اس طرف یہ کہ مٹا ڈالیں جو ویسا نہ بنے اس طرف وہ بھی نہیں غیر جو اپنا نہ بنے  
زعم اس کو کہ ابھی چوتھ کڑی باقی ہے  
ناز اس کو کہ حسین ابن علی باقی ہے

ان کے مرثیوں کا انداز اکثر تشریحی بھی ہے اور واقعی عصر انختار کے ساتھ پیش کیے ہیں۔

شہادت کا منظر ایک بند میں پیش کیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

چمن حق میں دیا سینہ اکٹھ کا لہو بازوئے حضرت عبائش دلاور کا لہو  
سر قاسم کا گلوئے علی اصغر کا لہو جتنا باقی رہا اپنے تن لاغر کا لہو  
خون دے دے کے ہر گلشن اسلام کیا  
تھا جو نانا کا نواسے نے وہی کام کیا

ان کا ایک اور مرثیہ "عظمت انسان" (1966) ہے۔ اس مرثیے میں انہوں نے سیاست سے الگ ہو کر فلسفہ کی وادی میں تقدم رکھا ہے۔ ایک بند میں انہوں نے خودی کے مسئلے پر اظہار خیال کیا ہے وہ عشق کو عقل پر فوقيت دینے کے قائل نہیں۔ وہ انسان کی خواہشات کو اس کے ارتقائی مقاصد کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ محمد رضا کاظمی لکھتے ہیں:

"جناب آل رضا بیسویں صدی کے فکری دھاروں سے  
الگ نہیں رہے اور انہوں نے جدید حوالوں کے ساتھ ساتھ اپنا انفرادی نقطہ نظر پیش کیا ہے۔" ۱

اسلام کی سماجی تعلیم کو اس طرح پیش کیا ہے۔

قرآن دے رہا ہے وہ دستورِ ذی حیات شایان زندگی ہو کہ ہے زندگی کی بات کی حدود میں رہ کے بنائے گئے صفات جنسی تعلقات ، معاشی معاملات کیا نرم و احتیاط ہے کیا آن بان ہے  
اسلام اعتدال برتنے کی شان ہے  
ڈاکٹر عقیل رضوی، آل رضا کی مرثیہ گوئی پر اظہار خیال کرتے ہوئے "مرثیے کی سماجیات" (ص 65) میں لکھتے ہیں :

"ان کے یہاں بھی "انسانی دوستی" اور "عظمت انسان" کی تلاش اور تاسی پر سب سے زیادہ زور ہے مگر وہ جذبہ حریت نہیں جو کسی تحریک یا انقلاب تک مرثیے کی فضا اور ماحصل کو لے جائے۔"

آل رضا کے یہاں انسانیت اور انسان عظمت کے لیے اشعار اور مصروع اس طرح ملتے ہیں۔  
انسانیت ہے طرہ انسان کا امتیاز  
جس کو کیا ہے علم و تعلق سے سرفراز



باتیں یہاں وہ ہوں جو ہیں انسانیت نواز



1۔ "جدید اردو مرثیہ" ، محمد رضا کاظمی ، مکتبہ ادب ، کراچی ، ص 204

انسان کا فرض ہے کہ رہے راہ راست پر



اپنی بھی حدیبی جو بحمد لے کوئی بشر  
پستی پسند طبع بناتی ہے پست تر



انسانیت کو ہے عملی زندگی سے کام  
افراط علم و طرزِ سلامت روی سے کام



ہاں کار نامہ ہائے مثالی امہر کے آؤ  
انسان نواز تم ہو، میں آدمی بناؤ

صفدر حسین کا قول بھی قابل غور ہے، لکھتے ہیں:

”ان کے بعض بعض مصرعے ہماری سیاسی زندگی کے لیے  
پوری پوری تنقیدیں ہیں جن پر حسینی کار ناموں کی مہر حمایت ثبت کی گئی

ہے۔“<sup>1</sup>

آل رضا کے مرثیوں کی ایک اہم صفت ان کا درس انسانیت ہے اور انسانیت کے معیار کی صراحة کے لیے اسلام کے بلند کرداروں کو سامنے رکھا ہے۔ انسانیت کا یہ مثالی تصور کسی حد تک الوہی بھی ہے۔ اسی لیے ایسے کرداروں کی تصور کیشی کی ہے، جن کی انسانیت مثالی ہے۔ قرآن و حدیث کی مدد سے انسانیت کے اسلامی تصور کو پیش کیا ہے۔ ان کے مرثیوں کی بنیاد حسینیت کی تشریع ہے۔ حسینیت ہی ان کے نظام فکر کا مرکز و محور ہے۔

وہ خشک خشک لبوں پر خدا کی حمد و شنا ادائے فرض کا احساس آپ اپنا صلا

زبان تشنہ لبی پر نہ آسکا شکوہ جسے رہے وہ قدم اور بہا کیا دریا

بلا کی پیاس میں پیاسی نظر نہیں ترسی

حسینیت کی گھٹا ٹوٹ ٹوٹ کر بری

<sup>1</sup> ”مرثیہ بعد انبیاء“، صدر حسین، ”نگار“، دسمبر، 1943ء، ص 202

سید آل رضا نے اپنی مرثیہ گوئی کی وضاحت اس طرح کی ہے :

”میرے یہاں حسینیت کے عناصر اربع ہیں (1) انسانیت،

(2) اسلام، (3) تقلیل، (4) کربلا۔“

ان کے مرثیے اس کے عملی اظہار کی صورت ہیں۔ آل رضا نے بیسویں صدی کے چند مسائل اٹھائے ہیں۔ نماج میں عورتوں کی اہمیت کا مسئلہ اس دور کا اہم مسئلہ ہے۔ پتنہیں تحریک نسوان سے کس حد تک متاثر تھے، لیکن انہوں نے ”شریکۃ الحسین“ میں حضرت زینبؓ کے کردار اور ان کے عمل کی مرقع کشی کی ہے لیکن تاریخی صداقت کے ساتھ۔

### (جناب زینبؓ کا خطبه)

آل انصاف اب انصاف سے اتنا کہہ دیں      یہاں بلکہ کنیزیں ہوں تری پردے میں  
حرم احمدؐ مرسل پہ پڑیں یوں نظریں      در بدر خاک بسر، نرغہ اعدا میں پھریں  
کیوں یہی وقت تھا بے شرم اس آفت کے لیے  
ندہا جب کوئی مردوں میں حفاظت کے لیے  
آل حرم کا کوفہ میں آتا۔

جدبہ خاص کی رو میں جو چلا مجمع عام      خرمے پھیلنے گئے بیچاروں پر خیرات کے نام  
بھوکے پیاسوں کی زبال پرو ہیں آیا یہ کلام      لوگو ہم آل محمدؐ پر تقدق ہے حرام  
پھر تو مجمع کا عجب رنگ نظر آتا تھا

شور بے تابی گریہ سے بڑھا جاتا تھا  
مختصر آیہ کہا جا سکتا ہے کہ آل رضا نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ واقعہ کربلا میں  
جو سبق پوشیدہ رہ گیا ہے، اس کی طرف عوام کو متوجہ کیا جائے۔ ہلال نقوی لکھتے ہیں:

”بیان واقعات میں اشاروں سے کام لینے کی روشن جدید  
مرثیے کا منفرد رنگ ہے۔ اسے معاصر شعراء میں خصوصاً آل رضا نے  
بہت وسعت اور تقویت دی۔ وہ اس ضمن میں روایتی مرثیوں سے

ہٹ کر اپنی راہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔“<sup>1</sup>

### سید قائم رضا قائم نسیم امر وہوی (1908-1987)

شاعری کی روایت نسیم کو خاندانی ورشہ میں تھی۔ ان کے دادا شیم امر وہوی بھی مشہور مریشہ نگار تھے اور فرزدق ہند کہے جاتے تھے۔ انھوں نے اپنے مریشے ”اے مہر آج ہم پہ فلک مہربان ہے“ کے دوسرے بند میں خود کو امام محمد تقیٰ کے اخلاف میں شامل بتایا ہے۔ مریشہ نگاری کی روایت نسیم کے پرداوا سید حیدر حسین یکتا کے زمانے سے ملتی ہے۔<sup>2</sup> جسے مریشہ نگاری میں حیدر حسین یکتا نے طرز دیر کی پیروی کی۔ نسیم کے دادا شیم امر وہوی بھی مشہور مریشہ نگار تھے۔ ان کے والد سید بر جیس حسین بھی مریشہ لکھتے تھے۔

نسیم کی زندگی کا بڑا حصہ امر وہو سے باہر مختلف مقامات پر ملازمتوں میں گذرًا۔ ملازمتوں کا یہ سلسلہ 1928 میں امر وہو سے شروع ہو کر میرٹھ، لکھنؤ، رام پور اور خیر پور جیسے شہروں سے ہوتا ہوا 1979 میں کراچی میں تمام ہوتا ہے۔<sup>3</sup> 28 فروری 1987 کو وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئے، جسے سفر آخرت کہتے ہیں۔

نسیم کی غیر معمولی صلاحیت ان کے خاندان کا ادبی ورشہ کبھی جا سکتی ہے، جس کا ذکر انھوں نے ہلال نقوی سے کیا تھا۔ نسیم کا بیان ہے۔

”چار پشتوں سے میرے اسلاف مریشہ کہتے چلے آئے  
ہیں۔ اگرچہ میرے والد اور دادا کا، جو مریشہ گوئی میں شہرت رکھتے تھے،  
اس وقت انتقال ہو چکا تھا جب میری عمر چار پانچ سال سے زائد نہ“

1 ”بیسویں صدی اور جدید مریشہ“، ہلال نقوی، جس 626۔

2 ”مراثی نسیم کا تجزیاتی مطالعہ“، کاظم علی خاں، ”ادبی کائنات“، ہدایت گڑھ، مدیر عقیل الغزوی، جون، جولائی، 1989، جس 20۔

3 ”مراثی نسیم کا تجزیاتی مطالعہ“، کاظم علی خاں، ”ادبی کائنات“، ہدایت گڑھ، مدیر عقیل الغزوی، جون، جولائی، 1989، جس 24۔

تھی۔ مگر میری والدہ شروع ہی سے اس فن کی محبت میرے دل میں پیدا کرتی رہیں، جس کے نتیجے میں ہوش آتے ہی میں نے بغیر کسی تحریک کے مریشہ کہنا شروع کیا۔<sup>1</sup>

شاعری کے ساتھ ساتھ تحقیق، تقدیم، تاریخ، ترجمہ، ڈرامہ، افسانہ، صحافت، نفت، سیاست، لسانیات، دینیات، بچوں کا ادب اور نصابی کتب ہر میدان میں ہی ان کی گروہ قدر خدمات رہیں ہیں۔<sup>2</sup>

انھوں نے نہ صرف نفت، منقبت، مریشیہ، سلام اور نوحے لکھے بلکہ غزل، مشنوی، تقطعہ، ربائی، گیت اور نظم وغیرہ بھی لکھیں اور شخصی مریشیہ بھی کافی تعداد میں لکھے۔ ایسے مراثی علامے دین کی شان میں کہے گئے ہیں، مثلاً محمد الملک، ناصر الملک، آقاۓ محسن الگیمیں، جوش بخش آبادی، آل رضا اور علامہ رشید زرابی کی موت پر کہے گئے مراثی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

آپ کی مریشہ گوئی کا آغاز 1923ء میں ہوا لیکن 1930ء میں اردو مریشیے کے مرکز لکھنؤ پہنچے تو لکھنؤ کے ادبی ماحول میں ایک طرح کا انقلاب برپا کر دیا۔ پاکستانی محقق و فقاد عبدالرؤف عروج کا یہاں ہے:

”اس زمانے میں لکھنؤ اپنے دور کے مشہور مریشہ نگاروں: خبر، مودب، فائق، ذکی، اور مہذب لکھنؤی کی شاعری سے گونج رہا تھا۔ ان کے مراثی بڑے ذوق و شوق سے نے جاتے تھے۔ ایسے ماحول میں کسی نووارد یا غیر لکھنؤی کا، ان کے مقابلے میں پڑھنا بڑی ہمت کا کام تھا۔ نیم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس ملک خری کو تحریر کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ چنانچہ 1930ء میں گزارشیم میں بھارشیم کے عنوان سے مریشیے کی جو پہلی مجلس پڑھی۔ اس نے ان کی شہرت کو پر لگا دیے۔ ان کے اس مریشیے کا آہنگ نیا تھا، اسلوب نیا تھا، بندشیں نئی تھیں، سہی نہیں بلکہ اس مریشیے کے پس منظر میں ان کے اپنے دور کے

1۔ ”جدید مریشیے کے تکنیکیں“، (جوش، نیم، آل رضا) ہال نقوی، 1987ء، ص 88-294۔

2۔ ”اردو مریشیے کے آخری ایام“، عظیم امردہ، عالمی ادب اردو، دبلی مرتباً: نند کشور کرم، ص 13-12۔

سیاسی، سماجی اور معاشرتی مسائل پوری طرح موجود تھے۔ اس سے پہلے عام طور پر مرثیوں کا رنگ ڈھنگ پرانا اور روایتی تھا۔ چنانچہ نیم صاحب کو جدید مرثیے کے بانی کی حیثیت سے ملک گیر شہرت ملی۔<sup>1</sup> نیم امر و ہوی نے مرثیہ کو اس وقت سہارا دیا جب وہ روایت پندتی کاشکار ہو کر رہ گیا تھا۔ جوش کا مرثیہ چونکہ رثائیت سے محروم تھا، اس لیے وہ مرثیے کی حیثیت حاصل نہیں کر سکا۔ مرثیے کے حدود میں رہ کر مرثیے میں انقلاب برپا کرنا نیم امر و ہوی کا ہی کام تھا۔ محمد رضا کاظمی لکھتے ہیں:

”اردو مرثیے کو افکارنو سے ہم آہنگ کرنے کی سب سے شدید آزمائش سے نیم امر و ہوی کو گزرنانا پڑا۔ ترقی پسند شعراء کے لیے یہ منزل نہیں آسان تھی... نیم ایک کل وقی مرثیہ نگار ہیں۔ ان کی حیثیت ترقی پسند شعراء کے بر عکس دولمااظ سے روایتی ہے، ایک انھیں مرثیہ نگاری و راثت میں ملی، دوسرے وہ ایک عالم دین ہیں اور شاعری ان کے لیے ذریعہ تبلیغ ہے... انھوں نے نظم گوئی کے تجربے بیاپس منظر میں صنف مرثیہ کا انتخاب نہیں کیا۔ نیم امر و ہوی نے جدید رحمات کو اپنے فن میں سویا تو ہے لیکن قبول کیا ہے کلاسیک فن کی شرائط پر۔“<sup>2</sup>

محمد رضا کاظمی کے اس قول کی صداقت، کلام نیم سے ہوتی ہے۔ جب ہم ان کے مراثی پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں کلاسیکی مرثیے کے تمام لوازم موجود پاتے ہیں۔ اب چند مثالیں ملاحظہ ہوں، جن میں قدیم طرز مرثیہ نگاری موجود ہے۔

#### منظرنگاری:

نقاب رخ سے جو حور سحر اٹھانے لگی	خزاں کی تیق کے کشتون میں جان آنے لگی
کرامت دم عیسیٰ صبا دکھانے لگی	شگونے کھلنے لگے صح رنگ لانے لگی
ہوا سکنے لگی ڈالیاں لکھنے لگیں	
چون میکنے لگا بلبلیں چپنے لگیں	

1. روزنامہ ”حریت“، کراچی، 6 مارچ، 1987، جوال عظیم امر و ہوی۔

2. ”جدید اردو مرثیہ“، محمد رضا کاظمی، مکتبہ ادب، کراچی، ص 230-231۔

وہ پھول اوس کے بھیگے نجوم جس پر شار  
وہ مہنڈی مہنڈی ہوا اس کی جاں فزار فتار  
بہار کی وہ جوانی، وہ پیوں کا نکھار  
وہ بلبلیں رخ گل پر رکھے ہوئے منقار  
وہ وصل کے جو مناظر نظر پر چڑھنے لگے  
چنک چنک کے شگونے درود پڑھنے لگے

### گھوڑے کی تعریف :

وہ رن کے شوق میں مثل پرندائی کے چلا  
ہوا بھی رک گئی تھک کر، سندائی کے چلا  
وہ بے پری میں پری سے دو چندائی کے چلا  
خود اپنے مرغ نظر سے بلندائی کے چلا  
لہو میں جیسے روانی ہو یوں روانہ ہے  
وفا کے خون سے جورگ ہے تازیانہ ہے

### سر اپا نگاری:

وہ لب حور کے غچبوں کی نزاکت صدقہ زلف و عارض پر شب و روز کی طاعت صدقہ  
صف مژگال پر فرشتوں کی جماعت صدقہ وہ قیامت قد و قامت کہ اقامت صدقہ  
یہ اداصورت دل کش کی غصب ڈھاتی ہے  
جیسی ہم چاہتے ہیں ولیکی ہی بن جاتی ہے

نیم کے مراثی کی تین حصیم جلدیں چھپ چکی ہیں۔ ان کی مرثیہ نگاری موضوعاتی  
ہے۔ اگر چنانہوں نے ہیئت سے انحراف نہیں کیا اور مدرس کی ہیئت کو ہی اپنایا مگر یہ خوبی ان  
کو تمام مرثیہ نگاروں سے ممتاز کرتی ہے کہ انھیں تاریخی اور نظریاتی موضوع پر مسلسل مرثیہ لکھنے  
کی مشق ہے۔ آپ کے خاص موضوعات میں علم و عمل، انقلاب اور حریت، اصلاح  
ملت، اتحاد و اتفاق، فلسفہ غم و سرت جرأت و ہمت، عقل و عشق، قرآن و اہل بیت، عزم و  
حوصلہ، بحرت و غریب الوطنی، اسلام اور ایمان، تقویٰ اور پرہیزگاری، خلوص و محبت،  
صلح و امن، انسانیت و شرافت، حمد و نعمت، درج و منقبت، چراغ و قلم، پانی اور آگ، خاک،  
ضعیفی، جوانی، طفلی وغیرہ۔ لیکن سب سے زیادہ زور علم و عمل پر ہے۔ واقعہ کربلا کی یاد میں جو  
 مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، ان کا رشتہ بھی عمل سے قائم رکھتے ہیں۔

پا جو کرتے ہو تم مجلسیں عزا کے لیے اشاعت غم مظلوم کربلا کے لیے  
یہ صرف بہر بکا ہے نہ واد واد کے لیے یہ مدترے بھی تو ہیں دین مصلحت کے لیے  
نہیں یہ بزم ہدایت کا باب ہے گویا  
حسین علم عمل کی کتاب ہے گویا

شم نے اپنے مرثیوں کے مختلف موضوعات پر بحث کے بعد واقعہ کربلا کے کسی  
مخصوص کردار کو اس موضوع کی کسوٹی پر جانچنے اور پر کھنے کی کوشش کی ہے اور اپنے موضوع کی  
خصوصیت اور عظمت کے پیرائے میں ان کو اعلیٰ ترین منازل پر فائز پایا ہے۔  
وہ مرثیے کے کرداروں کا گہرا شعور رکھتے ہیں۔ کرداروں کی ہنفی اور جذباتی  
کیفیت کو کربلا کے تاریخی پس منظر میں رکھ کر موضوعات کی روشنی میں تنائی اخذ کرتے ہیں، جو  
عام طور سے زندگی کو سنوارنے کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔

جو بے نیاز عالم فانی تھا وہ حسین جو دو جہاں میں حق کی نشانی تھا وہ حسین  
جو روح حریت کی جوانی تھا وہ حسین جو اک نئی جہات کا بانی تھا وہ حسین  
وہ جس نے زندگی کو قرینہ سکھا دیا  
مرکر خدا کی راہ میں جینا سکھا دیا

شم مرثیوں میں رزمیہ عناصر کو ترک کرنے کے حق میں نہیں۔ انہوں نے مرثیے  
کی کلائیکی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جدید قومی مسائل اپنے مرثیوں میں بیان کیے ہیں۔  
بیسویں صدی کے اوائل کا زمانہ سماجی اور سیاسی اعتبار سے پرآشوب تھا۔ انگریزوں کے  
معاشی اتحصال سے ملک کی حالت بد سے بدتر ہو گئی تھی۔ دیکی صنعتوں کے خاتمے سے بے  
روزگاری بڑھ گئی تھی۔ عوام شاعری میں یاسیت اور غم کے مظاہر تلاش کرنے لگے  
تھے۔ ایسے پرآشوب دور میں شم امر دہوی نے 1923ء میں اپنا پہلا مرثیہ کہا۔  
”تجھ میں اے باغ وطن اب گل خوش رنگ نہیں“

اس مرثیے میں جیسا کہ پہلے مครعے سے ظاہر ہے روایتی انداز اختیار کرنے کے باجائے

گردوواح پر نظرِ ذاتی اور اصلاح و تربیت کا کام لیا۔

تھر تھراتے ہیں قدامت کے فلک بوس محل      گھر کے آئے ہیں تجد د کے بھیانک بادل  
سنجل اے رہو گم کشتہ ایام سنجل      ہر اک قدم نی آفت ہے ذرا دیکھ کے جل  
چھپ کے بیٹھا ہے تری گھات میں دشمن تیرا  
کہیں کائنوں میں الجھ جائے نہ دامن تیرا

1936 میں ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا تو ادب زندگی اور اس کے مسائل سے عبارت سمجھا جانے لگا اور شعراء وادیب ادب کو اپنے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے لگے۔ اس سلسلے میں نیم کے مرثیوں میں مقصدیت کا پہلو انھیں ترقی پسندوں سے قریب کرتا ہے۔ بقول ڈاکٹر امام مرتفعی نقوی:

”شم امر وہوی کا سیاسی و سماجی شعور ترقی پسند تحریک کے آغاز سے بہت پہلے جاگ چکا تھا۔ ان کے ہم عصر جوش... توڑ پھوڑ کو اصل انقلاب سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک تحریک کے بغیر تغیر ممکن نہیں تھی... یہ انقلاب کا صحت مند تصور نہیں تھا۔ شم امر وہوی نے معاشرے کی اصلاح اور نوجوانوں کی وہنی اور فکری تربیت پر زور دیا ہے۔“<sup>1</sup>

قدیم مرثیوں کا مقصد گریہ و بکا تھا نیم کا کلیہ یہ ہے کہ محض رو نادنیا و آخرت کے لیے کافی نہیں اس کے لیے عرفان ضروری ہے۔ مقدمہ مراثی آل رضا میں لکھتے ہیں:

”خاندانی شاعروں کے مرثیے صادق آل محمد کی حدیث کے چار اجزاء میں سے تین اجزاء پر زور دیتے ہیں۔ جو روئے، جو رلائے، جس کی صورت سے رونے کا ارادہ ظاہر ہوا اور چوتھا جزو جو دراصل حدیث کی جان اور انعقاد مجلس کی غرض دغایت ہے، اسے چھوڑ

<sup>1</sup> ”مراثی نیم کا اصلاحی پہلو، مرتفعی نقوی، ”اوی کائنات“، ہدایت گزہ، مدیر علیل الغزوی، تمبر، اکتوبر

دیتے ہیں اور وہ ہے ”عارفانہ“ یعنی جو امام مظلوم کے حق اور عمل کی حقیقت کو پوری طرح پہچان کرایا کرے۔<sup>1</sup>

زور تقریر سے جلوں کو ہلا دیتے ہیں  
شرط عرفان کو روایت میں بھلا دیتے ہیں



رونے والے غم شیر میں جی کھل کے رو  
دل کو میزان محبت میں مگر قول کے رو



یوں تو رونے کو عدو کھینچ کے تخت رونے  
رونا ان کا ہے کہ جو سوچ سمجھ کر رونے



اک نئے رنگ سے بہتر ہے کہ ہو ذکر شہید      جوش کھاتا رہے دریائے مضمائن مفید  
غم کے مقصد میں نہ شامل ہو مگر ذوق جدید      نظریے کا تغیر ہے شا کی تمہید  
چشم خوں بار سے تو ام ہے خیال مجلس  
آہ وزاری سے بحر حال مآل مجلس

بات گریہ دیکا تک آگئی ہے تو نیم امر وہی کے یہاں غم کی کیفیت کا اندازہ بھی کرتے چلیں۔  
نیم کے مرثیوں میں موضوعات کی تازگی فکر کے کتنے ہی جدید رخ لے کر ظاہر ہو لیکن شہادت  
اور بیان مصائب کو وہ کبھی نہیں بھولتے۔ وہ واقعہ کے کسی بھی پہلو کو موضوع بنائیں میں مرثیت کا  
مزاج کہیں بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔

چہروں پہ انبساط بھی ماتم بھی گرد بھی      ہونٹوں پر حرف شکر بھی اور آہ سرد بھی  
دل میں وفا کا جوش بھی امت کا درد بھی      مقصد کا اہتمام بھی، عزم نبرد بھی  
آنکھوں میں سوز حق کے شرارے لیے ہوئے  
ابو میں لافتا کے اشارے لیے ہوئے

<sup>1</sup> ”بیسویں صدی اور اردو مرثیہ“، ہلال نقوی، ص 516

پائے تھے اہل بیت کے گھر نے عجب چراغ سولہ پھر کی پیاس میں یہ گل تھے باغ باغ  
 تا ظہران کی بو سے معطر رہے دماغ پھر فاطمہ کا چاند تھا اور ان گلوں کے داغ  
 اک دوپھر میں شاہ کی ہستی اجز گنی  
 عالم کے پیشووا سے جماعت پھر گئی

وہ بین میں تبرانہ تکنیک پر بھی حادی نظر آتے ہیں

تحریک غم، گلا نہ خیبر حسین کا پیغام آہ خاک کا بستر حسین کا تصویر درد لاشہ بے سر حسین کا اشک آفریں سکوت کا نثر حسین کا

پنچے کا خون مجھ پہ شفاعةت کے واسطے

ضرب شدید ہے دل نظرت کے واسطے

مقتل میں گر چہ روح پیغمبر تھی نوحہ گر چشم حسین اشک سے لیکن ہوئی نہ تر  
 باندھی جواں کی لاش اٹھانے کو خود کمر انصار کو مگر نہ بلا یا پکار کر

اتنا کہا فقط کہ برادر کدر گئے

عباش کچھ سناء، علی اکبر بھی مر گئے

غرض نیم بیسویں صدی کے چار مرثیہ نگاروں (جوش، جیل، آل رضا) میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں ان کے متعلق ڈاکٹر امام مرتضی نقوی نے لکھا ہے:

”نیم نے عصر حاضر کے تمام مسائل پر اظہار رائے کیا ہے۔“

انھوں نے سماج کی برائیوں اور کوتاہیوں کو شدت سے محسوس کیا اور ان کی اصلاح کا تصور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پیش کیا ہے۔<sup>1</sup>

زاریستاپوری (1912-1966)

اسی زمانے میں محمد اطہر زاریستاپوری نے جدید مرثیے کی تاریخ کو ایک انقلابی لہجہ دیا۔ زاریستاپوری کے پیشتر مرثیے غیر مطبوع تھے، سوائے ایک مرثیے ”دنیا کو ایک راہنمای کی

<sup>1</sup> ”مراثی نیم کا اصلاحی پبلو، ڈاکٹر امام مرتضی نقوی: ادبی کائنات، مدیر عقیل الفروی، ستمبر، اکتوبر، 1988

تلاش ہے، کے، جو کئی بار شائع ہوا۔ اب جابر حسین<sup>1</sup> نے ان کے مراثی زائر صاحب کے صاحبزادے احمد وصی (بسمی) اور کالی داس گپتا رضا کے تعاون سے حاصل کر کے ”ترجمان“، اردو مرکز عظیم آباد میں شائع کر دیے ہیں۔ ان میں چھ مرثیے شامل ہیں۔

### مصرعہ اول زمانہ تصنیف

زمانہ تصنیف درج نہیں	(1) دنیا کو ایک راہ نما کی تلاش ہے
صفر 1349ھ مطابق جولائی 1930	(2) آمد ہے الہمیت کی دربار شام میں
صفر 1360ھ مطابق 12 مارچ 1941	(3) مقتل میں جب زوال ہوا آقبال کا
ھ 1356	(4) بلا کے رن میں خزاں فاطمہ کا باغ ہوا
1941 جولائی 19	(5) زوالی مہر منور سے رن میں پلچل ہے
ھ 1349 20 محرم	(6) مومن حشر دو عالم میں پا ہوتا ہے

زار سیتا پوری نے پہلے تروایتی انداز کے مرثیے لکھے، لیکن بعد میں جدید مرثیے اور مقاصدِ حسینی کو اپنے مرثیوں میں اہمیت دی، نہ کہ صرف واقعات کو۔ انہوں نے ایک صحت مند معاشرہ کی تشکیل کرنی چاہی اور اس کے لیے انہوں نے آزادی کو خاص اہمیت دی۔ ایک آزاد معاشرے کے قیام کے لیے انہوں نے سیرتِ حسین کو نمایاں کیا اور قوم کو رسم و رواج کے دائرے سے باہر نکالنا چاہا۔

رسم و رواج سوگ قتل جفا نہیں جس میں نمائش ہوں وہ کوئی عزانہ نہیں  
پھر کچھ نہیں ہے درد جو درد آشنا نہیں کیا یہ سمجھ رہے ہو پہاں کر بلائیں  
نظرؤں میں قتل گاہ کی ہر واردات ہے

دل کر بلاد ہے آنکھ ہماری فرات ہے

ان کے نزدیک عزت نفس معیار آزادی ہے اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینی چاہیے۔ وہ سیاست کو سماجی انصاف کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔

1۔ ”ترجمان“، شمارہ (2)، اردو مرکز عظیم آباد، ترتیب: جابر حسین۔

دولت سے ہے تیز شریف و ذلیل کی پھر اس میں بھی حدیں ہیں کثیر و قلیل کی  
انسانیت کی قدر نہ نفسِ جلیل کی بس مرکز، خیال ہے جھوٹی بخیل کی  
جست ہے اس نگاہِ تمبا کے سامنے  
سجدے میں دل ہیں دولت دنیا کے سامنے  
سرمایہ داریوں کے فلک بوس یہ محل عشت کدوں کی شام وحریہ چہل پہل  
کیا ہے فقط ہے نفسِ پرستی کا اک عمل انسانیت کے واسطے کاشانہ اجل  
کھویا ہے دل فریب تمدن کی راہ میں  
دم توڑتی ہے عزتِ انساں گناہ میں  
ان کی زبان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر لحاظی کیفیت کو بیان کر سکے۔ منظر نگاری کے یہ  
مقامات ملاحظہ ہوں۔

نویں کو بند ہوا گفتگو صلح کا باب نگاہِ امن و اماں جھک گئی بفرطِ حجاب  
وہ ایک رات کا بیچ لور وہ قبر کے اسلب ہوئی جو شام تو لکلا رندھا ہوا مہتاب  
بخار اٹھتا تھا اسینوں سے دل تھا ہلکل میں  
گھٹا ہوا تھا دھواں کر بلکہ جنگل میں  
وہ صحیح ایک نئے دورِ زیست کا آغاز چھلک رہا تھا امنگوں سے ہر دلی جانباز  
دفورِ تشنہ دہانی پر دلوں کو ہے ناز سمت رہا تھا حقیقت کی انتہا پر مجاز  
زمیں بلند ہوئی رنگ، آسمان بن کر  
چلی تھی عمر رواں عمر جاؤ داں بن کر

ہلالِ نقوی لکھتے ہیں ”زارِ سیتا پوری نے 1932 میں جدید مریشے کی تاریخ کو اپنے انکار سے  
ایک انقلابی لہجہ دیا۔ ۱۔ ان کا جدید مریشہ بقول محمد رضا کاظمی 1934 میں شائع ہوا۔ ۲۔ ان کا  
مریشہ ”حسین ابن علی فخر کائنات ہے تو“ کے ان بندوں سے پتہ چلتا ہے کہ نئے طرز کے  
مریشے کو وہ کردار سازی میں کس سطح پر لے آئے تھے۔

۱۔ بیسویں صدی اور جدید مریشہ، ہلالِ نقوی مجموعہ ٹرست، لندن، کراچی، کراچی، ہس۔ ۸۸۱۔  
بلاک۔ اے، نظام آباد، ۲۱۵۔ ۲۔ جدید اردو مریشہ، محمد رضا کاظمی، ہس۔ ۲۴۱۔

کہاں ہیں اہل نظر صاحبیں ہوش تمام دکھادوں آج نہیں روئے شہدِ آلام  
یہاں نہیں کوئی قیدِ مذاہب و اقوام تمام اہل زمانہ کو ہے مرا پیغام  
حسین " فردِ مکمل بزرگ برتر ہے

حسین عالم انسانیت کا رہبر ہے در حسین نہیں وقف قیدِ ملت دیں تمام خلق یہاں آکے میلتی ہے جیسی  
وفا و ہمت و ایثار و صبر کے آئیں فقط حسین نے ٹلا دیے ہیں یا کہ نہیں  
حسین " شخصیت غیر اختلافی ہے  
حسین کافی ہے تھا حسین کافی ہے

زارِ سیتاپوری کے مراثی نظیریہ تکنیک کی وہ صورت ہے، جسے نہ کام لانا یا نیک کہہ سکتے  
ہیں اور نہ مصرا نہ۔ کبھی واقعہ تسلیم قائم کرتا ہے اور کبھی خیال۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا  
نہیں ہوتے البتہ وسیع تر چوکھا خیال کا ہوتا ہے۔

"حسین ابن علی فخرِ کائنات ہے تو" یہ مکمل مصرا نہ پیرائے میں ہے۔ " دنیا کو ایک  
راہ نما کی جلاش ہے، بھی مصرا نہ پیرائے میں ہے، لیکن جناب علی اکبر کی رخصت، جنگ اور  
شہادت کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔

فوجِ عدو پہ شیر کے جملے وہ بار بار ٹوٹے ہوئے ہیں ظلم کے سب آفی حصار  
ہے ہاتھ میں جری کی شہادت کا شاہکار لودے رہے ہیں جو ہر شمشیر آبدار  
جنگلِ دبک رہا ہے تمازت سے تیق کی  
تار نفس بھی جلتے ہیں حدت سے تیق کی

ان کا ایک مخصوص موضوع ہے "غربی" دیکھنے مسادات کو مریئے کے ظرف میں کس طرح  
سمویا ہے۔

مزدور، فاقہ کش، وطن آوارہ، درد مند نادار، بے نوا، الہ انگیز، غم پسند  
میکھیل نفس جس کی حوادث میں مستمند جس کی لحد کی خاک سے آواز ہے بلند  
مانوس ہو جہان کے ہر گرم و سرد سے  
وہ زندگی نہیں ہے جو خالی ہو درد سے

تیرامرشیہ "آمد ہے اہل بیت کی دربار شام میں" کامل بیانیہ ہے۔ "زوال مہر منور سے دن میں بچل ہے"۔ نجم آفندی کی خواہش پر لکھا گیا 18 بندوں پر مشتمل مرثیہ علی اکبر کی شہادت بیان کرتا ہے۔ "مومون و شردو عالم میں پا ہوتا ہے" میں تو کل بارہ بند ہیں۔ غالباً یہ مراثی سوزخوانی کے لیے لکھے گئے ہیں۔

بہر حال زائر کے مرثیے جدید مرثیے کی تاریخ میں اپنا مقام رکھتے ہیں۔

نجم آفندی (1892-1975)

تجھل حسین نام اور نجم تخلص تھا۔ 1892 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ "صلاحیت شعر گوئی مبداء فیاض کا عطیہ ہوتی ہے اور فن شاعری نجم کے گھرانے کی میراث ہے جو انھیں فضیح، بلیغ، بیتح اور بزم آفندی سے ورش میں ملی۔ ان کے نانا آغا حسین آغا بھی شاعر تھے۔" ۱ "آپ کے والد بزم آفندی اپنے دور کے ممتاز شاعروں میں تھے... غزل، رباعی، سلام، نوحہ، مرثیہ، نظمیں اور نعت وغیرہ مختلف اصناف میں مکملی کے ساتھ طبع آزمائی کی اور بہت مشہور ہوئے... اپریل 1971 میں ترک وطن کر کے پاکستان چلے گئے۔ کراچی میں 19 دسمبر 1975 کو انتقال ہوا۔" ۲

شاعر اہل بیت کے خطاب سے مشہور ہوئے۔ اس خطاب نے شاعری سے کہیں زیادہ مدد بیت کا تصور پیدا کر دیا۔ ایک عام اور غلط تاثر یہ پیدا ہوا کہ نجم آفندی کی شاعری کا میدان سلام، مرثیے اور نوحہ تک محدود ہے اور دوسرے اصناف پر انہوں نے طبع آزمائی نہیں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے نوحوں اور مرثیوں سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔

عزائیز شاعری کے علاوہ انہوں نے دو مرثیے "فتح میں" (1943) اور "معراج گزر"

1: "سب رس"، حیدر آباد، جنوری، 1977، مصطفیٰ علی فاطمی، ص 30۔

2: "مذکورہ مرثیہ نگاران اردو"۔ امیر علی بیگ جو پوری، باراول، 1985، ص 485۔

(1960) میں تحریر کیے۔ ”ایک مرثیہ ناکمل حالت میں موجود ہے۔“<sup>1</sup> ثم آنندی کا سرما یہ مرثیہ گوئی بہت مختصر ہے، لیکن ان کی ادبی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان کی مرثیہ نگاری سے متعلق مرزا امیر علی جو پوری کا کہنا ہے ”ثم آنندی کا کلام حکیمانہ ہے، مرہیے فلسفیانہ فکری بنیادوں کا ایک عظیم الشان مرتع ہے۔“<sup>2</sup>

قدیم مراثی مواد اور موضوع کو سرسری حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ اس لیے بیت کی جانب توجہ کم کی جاتی تھی۔ مختلف ہیئتؤں میں مراثی کا سفر جب مدرس کی ہیئت تک پہنچا اور انہم مرثیہ نگاروں نے اسی ہیئت کو مخصوص کر لیا تو موضوع کی وسعت پر بھی نظر گئی۔ مرثیہ واقعات کے پھیلاوہ کا مطالبہ کرتا تھا۔ اب مرثیے کی داخلی ہیئت کا سوال تھا۔ ضمیر نے اسے ایک مناسب ڈانچہ عطا کیا اور مرثیے کے اجزاء چہرہ، رخصت، آمد، سرپا، رجز، جگ، شہادت اور میں قرار پائے۔ قدیم مرثیوں میں نہ تو سماجی تفہید کا کوئی امکان تھا اور نہ زمینی مسائل ہی بیان کیے جاتے تھے، هر صرف واقعات سے درس اخلاق کا کام لیا جاتا تھا۔ امیں اور ان کے شاگردوں نے محسوس کیا کہ غم حسین رزمیہ کے دائرے میں آتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے رزمیہ عناصر پر زور دیا۔ مرثیے کے یہ عناصر بہار و خزان، ساتی نامے، گھوڑے اور تکواز کی تعریف اور آرائش و زیبائش کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ جن کے بغیر بھی مرثیہ مرثیہ ہی رہتا۔

مرثیہ کی ساخت کے بارے میں محمد رضا کاظمی کا قول قابل غور ہے:

”چھ مصریوں کا بند تسلسل بیان کے لیے بوجہ بن جاتا ہے۔“

شاعر کی خواہش فطری طور پر نیدا ہو گئی ہے کہ ایک بند ایک بات یا ایک نکتہ سے مطابقت رکھے۔ جس کے نتیجے میں گفتگو یا تقریر کے حصے عموماً طویل ہو جاتے ہیں اور تقریر کے طویل ہونے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی شخص تصور میں جگہ پاسکتا ہے۔ اکثر اوقات تقریر کی

1۔ ”ذکن میں مرثیہ اور عز اداری“، 1857ء، 1957ء، ذا ائٹر ریڈ موسوی، ترقی اردو یورپ، نیو یارک، ص 192۔

2۔ ”تذکرہ مرثیہ نگاران اردو“، امیر علی بیگ جو پوری، 1985ء، ص 486۔

پوری مدت تک مخاطب فرد کی بھی شخصیت ذہن سے محور ہتی ہے۔<sup>1</sup> آگے چل کر لکھتے ہیں:

”مریئے کے مختلف اجزاء کو مقرر کر کے میر غمیر مرحوم نے جہاں ترقی کی راہیں کھول دی ہیں، وہاں تسلیم عناصر کے تصور نے کچھ پرا گندی کو راہ دی۔ رخصت اور بین کے واضح اجزاء تصور کرنے کے بعد ہر جزو مطالبات کو اختتامی حدود تک پورا کرنے کی خواہش نے مریئے کے مزاج کو مختلف سمتوں میں کھنچا شروع کیا۔ رجز اور جنگ کی جلالت رخصت اور بین کی حلاوت میں گھل مل نہ سکی۔ یہاں یہ واضح رہے کہ ڈاکٹر احسن فاروقی کے اعتراض کا اطلاق فقط رخصت اور بین کے اجزاء پر ہوتا ہے۔“<sup>2</sup>

ڈاکٹر احسن فاروقی تو مریئے کے ہر جزو پر اعتراض کر سکتے ہیں اور کیا بھی ہے۔ وہ کر بلا میں گل بونے تلاش کرنے لگیں یا انھیں میر انیس کے یہاں جذبات نگاری کے فقدان نظر آئے یا ایک کردار کو دوسرے کردار پر چیساں کرنے لگیں، نام کے اخلاق اور شیعیان لکھنؤ کے اخلاق میں فرق نظر آئے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مریئے کی داخلی ساخت میں جھوٹ آ جاتا ہے، جس کی طرف محمد رضا کاظمی نے اشارہ کیا ہے۔ یعنی رجز اور جنگ کی جلالت، رخصت اور بین کی حلاوت میں گھل مل نہیں پاتی۔

جہاں تک مریئے کی خارجی بیست کا سوال ہے، مدرس کی بیست بیانیہ، تاثراتی اور فکری ہرگز کے لیے مناسب ہے کیونکہ ”صرف مواد سے کام چل سکتا ہے اور نہ محض شکل و صورت سے، بلکہ کسی نہ کسی تناسب سے دونوں کا ربط فن کا لازمی عضر ہے۔ ایک کا تعلق دوسرے سے اس قدر قریبی اور گہرا ہے کہ جب ایک میں تغیری پیدا ہوتا ہے تو دوسرے میں بھی ضرور کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے۔“<sup>3</sup>

1۔ ”جدید اردو مرثیہ“، محمد رضا کاظمی، مکتبہ ادب، کراچی، 1981، ص 28-29۔

2۔ ”معراج فکر“، جم آنندی، مقدمہ پروفیسر احتشام حسین، مطبوعہ، سرفراز توپی پرنس ہائس، ص 17۔

موجودہ زمانے تک (اگرچہ بیت میں تحریات کا سلسلہ جاری ہے) مسدس ہی کی بیت میں مرہیے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بیت پیاسیہ تخت اللفظ، تاثراتی، بصرانہ، ہنریک کے لیے مناسب بیت ہے۔ البتہ مواد میں تبدیلی کی گئی ہے اور مرہیے کے قابل میں تصرف کیا جانے لگا تو دو اجزاء بنیادی قرار پائے: رزمیہ اور بیدیہ۔

بیم کے پاس بیدیہ کا ایک وسیع تحریر تھا اور مرہیے کے قابل کی طرف ایک تازہ رویہ بھی۔ ان لیے جب وہ مرشیہ کہنے بیٹھے تو اس وقت تک پیاسیہ اور بصرانہ ہنریک تو عام ہو چکی تھی، مگر بیم نے رزمیہ اور بیدیہ کیفیات کو جذب کر کے ایک نیا اسلوب دیا۔ ان کے مرشیوں سے دونوں کیفیات کا اظہار ہوتا ہے۔ ”فتح میمن“ کا یہ بند ملاحظہ ہو۔

جب لے لیا حسین نے میدان کربلا بدلا لہو سے رنگ بیان کربلا  
تحا وقت عصر اور ہی عنوان کربلا سوتا تھا فرش خاک پہ مہماں کربلا  
بے سر تھا قتل گاہ میں لا شہ پڑا ہوا  
بالیں پہ فتح حق کا تھا جھنڈا گڑا ہوا

محمد رضا کاظمی لکھتے ہیں۔ ”بیم آنندی کا الجہہ مانوس ہوتے ہوئے بھی منفرد ہے۔ زبان اجزاء میں پڑکوہ نہیں گرکل میں پڑکوہ ہے۔“<sup>1</sup>

دیگر جدید مرشیہ گوشراۓ کی طرح بیم بھی واقعات پر زیادہ زور نہیں دیتے بلکہ واقعات کے پس منظر میں جو فلسفیاتِ محركات ہو سکتے ہیں، ان کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بندش کی یہ چستی اور الفاظ کے استعمال میں بیم اپنے عہد کے مرشیہ نگاروں میں سب سے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔

انھوں نے کربلا کی جنگ کے بنیادی اصولوں کو ملاحظہ رکھتے ہوئے موجودہ مسائل پیش کیے ہیں۔

عالیٰ میں بے مثال ہے یہ کربلا کی جنگ      یکساں وغای کی بندہ و آقا کی تھی امنگ  
پچھے سن کا امتیاز نہ تفریق نسل و رنگ      حق کی صلائے عام تھی میدان تھانہ تجک

ہر بہ وفا حسین کے قدموں میں ہو گیا

آتا کا خوں، غلام کا خوں ایک ہو گیا

<sup>1</sup> ”جدید اردو مرشیہ“، محمد رضا کاظمی، مکتبہ ادب کراچی، ص 263۔

جدید مرثیوں پر ایک عام اعتراض یہ ہے کہ اس میں بینیہ عصر کا فقدان ہے۔ دراصل قدیم مرثیہ پر یہ اعتراض اکثر کیا جاتا تھا کہ ایک طرف تو امام حسین کے صبر کی تعریف کی جاتی ہے تو دوسری طرف انھیں روتا دھوتا دکھایا جاتا ہے۔ جدید مرثیہ نگاروں نے اس اعتراض کے جواب میں فکری حزن کو اپنایا۔ بقول سید محمد عقیل رضوی۔ ”بجائے غم انگیز بیانات پر زور دینے کے انہوں نے فلسفہ غم کی خیال انگیزی اور تاثیریت کو اپنے مرثیے میں اہم سمجھا۔ جو صرف ایک مخصوص حلقة کے ذہن، ہی کو متاثر نہ کرے بلکہ عالم انسانیت کو متوجہ کر سکے۔“<sup>1</sup>

انسانیت اور اس کی فلاج و بہود کے لیے بھم نے ”فتح مین“ میں جا بجا اشارے کیے ہیں۔

نظم جہاں بدلتے کا عنوان مرجاہ اسلام کی نجات کا سامان مرجاہ  
انساں صداقتون کا نگہبان مرجاہ بندہ خدا کی راہ میں بے جان مرجاہ  
اپنے اصول چھوڑ گیا غور کے لیے  
اس کا پیام ایک ہے ہر دور کے لیے

وہ شاندار موت وہ بنیاد انقلاب بیعت کا وہ سوال وہ دنداں تکن جواب  
محبوبیٰ حیات سے کوئیں کو جھاپٹ نیزہ پر سر حسین کا مغرب میں آقا ب  
صدقة ضیاء مہرو قرآن بان پر  
تارے درود پڑھتے ہوئے آسمان پر

کربلا کی جنگ جو باطل کی جنگ تھی۔ حق پرستوں کو موت کا خوف نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت علی اکابر شہزادوں کی طرح سوئے، ذیل کے بند میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

وہ عزم و اختیار وہ قدرت کہ الاماں وقت اجل قریب تھا کہ شب تھی درمیان کیا مطمئن خیام میں سویا یہ نوجوان تصویر درد ہے شب عاشور کا سماں دل سے لگی تھی شکل پر دیکھتی رہی مایں شمع لے کے تا بد سحر دیکھتی رہی

<sup>1</sup> ”مرثیے کی سماجیات“، عقیل رضوی، نصرت پبلیشورز، ایمن آباد، لکھنؤ، ص 87۔

اب تقریباً یہ بات واضح ہو گئی ہو گی کہ ختم کے بیہاں رزمیہ اور بیدیہ عناصر ساتھ ملے چلتے ہیں۔ ان کا دوسرا مرثیہ ”معراج فکر“ ہے۔ 73 بندوں پر مشتمل یہ مرثیہ ذرا مختلف انداز کا ہے۔ جس میں سیاسی اور عصری رنگ زیادہ نمایاں ہے۔ نتیجًا اس مرثیے میں خطابت کا انداز پیدا ہو گیا ہے۔

صورت گر جلالت اسلام ہے حسین  
فکرو نظر مشیت والہام ہے حسین  
دریا مخالفت کے چڑھے اور اتر گئے  
باقی رہا یہ نام حادث گذر گئے  
ڈاکٹر ڈاکٹر حسین فاروقی لکھتے ہیں :

”انھوں نے مرثیے کو خالص فکری رخ دے دیا ہے۔ اس نے ان کے مراثی میں ایک ایسی افرادیت اور ایک ایسی کشش پیدا کر دی ہے، جو ہر صاحب ذوق کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے مراثی میں یہ خامی بھی ہے کہ ذاکری کے نقطہ نظر سے یہ زیادہ مقبول نہیں ہو سکتے اس لیے کہ گریہ خیزی کے لیے جو شدید جذباتی فضادرکار ہے اس سے ان کے مراثی کی خالص فکری فضا میں نہیں کھاتی۔“<sup>1</sup>

مرثیہ کے بیدیہ حصے پر بھی اعتراض اور فکری فضا پر بھی اعتراض، آخر مرثیہ نگار کرے تو کیا کرے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مرثیہ کو ہدف بنانے کو ہی اپنا طرہ امتیاز سمجھتے ہیں۔ دراصل واقعہ کر بلاؤ ہر خاص و عام کو معلوم ہے اس لیے ”وہ مصالب حسین کو میں کے انداز میں نہیں بلکہ شدت احساس کے ذریعہ درمندی کے جذبہ کو ابھار کر جذبہ حریت میں

---

<sup>1</sup> ”دبستان دیر“، ڈاکٹر حسین فاروقی، ص 680۔

خلط ملط کرتے ہیں۔ وہ فکر و نظر اور تخيّل کی اس بلندی پر ذہنوں کو لے جاتے ہیں جہاں دردو کم کے پہلو پہلو شادمانی اور کامرانی کا احساس بھی رواں دواں رہتا ہے۔“<sup>1</sup> نجم کی شاعری عشق اور انسانیت کی شاعری ہے ان کے مرئیے انسانیت کی میراث ہیں اور اسے مدد و نہیں کیا جاسکتا۔ ”معراج فکر“، کو نجم نے اپنی فکر کا منشا بنانے کی کوشش کی ہے۔ پروفیسر احتشام حسین اس مرئیے کے مقصد میں رقطراز ہیں:

”اس مرئیے میں جناب نجم کے پیش نظر امام حسین، ان کے اعزاء اور احباب کی شہادت کا دل دوز بیان نہیں ہے بلکہ ان کی جانب ہلکے ہلکے اشارے کر کے ان سے وہ نتائج اخذ کرنا ہے جو آج کے انسان کے لیے فکر و عمل کا سعہم ہن سکتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو ایک ہی بند کے اندر اتنے خیال انگیز اشارے جمع کر دئے گئے ہیں کہ ان کی تشریع میں کئی کئی ورق سیاہ کیے جاسکتے ہیں۔ ایسا صرف اس لیے ہے کہ شاعر کو وہ فکر و شعور کی منزلوں سے گذر کر اس کے ہاتھ آیا ہے۔“<sup>2</sup>

مثال کے طور پر مندرجہ ذیل بند پر غور کیجیے  
 جس نے امور خیر کو بخشی حیات نو  
 صدیوں سے جس کے قرش قدم میں ہے ہیں خود  
 بدی عمل کی شکل ارادے بدل دئے  
 جس نے مطالبات کے جادے بدل دئے  
 آگے چل کر احتشام صاحب کہتے ہیں :

”بہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا اس مرئیے کا ہر بند غور و فکر کے لیے نئے دروازے کھوتا ہے اور گوقدیم کلاسیکی مرثیوں کے مقابلے میں اس طرح نئے مرثیوں میں وہ حسن تغیر نہیں، جس سے

1 ”مرئیہ بعد ایش“: ڈاکٹر سید طاہر حسین کاظمی، ص 166۔

2 مقدمہ ”معراج فکر“، ص 22۔

مریم نے عظمت حاصل کی تھی، لیکن جدید مریم نے موجودہ دور کے  
مزاج سے زیادہ ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کی جگہ ادب میں  
محفوظ ہے۔<sup>1</sup>

### فیض احمد فیض (1911-1982)

فیض طرزِ احساس کے شاعر ہیں۔ ان کے مخالفین بھی ان کے اس اسلوب کو  
سراہتے ہیں۔ فیض نے ایک مرثیہ بھی لکھا ہے، جو ان کے مجموعہ کلام "شامِ شہریاراں" میں  
شامل ہے۔ اگرچہ یہ مرثیہ 1975 میں پہلی بار شائع ہوا لیکن "شامِ شہریاراں" میں اس کا سنہ  
تصنیف 1960 درج ہے۔

(بحوالہ ہلال نقوی)

21 بندوں پر مشتمل مریمیے کو یہاں نقل کیا جاتا ہے تاکہ اس کے مخالن پر نظر کرنے  
میں آسانی ہو۔

رات آئی ہے شبیر پر یلغار بلا ہے ساتھی نہ کوئی یار نہ غنوار رہا ہے  
مونس ہے تو اک درد کی گھنگھور گھٹا ہے شفق ہے تو اک دل کے ڈھنکنے کی صدائے  
تنهائی کی غربت کی پریشانی کی شب ہے

یہ خامہ شبیر کی ویرانی کی شب ہے  
دشمن کی سپہ خواب میں مدھوش پڑی تھی پل بھر کو کسی کی نہ ادھر آنکھ لگی تھی  
ہر ایک گھری آج قیامت کی گھری تھی یہ رات بہت آل محمد پر کڑی تھی  
رہ رہ کے بکا اہل حرم کرتے تھے ایسے  
حکم حکم کے دیا آخری شب جلتا ہے جیسے

<sup>1</sup> مقدمہ "معراجِ فکر"، ص 26

اک گوشہ میں ان سوختہ سامانوں کے سالار ان خاک بسر، خانماں ویرانوں کے سالار  
 تشنہ لب و درمانہ و مجبور و دل افگار اس شان سے بیٹھے تھے شہنشکر احرار  
 مند تھی نہ خلعت تھی، نہ خدام کھڑے تھے  
 ہاں تن پر جدھر دیکھئے سو زخم بے تھے  
 کچھ خوف تھا چہرے پر نہ تشویش ذرا تھی ہر ایک ادا مظہر تسلیم و رضا تھی  
 ہر ایک نگہ شاہد اقرار و فاتحی ہر جنیش لب منکر دستور جفا تھی  
 پہلے تو بہت پیارے ہر فرد کو دیکھا  
 پھر نام خدا کا لیا اور یوں ہوئے گویا  
 الحمد قریب آیا غم عشق کا ساحل الحمد کہ اب صحیح شہادت ہوئی نازل  
 بازی ہے بہت سخت میان حق و باطل وہ ظلم میں کامل ہیں تو ہم صبر میں کامل  
 یا زی ہوئی انجام، مبارک ہو عزیزو  
 باطل ہوا ناکام، مبارک ہو عزیزو  
 پھر صحیح کی لو آئی رخ پاک پر چمگی اور ایک کرن مقتل خوناک پر چمگی  
 نیزے کی اپنی تھی خس و خاشاک پر چمگی شمشیر برہنہ تھی کہ افلک پر چمگی  
 دم بھر کے لیے آئینہ رو ہو گیا صمرا  
 خورشید جو ابھرا تو لہو ہو گیا صمرا  
 پر باندھے ہوئے جملے کو آئی صفائعاً تھا سامنے اک بندہ حق یکہ وہنا  
 ہر چند کہ ہر اک تھا ادھر خون کا پیاسا یہ رعب کا عالم کہ کوئی پہل نہ کرتا  
 کی آنے میں تاخیر جو لیلائے قضاۓ  
 خطبہ کیا ارشاد امام شہداء نے  
 فرمایا کہ کیوں درپے آزار ہو لوگو حق والوں سے کیوں برس پیکار ہو لوگو  
 واللہ کہ مجرم ہو، گنہ گار ہو لوگو معلوم ہے کچھ کس کے طرف دار ہو لوگو  
 کیوں آپ کے آقاوں میں اور ہم میں نہیں ہے  
 معلوم ہے کس واسطے اس جاں پر نی ہے

سطوت نہ حکومت نہ حشم چاہیے ہم کو اور نگ نہ افسر نہ علم چاہیے ہم کو  
زد چاہیے، نے مال و درم چاہیے ہم کو جو چیز بھی فانی ہے وہ کم چاہیے ہم کو  
سرداری کی خواہش ہے، نہ شاہی کی ہوں ہے  
اک حرف یقین، دلت ایمان ہمیں نہیں ہے

طالب ہیں اگر ہم تو فقط حق کے طلبگار باطل کے مقابل میں صداقت کے پرستار  
النصاف کے نیگ کے مردوت کے طرف دار ظالم کے خلاف ہیں تو بیکس کے مد و گار  
جو ظلم پر لعنت نہ کرے آپ لعین ہے  
جو جبر کا منکر نہیں، وہ منکر دیں ہے

تا حشر زمانہ تھیس مکار کہے گا تم عہد شکن ہو تھیس غدار کہے گا  
جو صاحب دل ہے ہمیں ابرار کہے گا جو بندہ ح ہے ہمیں احرار کہے گا  
نام او پنجا زمانے میں ہر انداز رہے گا  
نیزے پہ بھی سراپنا سرافراز رہے گا

کر ختم سخن محو دعا ہو گئے شبیر پھر نعرہ زناں محو دعا ہو گئے شبیر  
قربان رہے صدق و صفا ہو گئے شبیر خیموں میں تھا کہرام جدا ہو گئے شبیر  
مرکب پہن پاک تھا اور خاک پہ سرتھا  
اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا

ناقدین کا خیال ہے کہ فیض نے یہ مرثیہ احباب کی فرمائش پر لکھا۔ ڈاکٹر ابوالحیر کشفی فیض کے  
مرثیے کو تخلیقی شعور کا حصہ قرار نہیں دیتے انہوں نے فیض کا نام لیے بغیر لکھا ہے کہ :

”اردو کے ایک بڑے شاعر نے جن کے فیض نے اردو

ادب کا چرچا بہت سے ملکوں میں عام کر دیا ہے اپنے ایک مختصر مجموعے  
میں فرمائشی کلام کا ایک حصہ بھی شامل کیا ہے اور ایک مرثیے کو اس حصے  
میں شائع کرایا ہے۔ گویا یہ مرثیہ شخصیت اور فن کا حصہ نہیں افریقہ کے  
لیے اپنی آنکھوں سے غم کے چھال چھیلنے والے ایرانی طلبہ کا مرثیہ لکھنے

والے شاعر کے لیے کہ بلا علامت نہ بن سکی۔<sup>1</sup>

میزبان حسن رضوی نے فیض سے مرثیہ لکھنے کا سبب پوچھا تو فیض کا جواب یہ تھا :

”ایک تو موضوع ہی ایسا ہے کہ اس سے ہمارا تعلق بتا ہے،  
دیے بھی زیٹ اے۔ بخاری ہمارے استاد بھی مرثیہ لکھتے تھے، فرمائش  
بھی ہوئی اور ہم نے مرثیہ لکھا۔ کراچی میں کچھ ماحول اور فضا بھی میسر  
آئی کہ مرثیہ لکھنے کی ترغیب پیدا ہوئی۔“<sup>2</sup>

فیض نے وہ ساری باتیں کہہ دیں کہ جوان کی مرثیہ نگاری کا محرك بنیں۔ ایک تو  
موضوع ہی ایسا ہے کہ اس سے ان کا اور تقریباً تمام ترقی پسند شعرا کا تعلق ہے۔ ظلم و تم اور  
سماجی انصاف کے لیے انھیں ایک ایسے مثالی کردار کی ضرورت تھی، جو انسانیت کا علم بردار  
ہو۔ ممتاز حسین نے ایک جگہ لکھا ہے :

”اب کرداروں کے ٹائپ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک  
حقیقت نگار صرف اسی ٹائپ کے کرداروں کی مصوری سے حقیقت کو  
گرفت میں نہیں لاسکتا، جو مرتبی ہوئی حقیقت یا اپنے ماحول کا شکار ہو  
کر رہ گئے ہیں۔ اس میں حقیقت کی تصویر موجود ہوتی ہے، لیکن وہ  
ادھوری ہے۔ پوری حقیقت کو پیش کرنے کے لیے ایسے ٹائپ کے  
کرداروں کو منتخب کرنا ضروری ہے، جو گویوں سے گھائل ہو کر بھی  
انسانیت کا پرچم اڑاتے جاتے ہیں۔“<sup>3</sup>

مندرجہ بالا اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعروں اور قلم کاروں نے خود رخیق پر دستک دی  
تھی اور پھر ماحول اور فضا بھی میسر آئی، فرمائش سے وقتی تحریک بھی ملی، لیکن بغیر داخلی تحریک

<sup>1</sup> تبصرہ ڈاکٹر ابوالحسن کششی، مشمولہ، ”سرنیوا“، مطبوعہ فروردی، 1982، کراچی، ص 16۔

<sup>2</sup> انٹر ویو، فیض احمد فیض، جگ فورم، لاہور، میزبان حسن رضوی، مشمولہ روز نامہ ”جنگ“، کراچی،

18 فروردی، 1983، ص 3۔

<sup>3</sup> ”نے تقیدی گوشے“، ممتاز حسین، مضمون ”صورت معنی“، آزاد کتاب گھر، دہلی، 1964، ص 18۔

کے فیض نے مرشیدہ نہ کہا ہوگا۔ اگر حصول ثواب کے خاطر مرشیدہ لکھا ہوتا تو اتنی بڑی عمر میں ان کے یہاں حمد و نعمت وغیرہ کا ایک ذخیرہ موجود ہوتا۔

فیض نے بھی مسدس ہی کی ہیئت کو اپنایا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ فیض نے لظم کی تکمیل کی راہ میں بہت سی منزلیں طے کی ہیں اور نئی ہمتوں کو موثر بنایا ہے۔ فیض کے مرشیدہ کا جائزہ ان کے اسلوب کے حوالے سے ہی لیا جاسکتا ہے۔ فیض سماجی حلقہ کے اظہار میں بھی فن کارانہ حسن کو برقرار رکھتے ہیں۔ انھوں نے جذبات کی مناسبت سے انہمار کی ساخت کو ہمیشہ پابند رکھا ہے۔ اکثر فیض مخفی بند سے شروع کر کے معزی مصروعوں پر ختم کرتے ہیں۔ داخلی معنویت کبھی بھی خارجی تغیر کو محسوس نہیں ہونے دیتی۔ ایجاد و اختصار سے کام لینا ان کی عادت ہے۔ ان کے سر دھیمے اور رنگ ملائم ہوتے ہیں۔<sup>1</sup>

فیض کے غم میں تلخی، بے زاری یا پسپائی کے بجائے ایک طرح کی کک ہے۔

”سر وادیٰ سینا“ کی مثال ملاحظہ ہو۔

بالیں پہ کہیں رات ڈھل رہی ہے      یا شمع پکھل رہی ہے

پہلو میں کوئی چیز جل رہی ہے      تم ہو کہ مری جان نکل رہی ہے

ایک دوسری لظم میں تہائی رات کی شکل میں آتی ہے۔

رات یوں دل میں تری کھوئی ہوئی یا دآئی

جیسے دیرانے میں چکپے سے بہار آجائے

جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے بادمیم

جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آجائے

یہاں ہر مصرع میں ایک الگ تصویر ہے لیکن تسلسل اور ربط ہے۔ فیض جب غم جانال سے غم

دوراں کی طرف آئے تو انقلابی مضامین میں بھی وہی درودمندی کے تاثرات پیدا کر دیے۔ ان

کی انقلابی شاعری خطیبانہ لہجہ کی شاعری سے زیادہ پر تاثیر ثابت ہوئی۔

فیض کے یہاں تہائی ایک بنیادی جذبہ ہے۔ یہ ان کا زخم بھی ہے اور مرہبم بھی۔

1۔ ”جدید اردو مرشید“، محمد رضا کاظمی، ص 172۔

فیض کی حزنی نظموں میں بھی تہائی کا احساس ہے۔ محمد رضا کاظمی لکھتے ہیں:  
”فیض کے ذہن میں مرثیہ کا ایک رجالی تصور اجاگر ہو رہا  
تھا۔“<sup>۱</sup>

اور فیض نے ایک اہم تجربہ کیا جوان کے مرثیے ع ”رات آئی ہے شیر پہ یلغار بلا ہے“  
میں موجود ہے۔

مرثیہ ایک بیانیہ صنف ہے جو تسلیل اور اندرونی تعمیر کے لحاظ سے اظہار چاہتا  
ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مضمون کے پھیلنے سے بندش کی چستی، سستی میں بدل جائے۔ فیض کے  
مرثیے میں صرف ایک بندقابل تعریف ہے  
پھر صحیح کی لو آئی رخ پاک پہ چمکی اور ایک کرن مقتل خوناک پہ چمکی  
نیزے کی انی تھی خس و خاشاک پہ چمکی شمشیر برہنہ تھی کہ افلک پہ چمکی  
دم بھر کے لیے آئندہ رو ہو گیا صمرا  
خورشید جو ابھرا تو لہو ہو گیا صمرا  
اس مرثیے (مرثیہ امام) کے علاوہ فیض نے کوئی پاقاعدہ مرثیہ نہیں لکھا۔ اگر وہ اس  
طرف باقاعدہ توجہ کرتے تو بلاشبہ وہ ایک اچھے مرثیہ نگار ہوتے۔ پروفیسر عقیل رضوی  
نے لکھا ہے:

”چونکہ فلسفہ کر بلاؤ غم حسین کو انہوں نے تہذیبی تجدیب  
کے ساتھ اپنایا، اس لیے ان کی کچھ نظموں کی فضائیں بھی مرثیت کی وہی  
صورت پیدا ہوئی، جسے صحیح معنوں میں جدید مرثیے کا معارضی رخ کہنا  
چاہیے کہ مرثیے میں جدید رنگ اپنی مصروفیت سے زیادہ کامیاب ہے  
کیونکہ وہ سماج کے دلوں کی آواز بتاتا ہے، جس میں اوپری فضایا بہت کم  
ہے۔ فیض نے جس طرح کر بلاؤ اور اس کے غم مشترک کو اپنے اشعار اور  
مصریوں میں جذب کیا ہے۔ وہ مصری اور اشعار بڑے بڑے بیانیہ

<sup>۱</sup> ”جدید اردو مرثیہ“، محمد رضا کاظمی، ص 184۔

مرشیوں پر بھاری ہیں، جن میں احساس کی زیلیں لہریں (Under Currents) چلتی رہتی ہیں۔ جن میں شور و شغب نہیں مگر جنہیں محسوس کر کے غم صین کی شدت احساسات پر چھانے لگتی ہے۔<sup>1</sup>

فیض کی نظموں کے عنوانات سے بھی واقعہ کربلا کے اثرات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ان کے یہاں اس مرکزی حوالے کا اثر نظموں میں بالخصوص متباہ ہے اور غزلوں میں یہ حوالے نہ کے برابر ہیں۔ ان کی نظم "آج بازار میں پا بجولاں چلو" اسی نوعیت کی ہے۔ اس نظم کی بنیادی کیفیت بے گناہی اور حق کے لیے قربانی ہے۔ فیض کی یہ نظم "آج بازار میں پا بجولاں چلو"، جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے، کیا اس میں امام زین العابدینؑ کی وہ صورت نظر نہیں آتی، جب انھیں بازار کوہہ و شام میں پیدل پا پہ زنجیر گھمایا گیا۔

آج بازار میں پا بجولاں چلو  
خاک بسر چلو، خون بدماں چلو  
حاکم شہر بھی مجمع عام بھی  
تیرا الزام بھی سنگ دشام بھی  
صح ناشاد بھی روزِ ناکام بھی  
دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے  
رخت دل باندھ لو، دل فگار چلو (دستِ سنگ)

ڈاکٹر عقیل رضوی کا خیال ہے۔ "مرشیوں کا سماجی ارتقا اب اسی صورت میں ہو رہا ہے، جس میں علیت ہے اور مین الاقوامیت بھی۔ اور شاید یہی شعری اور تہذیبی تجدید آج کی مرثیت کا عروج بنتی ہے۔ اس رنگ میں نظمیں بھی لکھی جا رہی ہیں اور غزلوں کے اشعار بھی اور طویل مرثیے بھی جو بیانیہ کے ساتھ ساتھ فکری اور محسوساتی طریقوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔"

"غبار ایام" کی ایک نظم "شام غربت" کے عنوان سے ہے۔

<sup>1</sup> "مرثیے کی سماجیات"، عقیل رضوی، ص 98-99۔

دشت میں سوختہ سامانوں پر رات آئی ہے      غم کے سنسان بیبانوں پر رات آئی ہے  
 نور عرفان کے دیوانوں پر رات آئی ہے      شمع ایمان کے پروانوں پر رات آئی ہے  
 بیت شبیر پر غربت میں گھٹا چھائی ہے  
 درد سا درد ہے تہائی کی تہائی ہے  
 ایسی تہائی کہ پیارے نہیں دیکھے جاتے      آنکھے سے آنکھے کے تارے نہیں دیکھے جاتے  
 درد سے درد کے مارے نہیں دیکھے جاتے      ضعف سے چاند ستارے نہیں دیکھے جاتے  
 ایسا سنا کہ شمشانوں کی یاد آتی ہے  
 دل دھڑ کئی بہت دور صدا جاتی ہے

### (شام غربت)

ہلال نقوی کا خیال ہے کہ ”فیض کا دھیما اور سلگتا ہوا زم لہجہ شاید مرثیے سے زیادہ سوز کے لیے موزوں ہے۔ مرثیہ جس وسعت خیال کا پھیلا دا اور ایک نظریہ تو انائی کا مقاضی ہے، وہ فیض کے ختن میں نہیں۔ اس کے برعکس سوز خوانی کے لیے لکھی جانے والی تخلیق جس اختصار سے ایک کامیاب تخلیق بن سکتی ہے وہ ان کے بیہاں موجود ہے۔“<sup>1</sup>

ہلال نقوی باصلاحیت مرثیہ نگار ہیں، لیکن شاید ان کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ مرثیے کی بیت میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے اور شاید کچھ ایسے مرثیے بھی لکھے جاسکتے ہیں۔ عقل رضوی ”مرثیے کی سماجیات“ میں صفحہ ۱۴ پر لکھتے ہیں: ”اگر چہ مرثیہ بیانیہ ہو کر محوسات میں سے گا تو فیض کا پیداگ اور طرز اسے نیار استرد کھائے گا۔“

### سردار جعفری (1912 - )

یہ عجیب اتفاق ہے کہ جوش، جیل، آل رضا وغیرہ نے غزوں اور نظموں کے بعد مرثیہ گوئی کے میدان میں قدم رکھا اور کامیاب مرثیے لکھے۔ سردار جعفری نے پہلے مرثیہ گوئی شروع کی (جیسا کہ انہوں نے ”لکھنؤ کی پانچ راتیں“ میں تحریر کیا ہے) اور بعد میں نظموں پر

<sup>1</sup> ”بیسویں صدی اور جدید مرثیہ“، ہلال نقوی، ص 742۔

طبع آزمائی کی اور مرثیے کو اپنے پیغام کا ذریعہ نہیں بنایا۔ ان کے مرثیے ترقی پسند تحریک سے پہلے کے ہیں، جب ان کے شعری بہاؤ میں یہ علیحدی نہیں تھی اور ان کے نظریات کا اس پر پروٹو نہیں پڑا تھا۔ اگر وہ اپنی مرثیہ گوئی کا سفر جاری رکھتے تو اس کا امکان تھا کہ ان کی نظموں کے ساتھ ساتھ مرثیہ کو بھی تنقیدی سطح پر لا جاتا۔

بہر حال ان کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تین چار مرثیے لکھے

- تھے:-

(1) آتا ہے کون شمع امامت لیے ہوئے

(2) آتا ہے ابن فاقع خبیر جلال میں

(3) اے بلبل ریاض بیان غمہ بارہو

سردار جعفری کا بیان ہے کہ اس میں ان کی زبان تشبیہ، استعارے، ترتیب ہر چیز انیں کی تھی، میرا اپنا کچھ نہیں تھا۔ سردار جعفری کے مرثیوں میں انیں کے مرثیے کی فضا اکثر مقامات پر نظر آتی ہے۔

نینبُ کے دونوں لال تھے خوش کوہ سارے قاسم تھے باغ باغ گلوں کے گھار سے

اکبر نہال مستی میں سرو بہار سے عباش کی لڑی ہوئی آنکھیں کچھار سے

ساحل جو کر رہا تھا اشارہ حسین کو

موجوں نے ہاتھ اٹھا کے پکارا حسین کو



## (ج) آزادی کے بعد ہندوستان میں مرثیہ گوئی

1947 میں ہندوستان و حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آزادی کے بعد مرثیہ گو شعرا نے سیاسی انتشار، تقسیم وطن کے اثرات، معاشری و معاشرتی رجحانات کو اپنا موضوع بنایا۔ جوش کے دور میں مرثیہ جنگ آزادی اور اس وقت کے سماجی مسائل کو پیش کرتا تھا۔ آزادی کے بعد کے مرثیوں میں بھرت کے کرب کو دیکھا جاسکتا ہے۔ مرثیہ نے تقریباً ہر تحریک کا ساتھ دیا۔ اگرچہ جوش، جیل، آل رضا اور نسیم امر و ہوی کی مرثیہ نگاری کا ذریں دور آزادی کے بعد کا ہے، مگر ان شعراء کی مرثیہ گوئی کا ذکر پچھلے باب میں کیا جا چکا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کی مرثیہ نگاری کا آغاز 1947 سے پہلے ہو چکا تھا۔ آزادی کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی مرثیہ گوئی کا ذکر الگ الگ جائزہ لینے کی روشن عام ہے۔ اس لیے یہاں ہندوستان کی مرثیہ گوئی کا ذکر الگ الگ کیا جاتا ہے، جس سے اندازہ ہو سکے کہ ہندوستان کی مرثیہ نگاری اور پاکستان کی مرثیہ نگاری کے بنیادی حرکات کیا ہیں۔

آزادی کے بعد ہندوستان کے چوٹی کے شعراء ترک وطن کر کے پاکستان چلے گئے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں اردو زبان کے ساتھ جو نا انصافی کی گئی، اس سے ہر شخص واقف ہے۔ مرثیہ نگاری سے کسی بھی طرح حصول دولت کی امید نہیں، صرف حصول ثواب اور سامعین کی داد مرثیہ نگاروں کے حصے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں مولویوں کی تحریک بھی مرثیے کے حق میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ بقول عقیل رضوی:

”ایک طرف تو ایسے مرثیوں کو ”سدس کے تحریر آمیز نام سے یاد کیا گیا۔ گویا یہ مرثیے نہیں ہیں، نظمیں ہیں اور دوسری طرف خود اپنے قبیل کے لینے نئے نئے خطابات گڑھے اور مشتہر کیا کہ عوام کی طرف سے یہ خطاب انھیں عطا ہوئے ہیں۔ ان خطاب میں ”اہ بیت“ یا علماء کا اضافہ کر کے خود کو ذکر حسین سے وابستہ کر لیتے۔ کوئی نہ جانتا کہ یہ القاب کہاں سے آتے ہیں اس طرح عوام میں اپنے علم کا سکھ بھٹھا کر مرثیہ گوئی کو دیں نکالا دیا جانے لگا۔“<sup>1</sup>

ان وجوہات کی بناء پر ہندوستان میں مرثیہ گوئی کا رواج اس طرح نہ ہو سکا، جس طرح پاکستان میں ہوا۔ وہاں علامہ رشید ترابی جیسے علماء نے اپنی تقریزوں کے ذریعہ مرثیہ نگاری کو ایک موضوع عاتیٰ رجحان دیا اور مرثیے کے عشرے قائم کر کے مرثیہ گوئی کی روایت کو قائم کیا۔ پاکستان میں مرثیہ گوئی کا ذکر اگلے باب میں کیا جائے گا۔ یہاں ہم ہندوستان کی مرثیہ نگاری کا جائزہ لیں گے۔

جو ش کے بعد رزم روڈلوی نے مرثیوں کو موضوعاتی انداز دیا۔ اس دور میں تدبیم انداز کی مرثیہ گوئی کے سلسلے میں خصوصی طور پر باقراامت خانی، ناصر زید پوری، مہذب لکھنؤی اور ذوالقدر جونپوری کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ کچھ ایسے شعراء بھی ہیں جو مضمائیں واظہار خیال میں بڑی حد تک روایتی انداز کے پیرو ہیں۔ لیکن جدید طرز اور جدید لکھکری جھلک بھی کسی نہ کسی انداز میں ان کے یہاں نظر آتی ہے۔ آج کا مرثیہ موجودہ مسائل کو پیش کر رہا ہے۔ مرثیہ نگار کر بلکہ کرداروں کو نظیر بنا کر عوامی زندگی میں صبر و ضبط، امن و آشنا، عزم و شجاعت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کے سائنسی اور صنعتی دور میں علم نے ساتھ عمل پر زور دیا جا رہا ہے۔ مرثیہ گو شعراء نے وقت کے تقاضے کے تحت حساس اور متحرک موضوعات کی پیش کش میں علمی اور ملطقی مباحثت سے کام لیا ہے۔ اس کے ساتھ وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے مرثیہ انقصار کے ساتھ موثر مoad فراہم کر رہا ہے۔

<sup>1</sup> ”مرثیے کی ساجیات“، عقیل رضوی، ص 56-57۔

ہندوستان میں مختلف شہروں، دیہاتوں اور قصبوں میں مرثیہ لکھنے والوں کی تعداد کا پتہ گانا کوئی آسان کام نہیں، لیکن جو شہرت یافتہ ہیں، ان کے سامنے گرامی اس طرح ہیں:  
ڈاکٹر وحید اختر، مہدی نظمی، نعمانی لال حشی، احسن رضوی دا ناپوری، پیام عظیٰ، ناشر نقوی وغیرہ۔

اس دور میں عناصر مرثیہ کی پابندی سے ہٹ کر فکر و فلسفہ پر زور دیا گیا ہے۔ رزمیہ عناصر گھوڑے اور تلوار کی تعریفوں اور دست بہ دست جنگ کے بجائے جہاد نفس پر زور دیا گیا ہے۔ منظر نگاری اور مضامین کے بدلتے معاشرتی اصلاح کا پہلو نمایاں ہے۔ مرثیے کے ذریعہ انسانیت کی تعمیر کا مقصد ہونے کے باعث مافوق الفطرت عناصر کا فقدان ہے۔ تہذیب اور معاشرت کی عکاسی بھی کم ہے۔ ایسے شعراء بھی ہیں جن کے یہاں روایت کا انداز بھی ہے اور جدید موضوعات بھی۔ ان شعراء میں وحید اختر کا نام لیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر عقیل رضوی کا خیال ہے:

”ہندوستان میں جدید مرثیے کی مثال تقریباً نہ ہونے کے  
برابر ہے۔ ایسے جدید مرثیے جو واقعی جدید ہوں اور جنہیں ادبی تقدیق  
اور حیثیت بھی حاصل ہو، صرف وحید اختر نے چھسات مرثیے کہے  
ہیں اور دوسری کوشش مہدی نظمی کی ہے جن کا مجموعہ ”مظلوم کربلا“ کے  
نام سے جون، 1986 میں شائع ہوا۔“<sup>1</sup>

### مہدی نظمی (1923-1987)

ان کا اصلی نام سید ابن الحسین تھا اور ادبی دنیا انھیں مہدی نظمی کے نام سے جانتی ہے۔ اپنے بارے میں مہدی نظمی کا بیان اس طرح ہے:  
”23 اپریل 1923 کو لکھنؤ کی ایک بُتی ”جو ہری علّہ“ کے  
ایک چھوٹے سے گھرانے میں پیدا ہوا۔ جس کے درود یوار پر عربی کا

<sup>1</sup> ”مہدی نظمی فن اور شخصیت“، مرتبہ ناشر نقوی، ص 23۔

سزہ اگ رہا تھا اور مغلائی کی بہار آئی ہوئی تھی۔ میرے دادا شاعر تھے  
نام تھا سید فرزند حسین فاخر۔ میرے والد شاعر تھے ان کا نام تھا سید  
اولاد حسین عرف للن صاحب شاعر، میری والدہ بھی لکھتی پڑھتی تھیں،  
ان کا نام تھا رضیہ بیگم۔ ان کی ایک تالیف بہت مشہور ہے ”ذکرۃ  
الصحابیات۔“<sup>1</sup>

غازی آباد میں انتقال فرمایا۔ ان کے مراثی کے مجموعوں میں ”مظلوم کربلا“ جلد  
اول و دوئم اور ”نذرائل بیت“ اہم ہیں۔

مہدی نقشی کے مراثی میں جدید مسائل کا بیان بھی ہے اور روایتی انداز بھی۔ گھوٹے  
اور تلوار وغیرہ کی تعریف، رخصت، رجز، سراپا وغیرہ کا ذکر بڑی حد تک روایتی انداز سے کرتے  
ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ رجت یہ بیان ہے۔

مصطفیٰ کے خون کی عصمت ہملے خل میں ہے	مصطفیٰ کی برکت و رحمت ہمارے خوں میں ہے
مرتضیٰ کی شوکت و حشمت ہمنے خل میں ہے	مجتبیٰ کے صبر کی رنگت ہمارے خوں میں ہے

راہ حق میں زندگی کی ہم نے کب پرواہ کی  
تم نے دیکھی ہے لڑائی قاسم نوشہ کی  
تلوار کی تعریف بھی ہے لیکن نئے اسلوب کے ساتھ اپنا الگ لطف رکھتی ہے۔

### تلوار کی تعریف:

آنکھ کا پردہ اٹھا اے شر برد اطور دیکھ	دھاک تھی جس کی ابوطالب کی وہ تلوار دیکھ
بدر میں چمکی تھی جودہ تنخ جو ہر دار دیکھ	جو مشیت ہے خدا کی، آج وہ پیکار دیکھ

نغمہ شمشیر حق ہے بندگی کا ساز ہے  
تنخ کی جھنکار میں تکبیر کی آواز ہے  
فوج اشقياء میں بھگدڑ کی منظر کشی کا نمونہ بھی دیکھتے ہے۔

1 ”مہدی نقشی فن اور شخصیت“، مرتبہ نشر نقوی، ص 23

نوج میں بھلڈڑ پڑی تھی، صف بہ صفت انتشار      اُڑ رہے تھے ہوش ابن سعد کے مثل غبار  
 شر و خوئی ڈھونڈتے تھے ہر طرف راہ فرار      خوف سے لزاں تھا شکر کیا پیادہ کیا سوار  
 یوں ہوئے پسپا کہ دم سینے سے لب پر آگئے  
 شہر کوفہ کی فصیلوں سے عدو نکرا گئے

ظاہر ہے کہ روایتی اجزاء ہیں جن کو نئے مرثیہ نگار کسی نہ کسی روپ میں پیش کرتے  
 ہیں۔ ان میں وہ بات کہاں جوانش اور ان کے دبتان کے دوسراے لوگوں کے یہاں ہے۔  
 جگ کے مناظر میں مہدی نظمی کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکے، لیکن مصائب کے بیان  
 میں انہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی۔

ٹھوکریں کھلتے ہوئے آئے جعل بیٹھے کے پاس      زخم تن، ضعف نظر، دل میں الہم، سینے میں یاس  
 نفس سرور، مطمئن ماحول کا منظر اداں      عالم حسرت میں بھی باقی رہے ہوش دھواس  
 کوئی بھی امکان نہیں اب درد میں تخفیف کا

پورا اندازہ ہے شہ کو زخم کی تکلیف کا

کھنچ لی زخم پرسے بآپ نے توک سنان      اس طرف نیزہ ادھر نکلی علی اکبر کی جان  
 سر جھکا کر کی سر بالیں پہ سرور نے نقاں      لاش کو تہا اٹھائے کس طرح یہ ناگوں  
 میت دلبد سینے سے لگا کر لے چلے  
 رحل دستِ صبر پر قرآن اٹھا کر لے چلے

ان کے مراثی کا خاص و صفات ان کے موضوعات ہیں۔ وہ کسی ایک موضوع کو  
 مرثیے کے ظرف میں کھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جناب حر کے حال کا مرثیہ ہے  
 تو محنت اور دولت کی شکل کو مرثیے کے چہرے میں جگہ دی ہے اور اسے مصائب سے مر بوط  
 کر دیا ہے۔ معاشرتی اور نیا سی موضوعات کو بھی انہوں نے اپنے مرثیے کا موضوع بنایا ہے۔  
 دوسرے مراثی میں انہوں نے غم، تشکنی، صبر، بھرت، تنخ، وفا اور ذوالفقار وغیرہ پر طبع آزمائی کی

ہے۔

پروفیسر عقیل رضوی ”مرثیے کی سماجیات“ میں ص 134 پر لکھتے ہیں:

”مہدی نظمی کے پاس کلاسیکی مرثیوں کی روایت بھی ہے  
اور تجویں کی خواہش بھی اس لیے ان مرثیوں میں فکری شاعری کے  
اچھے نمونے ملتے ہیں۔“

چند مثالیں دیکھئے۔ یہاں ایک لفظ ”غم“، کوئے کس طرح فکری تابع پیدا کر دیتے ہیں۔  
غم کی اک صورت ہے جلتی ریت پر خیمه لگے      غم کی اک صورت ہے آب نہر پر پہرا لگے  
غم کی اک صورت ہے جنگل کی ہوالوکا لگے      غم کی اک صورت ہے سوکھے حلق میں کانالے  
غم کی اک صورت ہے انصار و فاقہ کی تنسیگی  
تنسیگی کی آخری حد کربلا کی تنسیگی  
غم کی اک صورت سفر کرب و بلا سے شام تک      غم کی اک صورت چھپائکوں کی آنکھوں میں ٹک  
غم کی اک صورت ستم گر کے طمانچوں کی کمک      غم کی اک صورت لپ گوش سکینہ کی ٹپک  
غم کی اک صورت، کمر پرتازیانوں کی جلن  
بازوئے اہل حرم میں رسمانوں کی جلن  
دوسری جگہ جنگ کو موضوع قرار دیا ہے اور اس کے اسباب و عمل اور نتائج کا ذکر کرتے ہوئے  
اصلاح معاشرہ کی کوشش کرتے ہیں۔

کربلا ظلم وجفا کی مملکت سے جنگ تھی      حریت دشمن غرور تمکنت سے جنگ تھی  
حق کی باغی اور سرکش سلطنت سے جنگ تھی      پیکروں سے جنگ کب تھی ذہانت سے جنگ تھی  
جب کوئی خلقت کا دشمن فوج لے کر آئے گا  
پاسباں تخلیق کا سینہ سپر ہو جائے گا

عقل رضوی کا خیال ہے:

”مہدی نظمی کے مرثیوں میں عالمی تجھیں سماجی انتشار،  
ہتھیاروں کی دوڑ میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے اور زمیں کو  
چھوڑ کر آسمانوں اور ستاروں کی لڑائیاں، غرض کے تمام باتوں کے نتائج  
اور اثرات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو نئے سماج کا بنا خوف

اور کرہ ارض کی تباہ کاریوں کے عالمی خوف کی انٹرنشنل ذہنی اور سماجی پر اگندگی کا اندازہ کرنے کی کوشش ہے... ان کی چھین ماہی کی طرف نہیں لے جاتی کہ مریمیہ کا تھیم اور یہاں اپ روحانی ارتقاء کی بشارت دے کر نفسِ مطہرہ کی طاقت کو ابھارتا ہے۔ ۱

### وحید اختر (1996-1935)

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے سابق پروفیسر وحید اختر کے مراثی کا مجموعہ "کربلا تا کربلا" 1990 میں شائع ہوا۔ اس مجموعہ میں ان کے آٹھ مرثیے شامل ہیں جن کی تفصیل اس طرح ہے :

- 1- چادر تطہیر---مریم سے بھی سوا ہے فضیلت بتوں کی-- (در حال سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا)
- 2- قلعہ کشائے---قلعہ تعمیر کیے دست ہوں کاری نے -- (در حال موالعہ کائنات اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب)
- 3- شہید عطش---برسی نہیں نغموں کی گھٹائیں کئی دن سے-- (در حال علی اصغر)
- 4- علمدار امن---اے ساقی حیات میجانے کائنات-- (در حال ابو الفضل العباس)
- 5- سالار قافلہ شوق--- ہے قافلہ جرأت رفتار سفر میں-- (در حال سید الشهداء حسین بن علی)
- 6- تنی زبان نہ سب--- رات یعن کے چراغوں پر بہت بھاری ہے-- (در حال ثانی زہرا زینب کبریٰ بنت علی)
- 7- شہادت نطق--- یا رب مری زبان کو جرأت بیاں کی دے-- (در حال شبیہ پیغمبر علی اکرمؐ ابن الحسینؐ)
- 8- کربلا اے کربلا--- کربلا! اے کربلا! اے کربلا! اے کربلا!-- (در حال مظلومان شہادت)

1۔ "مریمیہ کی سماجیات"، عقیل رضوی، ص 135۔

ہال نقوی کے ایک خط کے جواب میں وحید اختر لکھتے ہیں:

”بچپن میں ذاکری کرتا تھا اور مذہبی کتب کا مطالعہ کرتا تھا۔ پھر شاعری کی دوسری اصناف کی طرف برسوں توجہ رہی۔ پہلا مرثیہ لکھنے کی تحریک ایک کہنہ مشق استادخان کے اس ارشاد سے ہوئی کہ موجودہ دور میں مرثیہ میں کس طرح کا اضافہ کرنا اور نیارنگ پیدا کرنا ممکن ہے۔ اس بات کے دونوں کے اندر پہلا مرثیہ کہہ کر مجلس میں پڑھا۔ دوسرا حکم یہ خیال ہوا کہ قدیم اور متروک اصناف خصوصاً مرثیے میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اسے حالات حاضرہ کی مناسبت سے نیارنگ و آہنگ دیا جائے۔ پہلا مرثیہ بچپن میں لکھا تھا جو ضائع ہو گیا۔ 1961 سے اب تک 13 مرثیے کہہ چکا ہوں۔“

(مکتوب مرقومہ 24 جولائی 1980، شعبہ فلسفہ، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ)

وحید اختر کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 1980 تک 13 مرثیے لکھے۔ ڈاکٹر سید طاہر حسین کاظمی نے ”اردو مرثیہ انیس کے بعد“<sup>1</sup> میں لکھا ہے کہ انہوں نے تقریباً 16 مرثیے کہے ہیں۔ ۱۔ جو مرثیے ”کربلا کربلا“ میں شامل نہیں ہیں ان کے مطلع اس طرح ہیں :

- 1- پھر اے قدمِ قدرت اظہار روں ہو۔۔۔ (مدینے سے سفر اور واپسی)
- 2- باعثِ خلقت کل عالمیان ہیں احمد۔۔۔ (حضرت مسلم بن عقیل کے حال پر)
- 3- شب شہادت اہل نجات ہے بیدار۔۔۔ (حضرت قاسم کے حال میں)
- 4- صحبتیں تھامتی ہیں دامن بیمار کہاں (پہلا حصہ)۔۔۔ (امام زین العابدین کے حال میں)
- 5- صحبتیں تھامتی ہیں دامن بیمار کہاں (دوسرہ حصہ)۔۔۔ (ایضاً)
- 6- بند ہے قفل درساقی صہبائے والا۔۔۔ (روز عاشورہ شہادت امام حسین)

<sup>1</sup> ”اردو مرثیہ انیس کے بعد“، سید طاہر حسین کاظمی، ص 255۔

7۔ لے کر علم شاعروں کے جب آفتاب اٹھا۔۔۔ (حضرت عباش کے حال میں)

8۔ کس قیامت کی گھری بعد شہید اں آئی۔۔۔ (بحوالہ ہلال نقوی)

اس طرح وحید اختر کے مرثیوں کی تعداد 16 تک پہنچتی ہے۔

وحید اختر نے شاعری کی اپنادا، عزائیہ شاعری سے کی۔ سالوں تک یہ سلسلہ منقطع بھی رہا۔ پھر جدید شاعری میں اپنا نام اور مقام پیدا کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ مرثیے کہے۔ انہوں نے اپنے تمام مرثیے اس دور میں لکھے جب جدید شاعری کا دور آپ کا تھا اور ترقی پسند شاعری ماند پڑ چکی تھی۔ اسی لیے ان کے مراثی میں قدیم اور جدید طرز کا احساس ہوتا ہے۔ انہوں نے رثاست کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ وہ فکری حزن کے قائل نہیں۔ ”کربلا تا کربلا“ کے پیش گفتار میں لکھتے ہیں :

”مرثیہ اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے اگر رثا کے مقصد کو پورا نہیں کرتا اور محض چند واقعات کا بیان یا انقلابی نظرے تک محمد و درہ تا ہے تو اسے مشکل سے مرثیہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی لحاظ سے میں جوش یا بجم کے مرثیوں کو مرثیہ نہیں سمجھتا۔“<sup>1</sup>

وحید اختر نے مرثیے کو اسی دور کے مسائل سے جوڑا ضرور ہے، لیکن ان کے مرثیے سیاسی نہیں، ان کے مرثیوں کی فحنا تاریخی ہے۔ ان تاریخی واقعات کے سہارے سے یا ان واقعات کو جنہیں تاریخ کا درجہ دے دیا گیا ہے، اپنے مرثیوں میں ڈرامائی انداز سے پیش کیا ہے۔ ان کا پہلا مرثیہ ”جادوِ تطہیر“ ہے اور آئیہ تطہیر و آئیہ مبلله کے حوالے سے اس چادر کو کائنات کے لیے مادری محبت کا سایہ بنادیا ہے۔

بیانیہ تکنیک کا استعمال اور فوق الفطرت عنصر کی شمولیت انھیں قدیم مراثی سے قریب کرتی ہے۔ وقت پر گہری نظر کی وجہ سے ان کے مراثی عوام کے جدید مسائل سے بھی جڑ جاتے ہیں۔ اسی مرثیے کی دوسری علامت ”چکلی“ ہے۔ یہ بقول ان کے خاندانِ عصمت کی باشرف دنیا کو محنت کش عوام سے جوڑتی ہے۔

<sup>1</sup> ”کربلا تا کربلا“، وحید اختر، ص 17۔

چکی ہے فاطمہ کی کر ہے گردش زماں      ہے اس کا ایک پاٹ زمیں ایک آہاں  
 پیں اس کے ساتھ رقص میں مہروستار گاں      آتا ہے اس کا نور تو دانہ ہے کھکشاں  
 پاؤں سے اس کے نور کے دھارے نکلتے ہیں  
 پچھلے پھر اندر ہیرے میں تارے نکلتے ہیں

چکی کے ساتھ چلتا ہے دنیا کا انتظام      بچوں کو دودھ ملتا ہے، مسکینوں کو طعام  
 ایماں کو زور ملتا ہے اسلام کو قیام      چلتا ہے اس سے دین کے میخانے کا نظام  
 اس کا فشردہ ساقی کوثر کا جام ہے  
 اس کے لبوں پر ختم رسال کا پیام ہے

اس مرثیہ میں کئی تلمیحات ہیں لیکن چادر کو اہمیت حاصل ہے۔  
 کس کی شنا میں آئی تقطیع آئی ہے      رحمت کا ابرہن کے روکس کی چھائی ہے  
 کس کی نقاب نور کی جلوہ نمائی ہے      فتحِ مبلدہ نے قسم کس کی کھائی ہے  
 کس کے قدم سے صرف ناء باشُر فہولی  
 دلہیز کس کی معدنِ درج نجف ہوئی

جدید مرثیہ نگاروں نے افرادِ مرثیہ کی مجرماتی طاقت و کیفیت کو نظر انداز کر دیا ہے، لیکن وہی آخر  
 نے جہاں افرادِ مرثیہ کے کردار کو تاریخ کے آئینے میں پیش کیا ہے، وہاں انھیں بشری  
 خصوصیات کا حامل دکھا کر قدمِ یومِ جدیدِ رنگ سے ہم آنگ کیا ہے۔  
 حق کا غرور خدمتِ خیر الوری میں تھا      غربت کا عیش دیدِ حبیب خدا میں تھا  
 فتحِ بیس کا وعدہ نبی کی دعا میں تھا      لطفِ جہادِ زندگیِ مصطفیٰ میں تھا  
 ہر جنگ اب تو مالی غنیمت کی جنگ ہے  
 طاقت کی، اقتدار کی، دولت کی جنگ ہے

دوسری طرف انہوں نے امام کے رجیبیہ بیان میں یہ اندراختیار کیا ہے۔  
 ہم رات کو دیں حکم تو سورج نکل آئے      ہم ماریں جو ٹھوکر ابھی دریا اہل آئے  
 ہم تفعیل اخالیں تو تمہاری اجل آئے      ہم جب بھی کہیں قطمِ جہاں میں خلل آئے  
 مختار ارادے کے ہیں مجبور نہیں ہیں  
 کیا تم ہو خدائی سے بھی مجبور نہیں ہیں

مندرجہ بالا بند سے ثابت ہے کہ انھوں نے مریئے کے کرداروں کو نہ صرف بشری حیثیت سے پیش کیا ہے اور نہ ہی مصائب کی غرض سے مجبور و نیکس دکھایا ہے۔ ظاہر ہے کہ شہادت امام حسین کا مقدر تھی، مگر اس شہادت کو انھوں نے شعوری طور پر قبول کیا تھا۔ قدیم مرثیوں پر یہ اعتراض کہ ایک طرف امام حسین کے صبر کی تعریف کی جاتی ہے اور دوسری طرف انھیں روتا دھوتا دکھا کر ان کی توہین کی جاتی ہے۔ یہ اعتراض بین کی اس صورت پر صادق آتا ہے جہاں حظیر مراتب کا خیال کیے بغیر مریئے کو ممکن بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔

وحید اختر نے ایک مریئے میں شامِ غربیاں سے متعلق کچھ بند لکھے ہیں۔ سوز و گداز، شدتِ احساس اور فکر و فن کے اعتبار سے اپنی انفرادیت کا نمونہ ہیں۔ اس موقع کی منظر کشی میں علامہ جیل مظہری کے مریئے ”شام، غربیاں“ کی یادتازہ ہو جاتی ہے۔

چھپ گیا مہر، گھنی ہو گئی آلام کی شام      چکا نیزے کی بلندی پر سر شاہِ اناام  
چادریں چھٹی ہیں، گھر جلتا ہے، لنتے ہیں خیام      عورتوں بچوں کے رونے سے پڑا ہے کہرام  
روکنے والا نہیں کوئی ستم گاروں کو  
پرسہ بھی دیتا نہیں ہے کوئی غم خواروں کو

ہونکتا دشت وہ لاشوں کا ڈراڈنا جنگل      وہ سیہ رات وہ آلام کے کالے بادل  
چاند پر مردہ لہو رنگ ستاروں کا کنول      سر پر چھٹت گھر کی نہ سایہ نہ ردائے آجیل  
بیباں نجمہ آلام میں گھبرا تی ہیں

کوئی پتا بھی کھڑکتا ہے تو ڈر جاتی ہیں

زخم چھتے تھے سکتی تھی زمین مقل      نکلو تے غوں کے تھے اور نیزوں کے ٹوٹے ہوئے پھل  
طلب و فرنا کی صدائیں تھیں نہ آواز داں      پھرتے تھے غول درندوں کے پرندوں کے دل  
دشت میں لاش امام شہداء تھا تھی

نجمہ سونتہ میں آل عبا تھا تھی

سرپا نگاری میں بھی اپنی انفرادیت کو قائم رکھا ہے۔ ایک طرف امام حسین کے سر کا نقشہ کھنچا ہے، جو اسیروں کے ساتھ ساتھ نیزے پر بلند بازار کوفہ و شام میں لے جایا گیا۔ تو دوسری

طرف دربار یزید کی نقشہ کشی اس طرح کی ہے۔

ابرو ہلال ، ماتھا فلک ، آنکھیں ماہتاب      بنی بلند، لوٹ ہیں گل، ہونٹ ہیں خوش آب

واللیل زفیس ، چہرہ ہے والغیر کی کتاب      رخسار لالہ رنگ ، ذقن دستہ گلاب

چھینٹوں سے خون کے ریش مطہر خضاب ہے

گردن ہے یا کہ شاخ گل آفتاب ہے

چہرے فولاد کے ہیں ماتھے ہیں زنجروں کے      پاؤں نیزوں کے ہیں ہاتھ ہیں شمشیروں کے

چشم و مرثگاں ہیں کہ ترکش ہیں بھرے تیروں کے      سنگ ہیں قلب جوانوں کے جگر پیروں کے

نظروں کے اٹھنے میں ہے تیروں کے چلنے کا اثر

سانس لینے میں ہے شمشیروں کے چلنے کا اثر

وحید اختر کے مرثیوں کے خاص اوصاف ان کے موضوعات ہیں۔ ہر مرثیہ کی نہ

کسی خاص موضوع سے مطابقت رکھتا ہے۔ ان کا دوسرا مرثیہ جو ”کربلا تا کربلا“ میں شامل

ہے ”قلعہ کشائے“ ہے۔ حضرت علی کی شخصیت قلعہ شکن اور بت شکن کی ہے۔ انہوں نے ”

قلعہ“، کو ظلم، طاقت، ہوس، زور اقتدار، شاہی سرمایہ داری کا ”استعارہ“ بنا کر پیش کیا ہے اور

قلعہ اس خوف و ہراس کا بھی استعارہ ہے، جو انھیں انقلاب آفرین قدوں سے محosoں ہوتا ہے

اور حضرت علی کو ایک قلعہ شکن کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔

تیسرا مرثیے میں حضرت علی اصغرؑ کی شہادت کا بیان ہے۔ اسی لیے یہ مرثیہ اس

مصرع سے شروع ہوتا ہے اور

”بری نہیں نعموں کی گھٹائیں کئی دن سے“

بقول ان کے یہ مرثیہ پیاس اور شیر خوارگی کے خون کی داستان ہے۔ اس لحاظ سے گھٹاؤں کے

نہ برنسے کی شکایت سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ وحید اختر کے مرثیوں کے عنوانات بھی ذہن کو

متوجہ کرنے لگتے ہیں اور شروع سے آخر تک اپنے موضوع پر قائم رہتے ہیں۔

چوتھا مرثیہ ”علمدار امن“ ہے۔ ”اے ساقی حیات سیجائے کائنات“

اس مرثیے میں انہوں نے حضرت عباش کی شہادت بیان کی ہے۔ حضرت عباش کے علم کو ”امن کا نشان“، قرار دے کر انھیں جگ کے خوف سے سہی ہوئی دنیا کو امن کا راستہ دکھانے والا قرار دیا ہے۔ چونکہ حضرت عباش کو سقاۓ سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے انھیں ساقی حیات کے روپ میں پیش کیا ہے۔ ساقی کے پیکر میں گونا گون گنجائش پیدا کی ہے۔ امن کے موضوع پر انہوں نے اپنے ساقی سے امن و امان کے جام کی جتو کی ہے جو اس دور کی سخت ضرورت ہے۔

ساقی بیام امن مئے لالہ قام دے      مخوار منتظر ہیں انھیں اذن عام دے  
ٹھہرے ہوئے ستاروں کو حکم خرام دے      ہم وزن مہرو ماہ جو ہوا ایسا جام دے  
فکر بلند عرش معظم وقار ہو  
اک قطرہ خیال دو عالم شکار ہو  
پانچواں مرثیہ۔۔۔ ”سالار قافلہ شوق“، جس کا مطلع ہے۔ ”ہے قافلہ جرأۃ رفتار  
سفر میں“

یہ مرثیہ جب شب خون شمارہ نمبر 112 میں شائع ہوا (اگرچہ یہ مرثیہ ”سفر تھنگی شوق“ کے عنوان سے شائع ہوا تھا اور مطلع اس طرح تھا ”ہے قافلہ تھنگی شوق سفر میں“) تو شمس الرحمن فاروقی نے ایک صفحے کا نوٹ لگایا اور چند سوالات قائم کیے، جس میں سب سے اہم ہیں سوال تھا کہ کیا مسدس کی بیت کو باقی رکھتے ہوئے نئے اجزاء کی دریافت ممکن ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں:

”وحید اختر نے مسدس کی حد تک تو مرثیے کی روایتی شکل کو  
قائم رکھا، لیکن اس کے مختلف اجزاء کی پابندی نہیں کی ہے۔ ممکن ہے کہ  
یہ مرثیے ان روایتی اجزاء کی جگہ کچھ اور اجزاء کے انعقاد میں معاون  
ہو سکیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ مرثیے کی روایت کو زندہ تخلیقی  
عناصر کی شکل دینے کا جو کام میر انیس نے کیا اس کے سامنے نئے

اجزاء کی دریافت و تعمیر کا امکان بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ فی الحال یہ  
مرئیے بیانیہ شاعری میں ایک نئے باب کا افتتاح کرتے نظر آتے  
ہیں۔<sup>1</sup>

وحید اختر نے اس کے جواب میں مرئیے کے چند بنڈقل کیے ہیں جو ان کے مضمون  
”جدید مرئیے کے حرکات و اسالیب“، ”علم“، ”بہنی، مرشید و سلام نمبر، مرتب علی جواز یہی، میں  
49-50 میں شامل ہیں، پہلے باب میں اس کا ذکر کیا جا چکا ہے، وہاں موقع دوسرا تھا۔  
وحید اختر کے ان بنڈوں کو ملاحظہ فرمائیں۔

خامہ مراعم قلم حق سے جوان ہے  
فیض نبی و ساقی کوثر سے روال ہے  
ہے اک اسی نسبت سے قلم میر اسرافراز اسلوب کی جدت میں کلاسیک کا ہے اعجاز  
انہیار غمِ ذات ہے آفاق کی پرواز ہے مرئیے میں آج کی نظموں کا سائنداز  
ابلاغ کی ہر سڑک پر ترسیل ہے ممکن  
ایجاد و علامہ میں بھی تفصیل ہے ممکن

ہر تجربہ زیست ہے بے ہیئت و اسلوب احساس کو ہر طرح کے الفاظ ہیں مطلوب  
خصوص کوئی طرز نہیں فکر کو مرغوب کیوں صفتِ خن ہے کوئی خوب اور کوئی ناخوب  
ہو پھوٹنا چشے کو تو پھر بھی نہیں سخت

پھر شعر پر کیوں قافیے ہوں تنگ زمیں سخت  
 قادر ہو قلم تو نہیں رکتا ہے کہیں بھی یا قوت اگل دیتی ہے سنگارخ زمیں بھی  
دے اٹھتی ہے لوکھ درے لفظوں کی جیں بھی بن جاتے ہیں اصوات بدآہنگ حسین بھی  
لفظوں کی چنانوں سے البتے ہیں معانی  
اک بات کے سو رخ سے نکلتے ہیں معانی

<sup>1</sup> ”شب خون“، الہ آباد، شمارہ نمبر 112، ص 16

ہے نشکم آہنگ پہ جب شعر کا الزام  
کیوں مرثیہ و مشنوی و ہجو سے ابرام  
ناشاعرول کے تجربے کا شعر نہیں نام۔ تیشہ ہو تو ہر سنگ میں بیتاب ہیں اضام  
کہہ دے جو قلم کن تو ہو عالم نیا پیدا  
منی سے بھی کر لیتا ہے فن دیوتا پیدا

بہر حال وحید اختر نے صورت اور معنی کے رشتے کو واضح کیا ہے۔ وہ واقعہ کر بلایا  
ہیتی کردار میں وہ وسعتیں اور گنجائش پاتے ہیں، جو چودہ سو سال گذر جانے کے بعد بھی موجود  
ہیں اور موجودہ معاشرتی اور سیاسی تقاضوں کو پورا کرتی ہیں۔ انہوں نے مرثیہ نگاری میں کچھ  
ایسے امکانات پیدا کیے ہیں، جو آج کے دور کی حیثیت اور شعور سے معنوی ممااثلت رکھتے  
ہیں۔ ان کے نزدیک:

”کربلا مسلسل سفر کا نام بھی ہے۔ کربلا سے فکر و عمل کے  
جودہ اسے 60 ھو کو پھوٹتے تھے، انہوں نے مختلف سمتوں میں سفر  
کیا۔ ایک دھارا تصوف کی فکر بنا، دوسرے نے علم کلام میں جر  
واختیار اور عدل کی مناسبت کی شکل میں بنی امیہ سے لے کر بنی  
عباس کو ملوکیت تک پرواز کے لیے نظریاتی حربے کا کام کیا۔  
تیسرا دھارے نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے اصول کی  
تعییل میں ظلم کے خلاف جہاد بالسیف کی شکلیں اختیار کیں۔ یہی سفر  
انسانی تاریخ کے سینے میں آج بھی جاری ہے۔ اسی کا ایک مظہر  
1979 کا انقلاب ایران ہے اور Super Power کے مقابل  
اسلامی ایران کا جذبہ جہاد۔“<sup>1</sup>

وحید اختر کے اس مرثیے کا عنوان ”سفر شکنی شوق“، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ مرثیہ سفر امام  
سے متعلق ہے۔ پہلے چند بند ملاحظہ ہوں۔

1۔ ”جدید مرثیے کے تحریکات و اسالیب“، وحید اختر، (مشمول مضمون ”علم“، بمبئی، سلام و مرثیہ نمبر 1993)

حائل ہیں بہر گام مچلتے ہوئے نیلے اڑتے ہوئے گرتے ہوئے چلتے ہوئے ٹینے  
 ہر لمحہ اپنی جگہ بدلتے ہوئے نیلے ریتی ہے کہ اک آگ اگلتے ہوئے نیلے  
 طوفان قیامت ہے، غصب تیز ہوا ہے  
 ہلتی ہے زمیں اور فلک گھوم رہا ہے  
 ہے لوکا تپھیرا کہ طمانچہ ہے اجل کا وہ زور ہوا، کوہ بھی جس کے لیے ہلاکا  
 چلانا بھی غصب، تپھیرنا بھی ہے پل کا ہر گام یہ ڈر زیست کا پیانہ بھی چھلکا  
 ہمت کا سفینہ ہے گھرا، موت کی رو میں  
 چلتی ہے قدم مارتی زیست اس کے جلو میں  
 کون ان سے یہ پوچھئے کہ کہاں تھبیریں گے جا کر ہر فوج کا سر توڑ کے ابھرے یہ شادر  
 ان میں سے ہر اک فرد، ارادے کا دھنی ہے گھر ان کا سفر اور وطن بے دلنی ہے  
 اسی سلسلے میں ایک لمحاتی علیحدگی اس طرح آتی ہے۔  
 یہ قافلة جستجوئے اہل نظر ہے جو روز ازل سے یونہی سرگرم سفر ہے  
 چہرے پر اٹی گرد، سر را گزد رہے آنکھوں میں چمکتی ہوئی امید نظر ہے  
 صحراء ہو کہ دریا ہو کہ طوفان جفا ہو  
 رک سکتا نہیں پائے طلب لاکھ بلا ہو  
 وحید اختر واقعات کو چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے موت اور زندگی کے فلسفے پر غور کرنے  
 لگتے ہیں۔ ان کی فلسفیانہ نظر گر حیات اور فلسفہ شہادت پر پڑتی ہے اور ان کی یہ روشن رہائی  
 شاعری کو تفکر عطا کرتی ہے۔  
 اک روز تھبیر جائے گی یہ گردش ایام چھا جائے گی اک لامبا ہی شب ایام  
 نکلاں گے سیاروں سے سیارے بہر گام پی لے گی لہو سورجوں کا اک ابدی شام  
 اس وقت بھی اک قوت تخلیق رہے گی  
 فطرت کی روائیں بغض بکھی رک نہ سکے گی



ہر لفظ کے مرقد سے بیاں ہوتا ہے پیدا  
ہر صدق کے مقتل سے جہاں ہوتا ہے پیدا



کتنا ہے جو اک سر تو اٹھا کرتے ہیں لشکر  
ہر غنچہ ، مقتول ہے تمہید گل تر



پھیلاتا ہے نور اور بھی سر شمع کا کٹ کر  
ہر ڈوبا ہوا نجم ہے خورشید سحر گر



صدیوں کا سفر کر کے بھی ظلم آج وہیں ہے      پتی میں اسیر آج بھی ہر نفرت و کیس ہے  
جوموت کا تاجر ہے تباہی سے قریں ہے      ہر اسلوٹ مرگ سے بے زار زمیں ہے  
ہتھیاروں کے گودام ہیں ناسور امیں کا  
آواز حق آج بھی ہے نور زمیں کا  
وحید اختر کے مرثیوں میں تکر کے ساتھ بیانیہ اظہار بھی نمایاں نظر آتا ہے۔  
یاد آتی ہے بیٹی جسے چھوڑ آئے ہیں گھر میں      کیا کیا اسے حسرت تھی رہے ساتھ سفر میں  
شکل اس کی پھرا کرتی ہے ہر وقت نظر میں      کیا حال ہے بیمار کا اب بھر پدر میں  
اصغر کا اسے دودھ بڑھانے کا تھا ارمائیں  
اکبر کی دہن بیاہ کے لانے کا تھا ارمائیں



تیر آتے ہیں سینے پ کڑکتی ہے کمانیں      گرز اور تیر ہیں کہ قضا کی ہے اڑانیں  
پہلو میں ہے پیست خطا کار سنانیں      پیاسے کا لبو پتی ہیں نیزوں کی زبانیں  
گرنے کو ہیں شہ اور کوئی ہمراہ نہیں ہے  
دشمن ہیں بھی کوئی ہوا خواہ نہیں ہے  
شہادت حسین کے بعد سید جاد کے سفر پر یہ مرثیہ تمام ہوتا ہے۔

اب سید سجاد ہیں اور رخ سفر ہے پہلی ہوئی تاحد نظر را خطر ہے  
 ہر گام پہ اک چاک شمشیر اثر ہے بیمار ہے اور آبلہ پا را گذر ہے  
 اے قافلہ شوق زمانہ ہے تیرے ساتھ  
 شمشیر کا خون ریز فسانہ ہے تیرے ساتھ

”تیغ زبان نسب“ کے عنوان سے جو مرثیہ وحید اختر نے لکھا ہے۔ اس کا مطلع اس طرح ہے ع  
 ”رات یقین کے چراغوں پہ بہت بھاری ہے“

اس مرثیے کے ذکر کے بغیر وحید اختر کی مرثیہ گوئی کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاسکتا۔ جدید مرثیہ میں رزمیہ عناصر کی کی شکایت اکثر کی جاتی ہے۔ جہاد بالسیف، جہاد  
 بالقلم اور جہاد بالسان کے تحت وحید اختر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ شہادت حسینؑ کے بعد حضرت زین العابدینؑ کی بیماری کے باعث اسیروں کی قافلہ سالاری آپ کوئی لسان نسب نے حسینؑ و عباشؑ کی شمشیروں سے بھی بڑا کام کیا۔

شام غربیاں میں ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر بچوں کی نگہ بانی جتاب نسب نے کی۔  
 کوفہ کے بازار سے ابن زیاد کے دربار شام تک کے صبر آزماسنر، دمشق کے جہوم، دربار لوکیت میں ساری دنیا کے سامنے بیزید کی بے ادبیاں۔ ان سب موقعوں پر اگر کوئی تیغ اٹھی اور ظلم و کذب کے سر پر کونڈی تو وہ زینت کے خطبات کی تلوار ٹھیک یا بیمار امامؑ کی زبان کا انجاز یہ مرثیہ اسی رزمیہ کی تفصیل ہے۔

حضرت نسب نے کوفہ اور دربار بیزید میں جو خطبات دیے تھے، ان کو شعر کی زبان میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔ ان خطابوں کا جواہر ہوا، اس احساس ٹکست کو بھی صاف ستری اور رو اس زبان کے ساتھ پیش کیا ہے۔

تیغ یہ جس پر گردی ہے وہی سر پست ہوا چمکی یوں طنطنة نقرہ وزر پست ہوا  
 جسے دیکھا ہے وہی خیرہ نظر پست ہوا یہ اٹھی لعل گرے تاج گہر پست ہوا  
 کاث ایسی ہے کہ زخم اس کا بھرے گانہ کبھی  
 ظلم لڑنے کا تصور بھی کرے گا نہ کبھی

آنکھ پر چمکی تو بنیائی کی طاقت نہ رہی      دیکھا ہونوں کو تو گویائی کی طاقت نہ رہی  
 فوج جابر میں صف آرائی کی طاقت نہ رہی      عینی چلاعے مسحائی کی طاقت نہ رہی  
 جادوا ایسا ہے جو ظالم کے بھی سرچڑھتا ہے  
 دل ہیں وال فرش جدھر اس کا قدم پڑتا ہے  
 تیغیں ڈھالوں میں چھپائے ہوئے منہ روئی ہیں      برچھیاں آنسوؤں سے اپنی زبان دھوئی ہیں  
 تیر ہیں خوار، کمانیں بھی نگوں ہوتی ہیں      نگ چار آئینے ہیں، زر ہیں بھی جان کھوتی ہیں  
 تنخ عباش سے تو چھپ کے اماں پائی ہے  
 کیسی ششیر ہے یہ جانوں پر بن آئی ہے  
 ساتواں مرثیہ "شہادت نطق" ہے۔ جعلی اکٹر کے حال میں ہے۔ اس مرثیے میں  
 خامشی اور گویائی کے بیان میں سیاسی اور سماجی زندگی کے بہت سے اہم گوشوں کو گفتگو کا  
 موضوع بنایا ہے۔ خاتائق کی روشنی میں سکوت کے نقائص اور اس سے پیدا ہونے والے  
 نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے گویائی کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اعلانِ حق، ظلم کے مقابلے میں  
 ضروری ہے۔ اس موضوع کے بیان میں صدیوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ نطق اور خامشی کا مقابلہ  
 اس بند میں ملاحظہ ہوں۔

ہے نطق حرفِ عشق تو نفرت ہے خامشی      ہے نطق وجد و کیف تو وحشت ہے خامشی  
 دریا دلی ہے نطق تو نہست ہے خامشی      فضل و شرف ہے نطق تو ذلت ہے خامشی

عرفان ذات، حق رسالت ہے ناطقہ

تکمیل آدمیت و نعمت ہے ناطقہ

"کر بلا! اے کر بلا! اے کر بلا! اے کر بلا!"، وحید اختر کا شاہ کار مرثیہ ہے،  
 جس میں کر بلا کو بطور استعارہ استعمال کر کے انہوں نے کر بلا کی مذہبی، علمی اور منطقی  
 بندی کا اظہار کیا ہے۔ فلکروفن کی امتزاجی کیفیت وحید اختر کے یہاں شانہ بہ شانہ چلتی

ایک مشت خاک کیسے بن گئی ہے کائنات      بن گئی ہے شاخ شرکس طرح سے شاخ بات  
 تیری موج تشنگی کیسے بنی آب حیات      کس طرح صبح قیامت سے ملی ہے تیری رات  
 ایک دن اتری تھی آکر تیرے ذیرے میں سر  
 آج تک روشن ہے صدیوں کے انہیں میں سر



کربلا کے قافلے کے ساتھ چلتی ہے حیات  
 پیچھے رہ جائے تو صدیوں ہاتھ ملتی ہے حیات

وحید اختر نے پوری انسانی زندگی کا جائزہ اپنے فلسفیانہ انداز میں لینے کی کوشش کی ہے۔ انھیں کوئی قوم حق و باطل کی کشمکش سے آزاد نظر نہیں آتی۔ عوامی زندگی کو حوصلہ عطا کرنے کے لیے حصینی کردار کو خوبی بیان کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ کردار وہ ہیں، جن سے سبق لے کر انسان زندگی کی ہر شکل کا سامنا کر سکتا ہے۔

انھوں نے جس موضوع کو بھی ہاتھ لگایا ہے، کسی نہ کسی انداز سے اسے عام زندگی سے قریب کر دیا ہے اور مریئے کے ظرف میں وہ سارے ضمنی موضوعات سما گئے ہیں، جو انسانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض جدید تر مسائل کو بھی اپنے مریئے میں جگہ دی ہے۔ انھیں قدیم اور جدید مرثیہ نگاری کی ایک کڑی کہا جاسکتا ہے۔ علی جواد زیدی کا خیال ہے:

”پروفیسر وحید اختر کا فلسفیانہ مزاج ترقی پسند طرز

فکر، اسلامی نظریات سے وابستگی اور خلوص و عقیدت نے مل جل کر ان

کے مراثی کو جدید ادب میں ایک نمایاں مقام عطا کیا ہے۔ وہ آج

ہندوپاک کے اہم ترین مرثیہ نگاروں میں شامل ہیں۔“<sup>1</sup>

علی جواد زیدی کی اس بات سے تو اتفاق کیا جاسکتا ہے کہ ان کا مزاج فلسفیانہ تھا کیونکہ فلسفہ پر انھیں عبور حاصل تھا اور اسلامی نظریات سے وابستگی بھی تھی اور خلوص و عقیدت بھی، لیکن ان کے اس قول سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی فکر ترقی پسند تھی کیونکہ وحید اختر

<sup>1</sup> ”علم“ مرثیہ اور سلام نمبر۔

ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں تھے بلکہ جدید شاعر تھے۔


ہندوستان میں مرثیہ گوئی کے اس سلسلے میں باقر امانت خانی، وامق جونپوری، ناشر نقوی، عظیم امر دہوی وغیرہ کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ پیام عظی بھی اس دور میں مرثیے لکھ رہے ہیں ان کا ایک مجموعہ بھی تنظیم المکاتب سے شائع ہوا ہے، ان کا ایک مرثیہ ”عورت“ اہم ہے، لیکن بقول عقیل رضوی :

”تجربے میں تو آرہا ہے کہ ہندوستان میں مرثیہ گوئی کافی

ختم ہو رہا ہے۔ اب یہ صنف اپنی چمک دمک کھو چکی ہے۔“ ۱

دوسری جگہ رقمطراز ہیں: ہندوستان میں جدید مرثیے کی مثال تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے ایسے جدید مرثیے جو واقعی جدید ہوں اور ادبی تصدیق اور حیثیت بھی حاصل ہو، صرف وحید اختر نے چھ سات مرثیے کہے ہیں۔ دوسری کوشش مہدی نظمی کی ہے جن کا مجموعہ ”مظلوم کر بلا“ کے نام سے جون 1986 میں شائع ہوا۔

یہ عبارت اس وقت کی ہے جب وحید اختر کا مجموعہ شائع نہیں ہوا تھا تاہم یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ مہدی نظمی اور وحید اختر ہی ہندوستان کے جدید مرثیہ نگار ہیں۔ ان دونوں شعراء کے بعد ہندوستان میں مرثیہ گوئی کا یہ باب ختم ہوتا ہے۔



۱۔ مرثیے کی ساجیات، عقیل رضوی، جس (140)۔

## (د) آزادی کے بعد پاکستان میں مرثیہ گوئی

ہندوستان میں مرثیہ گوئی کے باب میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ جو فاضر میئے کو پاکستان میں نصیب ہوئی ہندوستان میں میسر نہ تھی۔ ایک تو ہندوستان میں اردو کے ساتھ سوچتا رہتا کیا گیا، دوسرے یہاں کی مجلسی اور ادبی فضائیہ اس طرح رہتی کہ یہاں شعرانے موضوع اور ہیئت میں کوئی تجربہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اکثر روایتی مرثیوں کی طرز پر ہی مرثیے لکھتے رہے اور بقول عقیل رضوی طبقہ مولویاں نے بھی مرثیے کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کی اور مرثیہ نگاروں کے حوصلے پست کیے کہ ان کے رزقِ حلال میں خلل پڑتا تھا۔

تقریباً 1947 کے بعد جوش، نیسم اور آلی رضا ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے اور کراچی میں آباد ہو گئے۔ ہندوستان میں جدید مرثیے کے فروغ کی کوئی گنجائش نہ ہو سکی۔ پاکستان کی صورتی حال دوسری تھی۔ اردو سرکاری زبان ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہلے سے مرثیہ نگاروں کا تمیم غیر تھا۔ جوش، آلی رضا اور نیسم کے ہجرت کر کے پاکستان پہنچنے سے وہاں اس صنف میں کافی ترقی ہوئی۔ ہلاں نقوی نے لکھا ہے:

”1947 کے بعد کراچی میں مرثیے کی ابتدائی تاریخ اپنے

مضامین، مباحث اور خیال کی ترتیب و تدوین کے اعتبار سے

ہندوستان میں اس صنف کی ارتقائی صورت سے الگ مزاج کی حامل

رہی۔

اس کی ابتدائی وجوہات میں درج ذیل حرکات کو بھی  
پیش نظر رکھنا ہوگا:

- 1- فسادات و بحربت کے زیر اثر خیالات کی تدوین۔
- 2- تہذیبی اور سیاسی تکست و ریخت۔
- 3- علامہ رشید ترابی کی جدید خطابت اور کراچی کی  
مرثیائی فضاء۔
- 4- خطابت و مرثیے میں موضوعاتی رجحان۔

فسادات کی ہولناکیاں ہندوستان اور پاکستان کے مرشیہ نگاروں کا موضوع نہیں۔  
اس زمانے کے مرشیہ نگاروں نے بربریت کو رد کر کے انسان دوستی، رحم دلی اور ہمدردی کے  
جزبات ابھارنے کی کوشش کی۔ فسادات کا موضوع تو قتی تھا اور ابتدائی چند سالوں تک باقی  
رہا، لیکن بحربت اور رخصت کے موضوعات وہ تھے جو واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی مرثیے  
کے نزدیک تھے۔

تقسیم کے بعد اجتماعیت کے بجائے انفرادیت کے جذبے زیادہ حاوی نظر آتے  
ہیں۔ تقسیم سے پہلے ظلم کے خلاف جو آواز اٹھائی جاتی تھی، اس وقت نشانے پر انگریزی  
حکومت تھی، لیکن تقسیم کے بعد احتمال کی دوسری صورت رونما ہوئی۔

علامہ رشید ترابی بھی الہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے  
علم کا ایک دھارا قرآن اور حدیث سے ملتا تھا اور دوسرا دھارا فلسفہ تاریخ اور نفیات  
سے۔ انہوں نے ذاکری میں موضوعاتی رجحان پیدا کیا اور مرشیہ گویوں کی حوصلہ افزائی بھی  
کی۔ علامہ رشید ترابی کو بچپن میں راقم الحروف نے بھی ریڈ یو پرنسا ہے۔ ان کے لب و لہجہ اور  
موضوعاتی رجحان نے ہر کسی کو متاثر کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے مرشیہ نگاری کو  
موضوعاتی رجحان عطا کیا۔ اگرچہ پہلا مرشیہ دلورام کوثری نے ”حسین اور قرآن“، تحریر کیا تھا  
لیکن باقاعدہ طور پر موضوعاتی مرثیوں کو فروغ جوش، جمیل اور جنم کے ہاتھوں ہوا۔ نیم نے  
اگرچہ غیر موضوعاتی مرثیے بھی لکھے، لیکن ان کے اکثر موضوعات علمی ہیں۔ آل رضا اگرچہ

موضوع قائم کر کے مرثیہ نہیں لکھتے تھے، لیکن موضوعات کا ایک طے شدہ ڈھانچہ ان کے ہر مرثیے میں موجود رہتا ہے۔ ہلاں نقوی لکھتے ہیں ”” تقسیم کے بعد مرثیے کا جو سفر شروع ہوا، اس کی پیشتر سرگرمیاں موضوعات کے سامنے میں آگے بڑھیں۔“

پاکستان میں موضوعات کو بنیاد بنا کر مرثیے لکھنے والوں کی فہرست طویل ہے۔ چند نام بہت اہم ہیں، مثلاً صدر حسین، امید فاضلی، صبا اکبر آبادی، ڈاکٹر یاور عباس، قیصر بار ہوی، شاہد نقوی، ہلاں نقوی اور تصویر فاطمہ وغيرہ۔ ان شعراء نے جن موضوعات پر مرثیے لکھے وہ اس طرح ہیں:

#### 1- ڈاکٹر صدر حسین

آئین وفا۔ جلوہ تہذیب۔ چراغِ مصطفوی۔ مقام شیری۔

#### 2- امید فاضلی

علم و عمل، روشنی، قرآن و اہل بیت، شعور و عشق، صبر و رضا، انسان اور زمانہ۔

#### 3- صبا اکبر آبادی

ہجرت، سُکھش، فلسفہ، روشنی، وحدانیت، قلم، عزم، علم و عمل، جمالی حسن۔  
جوانی، تربیت، علم، طفیل، معراج، حکومت، معیار تقویٰ، اخلاق، جبرا و اختیار  
آدمی، خاک، حق و باطل، تحقیق کائنات، وقت، بصیرت و بصارت، انقلاب  
اور یقین۔

#### 4- قیصر بار ہوی

اجالوں کا سفر، اعجازِ حمل، نوائے احساس، معراج بشر، عرفانِ حیات، انسان اور  
کربلا، نظامِ اسلام، علم غیب اور محمد و آل محمد، عرفانِ امامت، کربلا و نجف،  
نمایاں دل، علی و علم، کعبہ و محفوظانِ کعبہ، کربلا اور اصلاحِ معاشرہ وغیرہ۔

#### 5- یاور عباس

دین اور سیاست، زندگی، اخلاق اور تہذیب، جوانی، عبد طفیل، آنسو، سورہ  
کوثر، پیری، ماں۔

### 6-شادہ نقوی

قرآن اور اہل بیت، امامت الہیہ، بلاکت و شہادت، ظہور امام، جادہ تسلیم،  
کربلا بعد کربلا، اعتبار رسالت، ماں کا دل، بقعة الرسول، روح کا سفر،  
شعور صداقت، ضرب مظلومیت، انقلاب فکر، کاروان حیات، اعتبارِ جماعت،  
خون اور پیغام۔

### 7-تصویر فاطمہ

بصیرت، ماں، ردا، خواب اور حضرت سید سجاد

جب واقعہ کر بلاء درود شاعری کا موضوع بناتو اس کے اظہار کی دو صورتیں شعر کے  
یہاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس واقعہ کے تاثرات بغیر کسی تنظیم کے لکھے جائیں اور دروسی صورت  
یہ تھی کہ خیال اور فکر کو موضوع کے دائرے میں لکھا جائے۔ یہ اردو شاعری میں اس وقت ہوا  
جب واقعہ کر بلاء کو وسعت خیال کے ساتھ دیکھا جانے لگا اور ایسی صورت میں واقعہ میں بھی  
موضوع کی صورت پیدا ہوتی گئی۔ قدیم زمانے سے ہی یہ کوششیں دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اس کی  
پہلی صورت تو ایک شہید یا تاریخ کے لحاظ سے یا کسی کردار یا واقعہ کے کسی حصے کو لے کر مرثیے  
کی تغیری کی گئی۔ ضمیر کے دور میں اگرچہ موضوع قائم نہیں ہوئے تھے، لیکن ہر شہید کے حال میں  
الگ الگ مرثیے لکھے گئے اور چہروہ، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین اس کے اجزاء  
قرار پائے اور انھیں حد بندیوں میں مرثیے لکھے گئے۔

ہلال نقوی کا خیال ہے:

”انیسویں صدی میں کلا میکل مرثیے کا ارتقاء غیر شعوری طور پر ایک موضوعاتی سلسلے  
کا بھی پابند تھا۔“<sup>1</sup>

بیسویں صدی میں جب علم وہنر کے دھارے پھوٹے تو مذہب کا مطالعہ بھی جدید  
علوم کی روشنی میں کیا جانے لگا۔ شعراء نے بھی جدید ذہن اور فکر کی روشنی میں واقعہ کر بلاء کا  
مطالعہ کیا اور موضوعات کے سلسلے میں تجربے کیے۔ شروع شروع میں لوگوں نے سماجی مسائل

<sup>1</sup> ”بیسویں صدی اور جدید مرثیہ“، ہلال نقوی، ص 674۔

کو مریئے میں برواشت نہیں کیا، لیکن جب باصلاحیت شعرا کے شخصی تجربوں کے زیر اثر موضوعات نکلتے چلے گئے، تب لوگ اس طرف متوجہ ہوئے۔

سلیم احمد نے لکھا ہے:

”میرے لیے مریئے جیسی معروضی صنف میں بھی یہ سوال

ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے کہ اس میں موضوعیت کتنی ہے یعنی ایک معروضی واقعے کے بیان میں شاعری کا شخصی تجربہ کس طرح کام کرتا

ہے۔“<sup>1</sup>

مریئے تمام اصناف شاعری میں مشتوی سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس میں واقعہ کر بلا کا بیان ہوتا ہے۔ مریئہ جب بیانیہ سے ہٹ کر موضوعات کی طرف مائل ہوا تو اس میں نظریہ سکنیک کا استعمال ہونے لگا۔ صنف نظم، جو غزل کے مقابلے نمایاں شاخت رکھتی ہے، وہ اس کی تنظیم اور تسلیل ہے۔ اب مریئہ میں کسی ایک موضوع کے تحت کئی ضمنی موضوعات آتے ہیں، جن کا تعلق سماجی زندگی کے کسی نہ کسی گوشے سے ہوتا ہے۔ اس خیال کے تحت جدید مریئے کا سفر روایاں دوالاں ہے۔

پاکستان کے سینئر مریئہ زنگاروں میں صبا اکبر آبادی، قیصر بار ہوی اور شاہد نقوی نے موضوع کو اہمیت دی۔

### صبا اکبر آبادی (1908-)

خواجہ محمد علی نام صبا تخلص 14 اگست 1908 میں اکبر آباد (آگرہ) میں پیدا ہوئے۔

صبا اکبر آبادی نے پہلا مریئہ ”شکست یزید“ 1936 میں لکھا تھا۔<sup>2</sup> صبا صاحب نے پچاس سے زیادہ مریئے لکھے ہیں۔<sup>3</sup> ان کے اب تک تین مجموعے ”سر بکف“، ”شہادت“ اور

1۔ ”حرف آغاز“، سلیم احمد، مشمولہ ”خونتا ب“ صبا اکبر آبادی، ناشر بختیار اکیڈمی، کراچی، 1985، ص 12۔

2۔ ”اردو مریئہ پاکستان میں“، ضمیر اختر نقوی۔

3۔ ”بیسوں صدی اور جدید اردو مریئہ“، ہلال نقوی، ص 675۔

”خوناب“ (1985) میں شائع ہو چکے ہیں۔

راقم الحروف کے پاس صبا کا آخری مجموعہ ”خوناب“ ہی ہے۔ دوسرے مجموعے دستیاب نہ ہو سکے۔ ”خوناب“ پانچ مرشیوں پر مشتمل ہے۔ جن کے عنوانات اس طرح ہیں۔<sup>1</sup>

لفظ، ”بھرت“، ”منبر“، ”خاک“ اور ”قلبِ مطمئن“۔

اگرچہ صبا آبادی نے پہلا مرثیہ 1936 میں لکھا، لیکن 1938 کے بعد ان کی توجہ غزل کی طرف رہی لیکن ”تقطیم“ کے بعد کراچی آگئے تو ایک موقعے پر پیارے صاحب رشید کے شاگردشدید کھنوی کی حوصلہ افزائی نے انہیں دوبارہ مرثیہ گوئی کی طرف مائل کر دیا۔<sup>2</sup>

اپنی مرثیہ گوئی کے متعلق اپنے نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”میں تو مرثیہ والاے آل محمد میں ڈوب کر کہتا ہوں اور اس کو اتحاد بین اسلامین کے لیے ایک نہایت اہم ذریعہ سمجھتا ہوں۔  
اگر اس سلیتے سے استعمال کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ امت محمدیہ کے افراد دو گروہ بن کر رہیں۔“<sup>3</sup>

انہوں نے موضوعات میں رہ کر مرثیے کوئی آب و تاب دی۔

سلیم احمد لکھتے ہیں:

”غالباً جوش کے بعد آنے والوں میں وہ پہلے شاعر ہیں  
جنہوں نے اس کثرت سے نئے موضوعات کو بنیاد بنا کر مرثیے کہے  
ہیں اور اس میں اپنے زمانے اور تجربے کی روح بھر دی۔“<sup>4</sup>

میر انیس نے مرثیے کو کمال تک پہنچا دیا تھا۔ بعد کو آنے والے شعراء ان کی تقلید کرتے رہے۔ بیسویں صدی میں زندگی میں جو تبدیلیاں ہوئیں، اس کے اثرات مرشیوں پر

<sup>1</sup> عرض مرتب، مشق خواجہ، مشمولہ ”خوناب“، صبا آبادی۔

<sup>2</sup> بحوالہ، ہلال نقوی، ”بیسویں صدی اور جدید اردو مرثیہ“، ص 675۔

<sup>3</sup> ”شهادت“، صبا آبادی، بحوالہ، ہلال نقوی، ص 767۔

<sup>4</sup> ”حرف آغاز“، سلیم احمد، مشمولہ ”خوناب“، صبا آبادی، مرتب: مشق خواجہ، ناشر: منیار اکیڈمی، کراچی،

بھی پڑے اور مریشے میں نئے موضوعات کی دریافت ہوئی۔ صبا اکبر آبادی کا تعلق روایت پرست گروہ سے تھا۔ ان کی زندگی اور شاعری کا تعلق اسی تہذیب سے ہے، جس کے پیچھے ایک مزاج اور اپنی قدر ہیں۔ اسی لیے موضوع کے برتنے میں قدیم مزاج کو نظر انداز نہیں کرتے۔ ساتی نامہ اور ششیر کی روائی وغیرہ کلائیکی مریشے کے اجزاء کو خوبصورتی سے اپنے مرثیوں میں جگہ دیتے ہیں۔ چونکہ وہ غزل کے ہند مشق شاعر ہیں، اس لیے اکثر قدیم رنگ کے مضامین میں بھی باسی پن کا احساس نہیں ہوتا۔

ارزق نے سن کے نیزے کو اپنے جودی تکاں      آئی قریب قاسم گل رو کے جب سنان  
پہلو بچا کے، ڈاٹڈ پکڑ کر کہا کہ ہاں      اب تو چھڑا سکے تو چھڑا اے عدوئے جاں  
ممکن نہیں کہ وار کو میرے سنبھال لے  
پہلے مری گرفت سے نیزہ نکال لے

عناصر مریشہ کی پابندی کے ساتھ چھرے کے بند مریشے کے لیے قائم کردہ عنوانات پر اظہارِ خیال کے لیے استعمال کیے ہیں۔ نعت و منقبت کا سلسلہ بھی ملتا ہے۔ ان کا مقصد مریشہ کہہ کر رلانا نہیں بلکہ ایک درس اور دعوت فرمدیتا ہے۔ ”خونتاب“ کا پہلا مریشہ ”لفظ“ کے عنوان سے ہے۔ ابتدائی بند ملاحظہ ہوں۔

لفظ کیا ہے، فکر انسانی کا اک سادہ لباس      با وجودِ سادگی ہیں رنگ جس کے بے قیاس  
لفظ بنیادِ تخيّل، لفظ خطبوں کی اساس      لفظ اظہارِ تکبر، لفظ اندازِ سپاس  
لفظ پھر بھی ہے، موتی بھی شرب بھی پھول بھی  
لفظ ہی مردود بھی ہے لفظ ہی مقبول بھی

لفظ فطرت کا گنیہ، لفظ شعروں کا نکھار      نثر کا زیور ہے، باغ نظم رنگیں کی بہار  
لفظ قرطاسِ قلم کی آبرو کا ذمہ دار      لفظ اوراقِ کتاب زیست پر نقش و نگار

گو بظاہر لفظ اک الجھی ہوئی آواز ہے  
نعمکنی سوز ہستی کے لیے یہ ساز ہے

لقط مانوں ادب ہے لقط جذبے کا نقاب وقت پر ابھرے تو روشن ہو مثالیں آفتاب  
 لقط کے جرے اثر کرتے ہیں مانند شراب لقط ہی جان تکم لقط ہی روح کتاب  
 حکر انی لقط کی ہے علم کی اقیم پر عظمتیں مجبور ہیں خود لقط کی تعظیم پر  
 مصائب کے بیان میں بھی اپنے موضوع "لقط" سے انحراف نہیں کیا۔  
 تم کو کیا معلوم کیا ہے اس شہادت کا مقام آسمانوں سے فرشتے بھیجتے ہیں خود سلام  
 قدرت خالق نے اتنا کر دیا ہے اہتمام تا ابد بزم عزا ہو گی بے عز و احشام  
 لوگ دیکھیں گے مرے الفاظ کی تاشیر کو  
 تا قیامت روئے گی دنیا مرے شبیر کو  
 اے صبا نوک قلم سے اب پہنچتا ہے لہو اس شہادت سے ہوا دین محمد سرخ رو  
 رمز قدرت میں نہیں ہے کوئی جائے گنگو لقط کہتے ہیں کہ ہم پر کیا ستم کرتا ہے تو  
 امتحان مقصود تھا اک مرد حق آگاہ کا  
 ہے حسینی نام جب تک نام ہے اللہ کا  
 دوسرا مرثیہ "بھرت" کے عنوان سے ہے۔ مرثیے کے آغاز میں اپنے ڈنی اور  
 روحانی کرب کا اظہار کیا ہے۔ یہ حصہ بہت جذباتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بھرت کا کرب ان کا  
 ذاتی تجربہ ہے۔ بقول سلیم احمد:

"صاحب کے موضوعات ان کی ذاتی زندگی سے پیدا  
 ہوئے ہیں۔ کہیں یہ ذاتی زندگی خود نما اور خود نمائش پسند ہے۔ یہ اپنے  
 آپ کو چھپاتی ہے اور اپنا اظہار اتنے ڈھکے چھپے انداز میں نہیں کرتی  
 ہے کہ دیکھنے والے میں نظر ہو تو دیکھے، اگر نظر نہ ہو تو محروم تما شارہ کر  
 واپس چلا جائے۔"<sup>1</sup>

وہ اپنے دلن کو چھوڑ کر پاکستان گئے تھے۔ پھر "بھرت" کا موضوع اتنا وسیع ہے  
 کہ جیسے جیسے غور کرتے جائیں نئے نئے پہلو سامنے آتے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ  
 ۱۔ حرف آغاز، سلیم احمد، مشمولہ "خوناپ"، صبا کبر آبادی، ص 81۔

علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد آپ کے گجرگو شے امام حسینؑ کی مدینے سے ہجرت بھی مت رسولؐ کی پیروی ہے۔ وہاں ہجرت سب سے مکمل نبوت تھی، یہاں ہجرت سب سے مکمل حسینیت ہے، یہ ہجرت شہادت پر ختم ہوئی۔

آواز دی مردوں نے کہ رک جاؤ نہ جاؤ      اس ربط قدیمی کو نہ ٹھکراؤ نہ جاؤ  
بھڑ کے ہوئے جذبات کو ٹھہراو نہ جاؤ      اپنے دل نافہم کو سمجھاؤ نہ جاؤ  
پھرایے خن جونہ خن سخ ملیں گے      نکلو گے وطن سے تو بڑے رنج ملیں گے

محبت اور رنج کے باوجود ہجرت تو شرف انسانیت ہے۔ اس لیے۔  
گھر بار کو چھوڑا درود یوار کو چھوڑا      صدیوں کے بنائے ہوئے آثار کو چھوڑا  
جو پیار تھا اس شہر سے اس پیار کو چھوڑا      پھر کیا دل کوچہ دلدار کو چھوڑا  
اصنام دل آرام کے محور سے نکل آئے  
قرآن حمال کیا اور گھر سے نکل آئے

ہجرت کی ذاتی رو داد 21 بندوں میں بیان کی گئی ہے۔ بائیسویں بند سے ہجرت کی  
نبوی کا بیان شروع ہوتا ہے اور مدحت میں ہجرت کو بنیادی نکتہ کے طور ملاحظہ رکھا ہے۔ اس کے  
بعد ہجرت حسینؑ کا بیان ہے۔ سفر کی رو داد، جانشوروں کا جذبہ، قربانی، آمد، جنگ، شہادت  
سب کچھ اختصار سے بیان کیا ہے۔ مریئے کے اجزاء پر نظر رکھتے ہوئے ہر جز کو خوش اسلوبی  
سے بیان کیا ہے۔ بعض جگہ مجبوری اور بیچارگی کو معنی خیز انداز میں پیش کیا ہے۔

ملے سے مدینے کو چلے تھے جو پیغمبر      موجود نیابت کے لیے تھے وہاں حیدر  
شبیر مدینے سے چلے چھوڑ کے جب گھر      چھوڑی تھی نشانی کو وہاں چھوٹی سی دختر  
حیدر تو مدینے میں ملے چھٹ کے نبی سے

صغریٰ نہیں مل پائیں حسینؑ اہن علیؑ سے

”خونناب“ کا چوتھا مرشیہ ”خاک“ کے عنوان سے ہے۔ ”خاک“ اپنی استعاراتی علامتی  
حیثیت رکھتی ہے۔ مئی سے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی۔ خاک حضرت علیؑ کی کنیت ”ابوتراب“  
سے لے کر خاک کر بلائیک اپنی قدر و قیمت رکھتی ہے۔

صبا اکبر آبادی کو موضوعات کے انتخاب کا بڑا سلیقہ ہے۔ وہ جس موضوع کو ہاتھ لگاتے ہیں مذہب اور معاشرے میں اس کی اہمیت کا اندازہ لگا کر اس کے مختلف گوشوں کو اجاگر کرتے ہیں اور شروع سے آخر تک ایک ربط نظر آتا ہے اور ایک خوش گوار فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ مناقب اور مصائب دونوں ہزار ایک دوسرے سے پیوست ہو جاتے ہیں۔  
 ”منبر“ کے ابتدائی بند ملاحظہ ہوں ۔

سر بریج مدار ہوں تو زبان کیا کھلوں      فوج الفاظ ہے با غی تو نشان کیا کھلوں  
 فقر سے مہر بلب ہوں تو دہاں کیا کھلوں      مال ہی پاس نہیں ہے تو دکاں کیا کھلوں  
 مدح کرنے کا طریقہ نہیں آتا مجھ کو      بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا مجھ کو

”منبر“ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں ۔  
 یہی منبر تھا جہاں سے ہوئی جاری توحید      اسی منبر سے ہوا کرتی ہے حق کی تائید  
 اسی منبر سے ہوئی عدل کی سب کو تاکید      اسی منبر کی زمانے کو ضرورت ہے مزید  
 یہیں خطبات پیغمبر سے فضا گوئی تھی  
 اسی منبر سے سلوانی کی صدا گوئی تھی

اسی منبر سے اٹھا طینت آدم کا خمیر      یہی منبر تو ہے دیباچہ کن کی تفسیر  
 اسی منبر کے لیے ہو گئی دنیا تعمیر      یہی منبر تو ہے عرفان گہ رب قدری  
 دائرے ہو گئے قائم اسی محور کے لیے  
 یہ جہاں خلق ہوا تھا اسی منبر کے لیے

مختلف شکلوں میں بن جاتی ہے اس کی تصویر      کہیں مسجد میں اک انداز سے اس کی تعمیر  
 کہیں میدان وغا میں سر مرکب تکبیر      کہیں ناقہ کا کجاؤہ ہے سرم غدری  
 جب کھلی جانب کعبہ سے ہوا آتی ہے  
 آج تک خطبہ آخر کی صدا آتی ہے

صاف سنتے ہیں یہ ارشاد رسول دوسرا جس کا مولا ہوں میں اس کے ہیں غلی بھی مولا  
 آج سے کوئی کسی شخص کا ڈمن نہ رہا آل و قرآن ہیں مرے بعد ویلہ سب کا  
 یوں بھلام مقصد ایمان کو کیا سمجھو گے  
 آل کو چھوڑ کر قرآن کو کیا سمجھو گے

علامہ طالب جوہری کا خیال ہے :

”صبا صاحب کے مرثیے کی روایت کے ساتھ ساتھ

جدید شعری مزاج تخلیق کے مبادی جوہر اور مرثیے کے بنیادی

عناصر جس طریقے سے کیجا ملتے ہیں وہ مرثیے کے حسن میں اضافہ

ہی نہیں کرتے بلکہ صبا صاحب کی قادر الکلائی کا ایک بلغ اظہار بھی

بن جاتے ہیں۔“<sup>1</sup>

ذیل کے بندوں میں طریقے اور سلیقے کی مثالیں ملاحظہ ہوں ۔

رشک گزار ہوا کرب و بلا کا صحراء دشت میں چلنے لگی گلشن زہرا کی ہوا

یوں معطر ہوئی خوبیوئے امامت سے فضا نکہت گلشنِ فردوس میں ہر ذرہ بسا

کھل گیا رحمت باری کا خزینہ گویا

کربلا میں اتر آیا تھا مدینہ گویا

دیکھی باطل نے جو یہ شوکت ایماں لزا زرلہ تخت پہ طاری ہوا ایوان لزا

ہو گیا سبط پیغمبر سے ہراساں لزا ثوٹی سی ہوئی محوس رگ جان لزا

سامنا سبط پیغمبر سے کچھ آسان نہ تھا

ظلم کرنے کے علاوہ کوئی امکان نہ تھا

احمد ہدایت لکھتے ہیں :

”صبا صاحب نے جدید مرثیے کو نہ صرف نئے موضوعات

1 ”صبا کبر آبادی کی مرثیہ نگاری“، طالب جوہری، ”خوناپ“، صبا کبر آبادی، ص 184۔

سے روشناس کرایا بلکہ عملی طور پر ان موضوعات کو روایتی مریئے کے مزاج میں اس خوبی سے ڈھالا ہے کہ یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کسی جدید انداز کو راہ دی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے اور اس وقت تک ممکن نہیں جب تک روایت شاعر کے احساس میں پوری طرح رچ بس نہ جائے۔ جوش صاحب نے بھی نئے موضوعات کو مریئہ میں شامل کیا ہے، لیکن انھوں نے موضوعات کے اظہار کو مریئہ کے مزاج سے ربط دینا ضروری نہیں سمجھا..... جب کہ صبا صاحب صنفی تقاضوں کو فراہوش کرنے کے بالکل قائل نہیں۔<sup>1</sup>

پانچواں اور آخری مریئہ "قلبِ مطمئن" کے نام سے ہے۔ اس مریئے میں صبا صاحب نے اپنے دور کے سماجی، سیاسی اور معاشرتی حالات کی ترجمانی کی ہے۔ مندرجہ ذیل بندوں کیمی، جس میں اس معاشرے کی تصویر ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ انسان نے بنائے ہیں جو عارضی نظام اس کارگاہِ دہر میں ان کو نہیں دوام وقیٰ تعیشات سے چلتا نہیں ہے کام تصویر ہو کہ نعمہ کسی کو نہیں قیام جس میں سکون نہیں وہ فسانہ ہے کائنات

تہائیوں کا آئینہ خانہ ہے کائنات

تہا ہر آدمی ہے مگر پر ہجوم ہے اپنے ہی انکاس کی ہرست و ہوم ہے خود دل سے ادعائے فنون و علوم ہے اپنی نسیمِ صح سے اپنی سموم ہے آخر کو خود سے فجع کے کھاں جائے آدمی

تہائیوں میں کیسے سکون پائے آدمی

اسی تناظر میں واقعہ کر بلا کا ذکر کیا ہے اور ترکیبِ نفس کے رشتے تلاش کیے ہیں۔ عبدالرؤف عروج لکھتے ہیں:

<sup>1</sup> "خونتاب"، صبا کبر آبادی، احمد ہمدانی، ص 80۔

”رسول کی ہجرت ہو یا علی کی شہادت کا واقعہ، امام حسین کا فیصلہ، صلح ہو یا زہر کی ہلاکت آفرینی، عباس کی شہادت ہو یا علی اکٹر کی رخصت یا سکینہ کی گریہ وزاری یا خود امام حسین کا تکوار کی چھاؤں میں سجدہ آخر، یہ سب قلب مسلمان کی تصویریں ہیں۔ اس مرثیہ میں ان تصویروں کو ان کے حقیقی خدو خال اور آب و رنگ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔“<sup>1</sup> صبا اکبر آبادی کی ایک خاص خوبی ان کی زبان کی سادگی اور بر جستگی ہے۔ بقول

رضا ہمدانی:

”صبا صاحب کا مرثیہ پڑھتے وقت ایک خوبی بار بار آتی ہے اور وہ ہے سلاست بیان و کلام۔ ان کا مرثیہ پڑھتے وقت کی لغت یا فرہنگ کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ اس طرح یہ بحث بھی ختم ہو جاتی ہے کہ شاعر جو کچھ کہتا ہے کس کے لیے ہے۔“<sup>2</sup>

غرض صبا اپنے دور کے نمائندہ شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے جہاں جدید مسائل کو مرثیوں کا موضوع بنایا وہیں شجاعت اور صبر دونوں جذبات کو متوازن رکھ کر رمزیہ گوشوں کو پر کیا۔ بقول علامہ طالب جوہری:

”یہ بات قابل غور ہے کہ جنگ مغلوبہ کے مناظر میں فوج یزیدی کی بے نعمتی بہت دکھائی گئی ہے، مگر عین شہادت کے موقع پر دشمن کی بزدلی کو اتنی بلیغ نفاست کے ساتھ کم دکھایا گیا ہے۔ یہ یقیناً صبا اکبر آبادی کی مرثیہ نگاری کا ہی وصف ہے۔ جو بہت سے اور لکھنے والوں کو حاصل نہیں ہوا۔“<sup>3</sup>

1۔ ”خون ناب“، صبا اکبر آبادی، عبدالرؤف عروج، ص 153۔

2۔ ”خون ناب“، صبا اکبر آبادی، رضا ہمدانی، ”سریکفت“۔

3۔ ”صبا اکبر آبادی کی مرثیہ نگاری“، طالب جوہری، ”خون ناب“، ص 223۔

بے شیر کا مزار نہیں حد صبر ہے  
 توار سے کھدی ہے پاہی کی قبر ہے  
 اس بیت کے بارے میں ختم آفندی لکھتے ہیں:  
 ”چھ مہینے کے بے شیر مجہد حضرت علی اصغر کے بارے میں صبا  
 کی یہ بیت نہ صرف ہماری عزائیہ شاعری کا ایک ناقابل فراموش حصہ  
 بن جاتی ہے، بلکہ خاک کربلا کو اپنے خون سے سیراب کرنے والے  
 عظیم شہید مجہدوں کے جلال و جمال، عزم و ثبات، یقین و اعتماد، ہمت و  
 استقلال، جرأت اور جواں مردی کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔“<sup>1</sup>

### قیصر بار ہوی (پ 1928)

”قیصر عباس نام، قصر تخلص 16 جنوری 1928 سادات بارہ کی مشہور بستی کی تھوڑا  
 میں ان کی ولادت ہوئی۔“<sup>2</sup>

”قیصر بار ہوی کے قریب 75 مرثیوں کا ذکر ملتا ہے۔“<sup>3</sup>  
 دور حاضر میں پاکستان کے نمائندہ مرثیہ گویوں میں شمار ہوتے ہیں۔  
 مراثی کے تین مجموعے ”شہادت فطرت“، ”معراج بشر“ اور ”عظیم  
 مرثیے“ شائع ہو چکے ہیں۔<sup>4</sup>

1947 کے بعد پنجاب میں اردو مرثیہ کے فروغ میں قیصر بار ہوی کا نام بہت اہم  
 ہے۔ انہوں نے اپنا پہلا مرثیہ 1947 میں لکھنؤ میں کہا تھا۔ جس کا مطلع یہ ہے  
 ”عباس نام دار کو جوش نہ رہے“

مطلع سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ قیصر بار ہوی کا یہ مرثیہ بیانیہ طرز پر ہے۔ 1950 میں

1۔ حرف آخر، ختم آفندی، مشمول ”خونتاب“، صبا اکبر آبادی، ص 223۔

2۔ ”اردو مرثیہ پاکستان میں“، ٹیکسیر اختر نقوی، ص 461۔

3۔ ”اردو مرثیہ انیں کے بعد“، ڈاکٹر سید طاہر حسین کاظمی، مطبوع، ایرانیں آرٹ پرنٹرز، 1534، گلی قائم  
 جان، دہلی، 1992، ص 375۔

وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آگئے۔ یہاں انھوں نے ذاکرین کے دو شہروں  
مرشیہ نگاری شروع کی۔ ظاہر ہے کہ مرشیہ کا تعلق جمیل عزاء سے رہا ہے۔ 1969 تک ان کے  
مرشیہ ذاکرین کی روشن پر ہی نظر آتے ہیں۔

☆ یہ رب سے لٹ کے آئی جوا لا دفاطرہ۔— (مدینے میں اہل بیت کی واپسی) 1953

☆ ہنگام عصر آیا جو صغر اکانامہ بر۔۔۔ (روز عاشور) 1954

☆ دل جس پر خون روئے وہ عالم نظر میں ہے۔۔۔ (کربلا میں اسیروں کی

واپسی) 1956

☆ آ صاحب دل آج کہیں غم کی کہانی۔۔۔ (شہادت جناب عباس) 1964

☆ دل والوسنو اقع اشک فثانی۔۔۔ (تیمان حضرت مسلم) 1964

ہلال نقوی لکھتے ہیں:

”1970 کے بعد سے ان کی مرشیہ نگاری میں جدید طرز فکر

کی اٹھان زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ خیال کی تازگی اور بیان کی دل کشی

اس دور میں نمایاں ہیں۔“ ۱

مرشیہ ”عرفانِ حیات“ کے چند بند ملاحظہ ہوں۔

یوں برتا ہے مری سوچ کا بادل اکثر جس طرح سوچ کے ہوئے کھیت پر دھقاں کی نظر

یوں مرا شعلہ احساس دکھاتا ہے اثر جیسے بستی میں مرے گھر کے اجرنے کی خبر

اپنے دشمن کو بھی جینے کی دعا دیتا ہوں

کوئی مظلوم ہو سینے سے لگا لیتا ہوں

شمچ ہوں جلوہ خصالوں سے محبت ہے مجھے پھول ہوں تازہ نہالوں سے محبت ہے مجھے

جملہ پاکیزہ خیالوں سے محبت ہے مجھے میں اجالا ہوں اجالوں سے محبت ہے مجھے

دشمن جذبہ تجزیب ہوں تغیری ہوں

آدمیت مرا ایمان ہے شبری ہوں

1. ”بیسویں صدی اور جدید مرشیہ، ہلال نقوی، جلد 682۔

ان کے مرثیے ”معراج بشر“ مطبوعہ 1975 کے مقدمہ نگارڈاکٹر مسعود رضا خاکی

نے لکھا ہے:

”1969 سے 1972 تک انہیں اور نئیم کے اسالیب کی

آمیزش سے قصر بارہوی نے اپنے اسلوب فن کے لیے ایک نیارنگ تیار کیا ہے، لیکن اس میں کہیں کہیں رنگ دبیر کے چھینٹے بھی ہیں۔ لیکن اس کے بعد کی شاعری یعنی 1973 سے 1975 تک کا کلام دیکھنے تو اندازہ ہو گا کہ دبیر اور جوش کے اسالیب کی آمیزش سے قصر بارہوی ایک نیا رنگ ختن پیدا کر رہے ہیں۔ قدرت بیان، دلآل ویزی، تراکیب، محاورات کا حسن، تلازمه خیالات میں فن کاراند دروبست وغیرہ، جو مرزا دبیر اور جوش بخش آبادی کے کلام میں ہے، اس کو اپنے منفرد انداز کے ساتھ قصر بارہوی نے اپنے کلام میں یکجا کر کے پیش کیا ہے۔“<sup>1</sup>

موضوعاتی مرثیوں کی ترقی میں قصر صاحب کا بڑا اہاتھ ہے۔ اگرچہ بقول مسعود رضا خاکی:

”قصر بارہوی جب کسی مرثیے کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے

سے کوئی خاکہ ان کے ذہن میں موجود نہیں ہوتا البتہ وہ کتب دیر کا

مطالعہ ضرور کرتے ہیں۔“<sup>2</sup>

موضوعاتی مرثیے کے لیے پہلے سے کوئی خاکہ ذہن میں موجود نہ ہو یہ بات ممکن نہیں۔ تمام پہلوں سکی چند بنیادی باتیں شاعر کے ذہن میں ضرور ہوتی ہیں۔ جن کی مدد سے مرثیے کی تعمیر ہوتی ہے۔ قصر صاحب کے یہاں موضوع کی بعض کمزوریاں پائی جاتی ہیں، لیکن شعریت اس کمزوری کو ظاہر نہیں ہونے دیتی۔

قصر صاحب کے مجموعہ مراثی ”علیم مرثیے“ میں دو مرثیے حضرت نسیب سے

<sup>1</sup> مرثیہ معراج بشر، قصر بارہوی، مقدمہ اکٹر مسعود رضا خاکی، ناشر اردو اکیڈمی، کرشن گلریا ہور، 1975، ص 36۔

<sup>2</sup> ایضاً، ص 37۔

متعلق ہیں۔ پہلا ”معصومہ کر بلا“ اور دوسرا ”عون و محمد کے حال میں“ ہے۔ ”جیسا ہوں کیا فضائل نسب رقم کروں“ میں حضرت نسب کی تصویر دکھائی ہے۔

وہ گنگلو خطاب پیغمبر کہیں ہے وہ حوصلہ شجاعت حیدر کہیں ہے وہ عزم انقلاب کا محور کہیں ہے وہ دل کے جوانی علی اکٹر کہیں ہے نسب پہ ہر بلندی فطرت تمام ہے

عباس کیا ہے، غیر تو نسب کا نام ہے

شاعرانہ حقیقت نگاری اور تاریخی حقیقت نگاری میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن قیصر بارہوی نے کسی منظر کی تصویر میں اصل فضا کو باقی رکھا ہے اور مصائب کے بیان میں بھی بھی بہت اختصار سے کام لیتے ہیں۔ ”شام غربیاں“ میں جنابِ حر کی زوجہ کے کھانا پانی لانے کا واقعہ تاریخی حیثیت سے مستند نہ ہی حقیقت نگاری کے نقطہ نظر سے درست ہو سکتا ہے۔

”نسب نے پانی پی لیا تسلیم کے لیے“

صرف ایک مصرع سے قیصر صاحب نے مقصدِ حسینی کی اہمیت اور درد و کرب دنوں ظاہر کیا ہے۔ ایک مقام اور دیکھئے جہاں اہل حرم کو اسیر کر کے اس مقام سے لا یا جارہا ہے جہاں شہیدوں کے لاشے بے گور و کفن پڑے ہیں وہ

”آخر پ نگاہ سے لاش کو چوم کر“

لپ نگاہ سے لاش کو چومنا، اس بے کسی کو ظاہر کر رہا ہے، جہاں قیدیوں کو لاشے دفن کرنے تو کیا رونے کی بھی اجازت نہ دی گئی ہو۔

غرض قیصر کے مرثیوں میں زبان کی سادگی، لطافت اور شیرینی کے ساتھ ساتھ شعور کی گہرائی بھی موجود ہے۔

ڈاکٹر سید صدر حسین (1919-1979)

ڈاکٹر سید صدر حسین میں 1919 میں سادات بارہہ کے ایک گاؤں تنسہ ضلع مظفرگیر (یو۔ پ۔) میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید ابراہم حسین، صدر کے دادا سید حسن رضا مرثیہ گو

تھے۔ صدر حسین نے تعلیم مظفر گر اور علی گڑھ میں پائی۔ ایم۔ اے۔ اردو اور ایل۔ ایل۔ بی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا۔ ایم۔ اے۔ فارسی آگرہ یونیورسٹی سے، پی۔ ایچ ڈی۔ 1957 میں پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔

(بحوالہ طاہر حسین کاظمی "اردو مرشیدہ انیس کے بعد")

"مرشیدہ بعد انیس" ، "شاہکار انیس" ، "کاروان مرشید" ، "منزل بہ منزل" ، "سدات بارہہ کی تاریخ موجز میں" ، "لکھنؤ کی تہذیبی میراث" ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ "رقصِ خیال" نسلوں کا مجموعہ "نگارِ غزل" غزلوں کا مجموعہ شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے مراٹی کا مجموعہ "لبِ فرات" کے نام سے شائع ہوا۔

"لبِ فرات میں" آئین وفا، علمدار کر بلاء، چراغِ مصطفوی، مقامِ شیری اور جلوہ تہذیب وغیرہ شامل ہیں۔ سات مرثیوں پر مشتمل یہ مجموعہ 1976 میں اسلام پورہ لاہور سے شائع ہوا۔

صدر حسین مرئیے کی ڈرامائی دلکشی اور بیانیہ وصف کو نظر انداز کرنا نہیں چاہتے۔

بقول ان کے:

"مع شعراء نے عموماً مرئیے کے بیانیہ وصف اور ڈرامائی دلکشی کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اب نہ بیانیہ واقعات میں حرکت عمل کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور ناس کے پڑھنے میں کوئی حسن ابھارا جاتا ہے۔" ۱  
ان کے نزدیک رزم مرئیے کا جزو لازم ہے "آئین وفا" میں تحریر فرماتے ہیں:  
"آپ لاکھ کہیے کہ رزمیہ اس زمانے کا مذاق نہیں، لیکن آپ شہدائے کربلا کی سیرت پیش کر رہے ہیں۔ شجاعت جن کی فطرت تھی اور جن کا کام توارکی جہنم کار کے ساتھ یاد آتا ہے، کوئی بجه نہیں کہ رزم گوئی سے غصہ بصر کیا جائے۔" ۲

1۔ "زاویہ نگاہ"؛ ڈاکٹر صدر حسین، مشمولہ "آئین وفا"، مکتبہ دانش افروز، کرشن گرگ، لاہور ص 26۔

2۔ "آئین وفا"؛ ڈاکٹر صدر حسین 1965 ص 28

صدر حسین ایک طرف تو شعرا پر معرض ہیں، جو مرثیے کو زمیہ مزاج سے دور کر رہے ہیں اور روایتی مرثیے سے اپنا رشتہ توڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ نئے رحمات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ”مرثیہ بعد انیس“ میں لکھتے ہیں:

”آج زمانہ فکر و نظر اور جان و خیال کی نئی منزل سے گذر رہا ہے۔ قدیم زمانے میں جو چیزیں لوگوں کی روحوں کو ہلا دیتی تھیں اور دل و دماغ میں پھیل پیدا کر دیتی تھیں، آج ہم ان کی صرف اس لیے قدر کرتے ہیں کہ آثار بہر حال ہر دل عزیز اور مقدس ہوتے ہیں۔ ہمارے مرثیہ نگار حسین کی شخصیت کو جس انداز سے پیش کرتے تھے اب وہ بہت کچھ بدل چکا ہے۔ حینی شہادت اسلامی تاریخ کا سب سے زیادہ انقلاب انگیز واقعہ ہے۔ اس واقعہ کے تمام انقلابی ممکنات کو پیش نظر رکھ کر ہر عہد میں نئی خیال آرائیاں ہوتی رہیں گی۔ آج حسین صرف مسلمانوں کی ملکیت نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک بین الاقوامی ہیر و سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے حسین اور عظمت حسین پر حدد و مذہبی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ تاریخی، سیاسی اور تمدنی روشنی میں غور کرنا ضروری ہے۔“<sup>1</sup>

صدر حسین نے روایتی مزاج کی پاسداری بھی کی اور جدید رحمات کی طرف بھی قدم بڑھایا۔ ان کے مراثی فلسفیانہ جدت اور خوبی اظہار کا بہترین مرتفع ہیں۔

”آئین وفا“ میں عباش ابن علی کے بہادرانہ کردار کی خوبصورت مظہر کشی کی ہے۔ ”آئین وفا“ میں حضرت عباش کی شجاعت، وفا اور جا شاری کا منظر ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ تلوار نہ لے جاؤں گا      مشکلیں خاموشی سے بھروں گا چلا آؤں گا  
صریح حضرت کا نمونہ انھیں دکھاؤں گا      سر جھکا کر تبر و تیر و نیار کھاؤں گا  
ایک نیزہ کی اجازت ہو ضرورت کے لیے  
وہ بھی اپنی نہیں مشکوں کی حفاظت کے لیے

<sup>1</sup> ”مرثیہ بعد انیس“، ڈاکٹر صدر حسین، سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور، 1971ء، ص 202-201۔

”آئین وفا“ کے بعد شاعر انہ صنائی کا ایک اور نمونہ ”جلوہ تہذیب“ ہے۔ اس میں حضرت علی اکبر کا حال نظم کیا گیا ہے۔ مرثیے کا چہرہ جدید افکار کے مضامین پر مشتمل ہے۔ تمدن، تہذیب اور معاشرتی انداز بدلتے رہتے ہیں مگر کم و بیش ضرور ہوتے رہتے ہیں۔ ”جلوہ تہذیب“ کا قاری بیسویں صدی کے اس عرصے کا انسان ہے۔ جو ہنی کش کش کاشکار ہے۔ نسل انسانی کا دارود مدار جس تہذیب پر تھا انسان، اس کو ترس رہا ہے۔ اس صدی کی دعظیم جنگیں اور تیسری جنگ اسباب چھوڑ کر ختم ہوئیں۔ تہذیب زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور اس تہذیب کی روح حصین اہن علی کی ذات ہے۔ اس مرثیے میں تہذیب تخلیق کائنات کے حسن ترتیب کا نام ہے۔ جب مرثیہ کا چہرہ ایسے مضامین پر مشتمل ہو تو گریز کی منزل بڑی مشکل ہوتی ہے، جس میں مضمون سے ربط قائم رکھتے ہوئے کردار کو سامنے لایا جاتا ہے۔ تمام جدید مرثیہ نگاروں کے لیے یہ سخت ترین منزل ہے۔ صدر حسین نے اس منزل کو بڑی خوبصورتی سے پار کیا ہے۔

نازِ تخلیق یہی ، رازِ تجلی بھی یہی جلوہ طور یہی ، آتش سینا بھی یہی  
سینہ گوتم وزرتشت کا شعلہ بھی یہی حسن یوسف بھی یہی اور پید بیضا بھی یہی

یہی ناگاہ دل کوہ صفا سے نکلا

مشعل نور لیے غارِ حرا سے نکلا

یہی سرمایہ انوارِ علومِ کونین تھا سلوانی بہ لب فاتحِ صفين و خين

یہی اسرارِ تجلی پہ حدیثِ تخلیق اُنھیں اسرارِ تجلی کا امیں قلبِ حسین

ظلم ترسیدہ ولرزیدہ سیاہیِ جن سے

کربلا مہبیط انوارِ اہلیِ جن سے

کربلا کیا؟ انھیں آیات درخشاں کی دلیل ایک صدیوں کی روایات کی صحیح تبلیغ

جس پہ برپا ہوئی قربانی موعودِ خلیل علی اکبر تھے یہاں اور وہاں آسمانیل

خون کم مایہ ادھر خون بنی کے بدلتے

لاکھ تواریں ادھر ایک چھری کے بدلتے

کس قدر مرحلہ صبر و تحمل ہے ادق ہا جرہ تک پئے فرزید رہیں محو قلق  
لیکن ایثار کی تاریخ نے الٹا جو درق ام تیل کی جبیں پر نہ شکن تھی نہ عرق  
کر لیا حق کے لیے جرگوارا اس نے  
موت کو سونپ دیا آنکھ کا تارا اس نے

رخ روشن وہی، پیشافی انور بھی وہی چشم وابرو وہی، لہجہ وہی، تیور بھی وہی  
دوش تک آئی ہوئی زلف معنبر بھی وہی رخ پہل کھائے ہوئے بالوں کے گھنگھر بھی وہی  
جب چلے شیوه رفتار نبی دکھلا کر  
چونک انھیں شہر کی گلیاں وہی آہست پا کر

ڈاکٹر صدر حسین کے لیے ایک وقت یہ بھی تھی کہ وہ مرثیہ صرف شاعری کے لیے  
نہیں بلکہ مجلس کے لیے لکھ رہے تھے۔ ایسی صورت میں ان کے مرثیے نہ صرف علامتی ہو سکتے  
تھے اور نہ صرف ذہن کی شاعری۔ ان کو گریہ و بکا کی بھی فکر تھی، اس لیے مرثیے میں ایک طرح  
کا بیان بھی ضروری تھا۔ جب بیانیہ آیا تو روایتی لوازم بھی آئے۔ جنگ کا بیان بھی آیا، لیکن  
عام طور سے صدر حسین نے جنگ مغلوبہ بھی نظرم کی۔ اب دست بدست جنگ کے بجائے  
جنگ کا ایک نقشہ پیش کیا جانے لگا تاکہ لڑائی کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ صدر حسین نے اس میدان  
میں خاصی کوشش کی اور اپنے بدلتے ہوئے سماج اور ذوق کے درمیان راستے پیدا کیے اور  
جهان تک ہو سکا غم انگیزی کی فکر کی۔ ”آئین وفا“، ”جلوہ تہذیب“ اور ”علم دار کربلا“ سب  
میں اس طرح کی کوشش نظر آتی ہے۔

نکلے دریا سے تو خون اپنا بہاتے نکلے ریگ ساحل کو لب خش بنتے نکلے  
عشق اور فرض کی تقدیر جگاتے نکلے صبر و ایثار کی تاریخ بنتے نکلے  
پیاس اس طرح سے ٹھکرادے بھلا پانی کو جوڑ دیتی ہے وفا فطرت انسانی کو

جنگ کا ایک منظر ملاحظہ ہو۔

چمک کے تنق بڑھی لشکر دغا پہ گئی      تحرک کے ناز سے منہ پر گئی قضا پہ گئی  
جھنک کے موت کا داسن انھی خلا پہ گئی      کڑک کے سن سے چلی، سنسنی قضا پہ گئی  
تمام فوج میں مثل نگاہ پھرتی تھی  
جو برق رو تھے، یہ بجلی انھیں پگرتی تھی

وہ خوف جاں کہ روادار منہ چھپاتے ہیں      فرس لرزتے ہیں اسوار تھرھراتے ہیں  
ہوا اکھڑتی ہے جردار منہ کی کھاتے ہیں      صفوں کو چھوڑ کے سردار بھاگے جاتے ہیں  
ہے شام صبح سے اور صبح شام سے آگے

زمین بڑھ گئی اپنے نظام سے آگے

صدر حسین نے جدید مریئے میں جنگ کے مناظر پیش کیے ہیں، لیکن اپنے موضوع سے  
انحراف نہیں کیا ہے اور جدید رجحانات کو عمدگی سے پیش کیا ہے۔

فوج عاجز تھی جلال علی اکبر کی قسم      سرخودا روں کے خم تھے سرسرود کی قسم  
مور پے ٹوٹ کے ایتر ہوئے حیدر کی قسم      حسن تہذیب نکھر آیا پیغمبر کی قسم  
کان تک آئی جو فریاد و فغایں کی آواز

رک گئی تنق جری، بن کے اماں کی آواز

فوج اماں مانگتی ہو جب تو کریں کیا اکبر      تنق لشکر میں رکے روک کے گھوڑا اکبر  
چار سو فوج کے دل اور تن تھا اکبر      جھوم کر کھانے لگے نیزے پہ نیزہ اکبر  
اک شکن بھی تو جبیں پرنہ غمودار ہوئی  
مسکراتے تھے کہ برچھی کی انی پار ہوئی

منظرنگاری اور ماحول سازی کے بند ملاحظہ ہوں۔ صدر حسین کی یہ آواز دوسروں کی آواز میں  
گم نہیں ہو سکتی۔

رسائل جو ثابت تھے صلح شور جواں      ان کو تکتی تھی خمارت سے ہر اک مونج روائی  
روشنی چاند کی دھیکی وہ میان میداں      سحرور کا جیسے ہو دھند لکھ میں سماں  
یک بیک دور سے بڑھتے ہوئے سائے دیکھے  
کچھ جری دوش پہ مشکیزہ اٹھائے دیکھے

بہر حال صدر حسین اس دور کے مرثیہ نگار شاعر اور نقاد ہیں۔ سودا اور شاد کے بعد ان کا نام مرثیے کی تاریخ میں عزت کے ساتھ لیا جائے گا۔ پروفیسر سید عقیل رضوی لکھتے ہیں:

”صدر حسین جو روایت اور سماجی تہذیب اپنے ساتھ ہندوستان سے لے کر گئے تھے، وہ تمام و کمال ان کے مرثیوں میں موجود ہے۔ مگر ان کا سب سے بڑا حصہ جدید مرثیے میں یہ ہے کہ انھوں نے مرثیہ، جو اپنی اہمیت کھو رہا تھا، اس کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش پاکستان میں کی۔ پاکستان میں مرثیے کی تاریخ میں صدر حسین کا بڑا کارنامہ (Contribution) ہے۔“<sup>1</sup>

ڈاکٹر اسداریب کا خیال ہے:

”جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ کہ ”جلوہ تہذیب“ کا شاعر“  
قص طاؤس“ اور ”چراغ دیر و حرم“ خلق کر چکا ہے۔ اس نے شاعری میں ہیئت و معنی کے کئی تجربات کیے ہیں۔ اس کے سابق ہنز نے اس تخلیق کی راہ ہموار کی۔“<sup>2</sup>

ڈاکٹر یاور عباس

ڈاکٹر یاور عباس کی مرثیہ گوئی کا آغاز 1949 میں شفق اکبر آبادی کی ترغیب پر ہوا۔<sup>3</sup> وہ سائنس دان اور طبیب تھے۔ مرثیہ گوئی کے فروغ کے سلسلے میں انھوں نے بڑی کوششیں کیں۔ وہ قدیم اور جدید دونوں مزاجوں کے ساتھ مرثیہ لکھتے ہیں۔ ان کے مراٹی میں جدید مسائل پر بھی گفتگو ملتی ہے۔ اصلاح کی کوشش بھی ہے اور تکوار اور گھوڑے پر بھی بند ملتے ہیں۔ یاور عباس نے موضوعاتی مرثیے بھی لکھے ہیں۔ جن موضوعات میں جذبات کو زیادہ دخل ہے، اس میں یاور عباس بہت کامیاب نظر آتے ہیں جیسے ”مان“ اور ”آنسو“۔ ان مرثیوں میں روانی اور سلسلی خیال زیادہ ہے۔ ”آنسو“ کے چند بند ملاحظے ہوں۔

1۔ ”مرثیے کی سماجیات“، پروفیسر سید محمد عقیل رضوی، نصرت پبلیشورز، لکھنؤ، 1993، ص 103۔

2۔ ”اردو مرثیے کی سرگزشت“، ڈاکٹر اسداریب، عاکف بک ڈپ، دہلی، ص 112-113۔

3۔ ”بیسویں صدی اور جدید مرثیہ“، ہلال نقی، ص 695۔

صاحب! عقل کی آئینہ گری کیسی ہے      کچھ نہیں ہے تو پریشان نظری کیسی ہے  
 بزم امکان میں آشفتہ سری کیسی ہے      دوستو پوچھلوں آنکھوں میں تری کیسی ہے  
 دل تو پھر دل ہے، یہ آنکھوں میں اتر آئے گا  
 آنکھ پھر آنکھ ہے آنسو تو نظر آئے گا

اس کی تعریف جو ہر آنکھ کو غم دیتا ہے      لفظ کو وزن تکلم کو بھرم دیتا ہے  
 اپنی خلوق کے ہاتھوں میں قلم دیتا ہے      جس کو دل کہتے ہیں وہ ساغر جنم دیتا ہے  
 ورنہ اک کارگر شیشه گری تھی دنیا  
 دیدہ دل جو نہ ہوتے نظری تھی دنیا

یاد ر شکر کرو بزم عزا تک پنجے      آج پھر بارگہ آل عبا تک پنجے  
 دل سنبھالے ہوئے ارباب وفاتک پنجے      اے خشا! منبر محوب خدا تک پنجے  
 پھر سعادت ملی پھر آج کہانی کہہ دو  
 آج ممکن ہو تو آنکھوں کی زبانی کہہ دو

یاد ر عباس نے اپنے ملک کی ادبی فضا کی مذہبی صورت حال کو نظر میں رکھتے ہوئے  
 نعت شریف کے مضامین مرہیے میں داخل کیے۔ ظاہر ہے بغیر رسولؐ کے اہل بیت رسولؐ کا  
 کیا تصور ہو سکتا ہے۔ اگرچہ تمام قدیم مرثیوں میں آنحضرتؐ کے صفات اور جملہ خصائص کا  
 تذکرہ موجود ہے، لیکن یاد ر عباس نے اس کی شعوری طور پر کوشش کی ہے اور نعت گوئی کو اپنے  
 مرثیوں میں داخل کیا ہے۔ بہر حال نعت گوئی کی جوہر پاکستان سے چلی ہے یاد ر عباس کے  
 مرثیوں میں اس کا اثر دیکھا جاسکتا ہے۔ یاد ر عباس کے مرثیے ”خواب“، ”معزکہ حق و باطل“  
 اور ”گھوارہ حصین“ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ”خواب“ کی ابتداء اس طرح ہوتی ہے۔  
 یاد ر اثنائے آل محمدؐ تو فرض ہے      جاں دے کے بھی جو سر سے نہ اترے وہ فرض ہے  
 پیش خدائے حاضر و ناظر یہ عرض ہے      جب تک قیام دور سماوات وارض ہے

مد نظر وقار در مصطفیٰ رہے  
 اور لب پہ نام پختن پاک کا رہے

معراج کا مسئلہ مسلمانوں کے درمیان جبکہ کام موضوع رہا ہے۔ یاد رعباس چونکہ سائنس کے طالب علم تھے، اس لیے انہوں نے برق، روشنی اور رفتار سب کو جدید تحقیق کی رو سے پرکھ کر معراج رسول اور جنگ احمد میں حضرت علیؑ کے رسولؐ سے فاصلے پر ہونے مگر فرا آواز رسولؐ سن لینے کو ثابت کیا ہے۔ چونکہ آج کا دور سائنس کا ہے اور قاری عقیدے کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل سے مذہب کی پرکھ چاہتا ہے۔

رفار سے شعاع کی جب ہو کوئی سفر تو وقت ٹھہر جاتا ہے اپنے مقام پر  
بستر بھی گرم رہتا ہے ہوتی نہیں سحر زنجیر در بھی ہلتی ہی رہتی ہے بے اثر  
تحقیق تو کی رو سے تو کچھ آج کہتے ہیں

صد پوں سے الٰہ حق اسے معراج کہتے ہیں  
مولانا علیؑ کو جب بھی پکارا رسولؐ نے رفتار کیا ہے فاصلہ کیا سب بدل دیے  
آواز بھی پہنچ گئی، نائب بھی آگئے تھے نہیں ہیں اب تو دلائل کی بات ہے  
ہاں فاصلہ نہ وقت کی رفتار دیکھئے  
بس صرف حکم احمد مختار دیکھئے  
پروفیسر سید محمد عقیل رضوی ڈاکٹر یاد رعباس کی مرثیہ گوئی پر تصریح کرتے ہوئے لکھتے

ہیں:

محال (Acceptance) "اجابہ" (Receptionity)

استعمال اور ماحول کے بغیر سماجی مقبولیت ممکن نہیں ہوتی اور اگر مرثیہ کو کے ساتھ پیش کش اور فن و اسلوب، سب کی معتدل یا بلند صورتیں ہیں تو مرثیے کے لیے تجربے اور نیا سالہ سب مرثیے کی جدید صورتوں کو تعلیم کر کے مرثیے کے لیے ایک نئی دنیا تعمیر کرے گا۔ یاد رعباس نے یہ تمام کوششیں کی ہیں۔ اگرچہ ان کافن، بلند فن نہیں مگر نئے حالات اور نئی صورتوں کی سماجی تجدیدیب اس کے لیے بہت اور واخغ ہے۔<sup>1</sup>

1۔ "مرثیے کی سماجیات"، عقیل رضوی، ص 118۔

### امید فاضلی

ارشاد احمد فاضل نام، امید فاضل - 17 نومبر 1923 میں بمقام ڈبائی ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت والد محمد فاروق حسن کی زیر نگرانی ڈبائی میں ہوئی۔ پہلا مرثیہ 1973 میں کہا۔ ۱

امید فاضلی نے جب غزل میں پچھٹگی اور زبان پر قدرت حاصل کر لی تب وہ مرثیہ گوئی کی طرف مائل ہوئے۔ ان کی غزلوں کے مجموعے "دریا آخر دریا ہے" میں بھی بہت سے ایسے اشعار میں جو بغیر کر بلکہ کامنام لی ہیں کہ بلا تک پہنچا دیتے ہیں۔

احساس تم مجبوروں میں جس وقت جہاں بیدار ہوا  
ہر آہ وہیں جھکار بنی ہر زخم وہیں توار ہوا



خیسہ گاہ تشنگاں میں پیاس کی لہروں کے ساتھ  
تیر دریا کی طرف سے رات بھر آئے بہت



نکل کے جبر کے زندگی سے جب چلی تاریخ  
نقاب اٹھائی گئی قاتلوں کے چہروں سے  
امید فاضلی تک آتے آتے اردو مرثیہ اپنی موضوعاتی شناخت بنا چکا تھا۔ امید فاضلی نے بھی اپنے مرثیوں میں ان موضوعات کو پیش کیا، جن کے ہالے میں وہ اپنے کرداروں کو پیش کر سکیں اور اس کا منصوبہ پہلے سے شاعر کے ذہن میں موجود رہتا ہے۔ ان کے مرثیوں کے دو مجموعے اب تک شائع ہو چکے ہیں۔ "سرنینوا" اور "تب و تاب جادو داں"۔  
"سرنینوا" میں ان کے چھ مرثیے شامل ہیں :

1۔ روشنی

---

1۔ "اردو مرثیہ انس کے بعد"، طاہر حسین کا ظہی، ص 359

2۔ قرآن اور اہل بیت

3۔ علم و عمل

4۔ شعور و عشق

5۔ صبر و رضا اور

6۔ باعصر (انسان اور زمانہ)

ان مرثیوں کے عنوان ہی ان کے موضوع ہیں۔ بیت کے اعتبار سے یہ بھی مرثیے مدرس کی  
شکل میں ہیں۔ ”سرنینوا“ کے مقدمہ میں ابوالخیر کشفی لکھتے ہیں:

”مرثیہ گو شعر اک اسپ سے ہڑا احسان ہماری شاعری پر یہ“

ہے کہ انہوں نے مدرس کے امکانات سے ہمیں آشنا کیا۔ انہیں کے

مرثیوں نے اسلام کی مذہبی تاریخ لکھنے والے شاعر رائی کی راہوں کو

اجلا دیا ہے۔ مدرس کی بیت کے انتخاب میں اردو مرثیوں نے حالی

کی رہنمائی کی۔ امید فاضلی نے مدرس کے امکانات کو غزل کے اعجاز

اور غزل میں لفظوں کی مختلف سطحیوں کی صفت سے ہم رشتہ

کر دیا۔ لیکن شاعر انہی محسن کے ساتھ ان مرثیوں کے قاری پر جو سب

سے گہرا اثر مرتب ہوتا ہے، وہ شہادت اور اپنے موضوعات کے

بارے میں امید صاحب کے علم کی گہرائی ہے۔<sup>1</sup>

امید کی مرثیہ گوئی کا آغاز مرثیے کے موضوعاتی رجحان ہی کے ذیل میں ہوا۔

انہوں نے جدید طرز احساس کو مرثیوں میں کھپانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی ذات کے

حوالے سے کربلا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ سلیم احمد کا خیال ہے:

”مرثیہ وہ لکھے جس کی اپنی ذات کر بلا کا میدان ہو، جس

نے خیر و شر کی پیکار اپنے وجود میں نہیں دیکھی، جس نے خود شہادت کا

ذائقہ نہیں چکھا، جو خود رفقائے امام میں سے ایک ایک کے ساتھ بھوکا

1۔ دیباچہ ”سرنینوا“، امید فاضلی۔

پیاس انہیں رہا وہ کیا مرثیہ لکھے گا۔<sup>1</sup>

امید فاضلی کی ذات میں برپا اخطراب انہیں مرثیے کی طرف لے گیا۔ درنہ غزل ان کی مقبولیت کے لیے کافی تھی۔ غم حسین کے ساتھ ساتھ مسائل حیات کو بھی اپنے مرثیوں کا موضوع بنایا ہے۔ امید فاضلی نے اپنی شاعری میں اقبال کی طرح معنویت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

آندھیاں چلتی رہیں اور اک دیا جتا رہا      قتل گاہوں کا سکون آواز میں ڈھلتا رہا  
ایک طائف کا مسافر شام تک چلتا رہا      اور اوہ راک شرذہ ہن وقت میں پلتا رہا  
اک محمد دشمنی، کیا کیا قیامت ڈھائی  
بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آگئی

ضمیر اختر نقوی نے لکھا ہے کہ ”امید فاضلی مرثیے میں قدیم اور جدید کی تفریق کچھ پسند نہیں کرتے۔ وہ اپنی ذات کے حوالے سے کربلا اور حسینیت کے متعلق جو کچھ ہوچتے ہیں وہی ان کی فکر ہے۔“<sup>2</sup>

امید فاضلی نے اپنے فکری رنگ کے ساتھ مرثیوں کے عنوانات مقرر کیے ہیں۔ مثلاً ”شuron و عشق“، ”روشنی“، ”صبر و رضا“، ”علم عمل“، ”اعصر“، وغیرہ ان تصورات سے قاری کے ذہن کو اس سطح تک لے جاتے ہیں، جہاں وہ اپنے کردار کے کسی خاص پہلو کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کردار ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار کے کردار ہیں اور اس کی پیش کش میں وہ، بقول کرار حسین:

”ادب کے تقاضوں اور حفظ مراتب کے حدود کو کہیں نظر  
انداز نہیں ہونے دیتے اور اپنے کرداروں کی مخصوص شکلوں کے ساتھ  
ساتھ ان کا باطنی تعلق اور سلسلے اور یکاگنت کے نقوش کو بصیرت کے نور  
اور عقیدت کے رنگوں سے اجاگر کرتے ہیں۔ یہی حصہ ان کے مرثیے

<sup>1</sup> ”سرنیوا“، امید فاضلی۔

<sup>2</sup> ”اردو مرثیہ پاکستان میں“، ضمیر اختر نقوی، طالع، سید اینڈ سنس، کراچی، 1982ء، ص 399۔

کا بلند ترین نقطہ ہے اور اسی نقطہ پر ان کے مرثیے کاعروجی توں ختم ہوتا

ہے۔<sup>1</sup>

موضعات کے دائرے میں جب وہ اپنے کرداروں کو پیش کرتے ہیں، وہاں  
مرثیے کے روایتی اجزا بھی سامنے آتے ہیں، جنہیں قدیم مرثیہ نگار سے کمال تک پہنچا چکے  
ہیں۔ مثلاً رخصت بھی ہے، مکالے بھی ہیں اور انسانی رشتہوں کی زماں تیں بھی ہیں۔ گھوڑے،  
تلوار کی تعریف بھی ہے اور فسیاتی گوشے بھی ہیں۔ مگر غزل میں مہارت کی وجہ سے لمحے کی  
تازگی مدد نہیں ہونے پائی۔ امام حسینؑ کی میدان جنگ میں آمد کا ایک منظر ملاحظہ ہو  
حسینؑ نقش یہاں اللہ جب بچا کے چلے جنہیں تھا غرہ جراءت بنظر بچا کے چلے  
ہوانے گرم کے جھوٹکے بھی سر بچا کے چلے کے مجال تھی گردن کوئی اٹھا کے چلے  
اٹھا یہ شور شہ مشرقین آتے ہیں

بچاؤ جان کہ اب خود حسینؑ آتے ہیں  
اردو کے مرثیے اکثر امام حسینؑ کی زندگی کے آخری ایام اور شہادت کو پیش کرتے  
ہیں۔ حالانکہ حسینؑ کی پوری زندگی شہادت تھی۔ شہادت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو کچھ عام  
آدی کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ کسی کے علم میں ہو۔ اسی شہادت کو پیش کرنے کے لیے وہ موضوع  
”علم عمل“ کا انتخاب کرتے ہیں۔

علم اک راستہ محسوس سے معلوم کیست علم لازم کا سفر جلوہ مزوم کیست  
نکر پرواز ہے یہ، لفظ سے مفہوم کیست علم ہر لمحہ رواں، رسم سے موسم کیست  
کب یہ دامان محمدؐ سے جدا ہوتا ہے  
بوئے گل کے لیے یہ مش صبا ہوتا ہے



جهل کے ہاتھ میں تلوار کا مطلب ہے فساد علم کے ہاتھ میں تلوار کے معنی ہیں جہاد  
علم کے پاس ہو طاقت تو جہاں ہو آباد جہل ہو صاحب قوت تو بنے ابن زیاد  
علم طالب کو طلب سے بھی سواد دیتا ہے جہل انسان کو بو جہل بنادیتا ہے



1۔ ”سرنیوا“ امید فاضلی، مقدمہ: کرام حسین

علم کی چھاؤں میں حیدر کی شجاعت جائی  
اس کی دستک سے یہاں کی قربت جائی  
اس کی آواز سے کرار کی قوت جائی  
اس کی تعلیم سے تہذیب شریعت جائی  
جائی تہذیب شریعت تو ابھر آئے صین  
دین کی دولت بے داد نظر آئے صین

ان کے موضوعات "روشنی، علم عمل، صبر و رضا" وغیرہ کو ایک دوسرے سے  
الگ نہیں کیا جاسکتا۔ "روشنی" میں عربی کے دونوں الفاظ نور اور رضایہ کا مفہوم سمجھا ہو جاتا ہے۔  
"روشنی" کے آغاز میں روشنی فکر اور شعر کے قالب میں ڈھل گئی ہے۔

روشنی مژگاں بہرہ گاں بے زبانوں کی زبان رoshni فضل بفضل زندگی کی ترجمان  
روشنی نیزہ بہ نیزہ حرف حق کی پاساں روشنی تیغوں کے سامنے میں جوانی کی اداں  
خون میں ڈھل کر لپ اظہار بن جاتی ہے یہ

ہر زمانے کے لیے معیار بن جاتی ہے یہ  
امید فاضلی کے یہاں گریز بھی خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اپنے موضوع ہی کو مضمون گریز  
باتے ہیں۔ ان کے گریز مرثیوں کا ایک جز بن گیا ہے۔

خار زاروں میں جو بھکی وہ دعا ہے روشنی جولپ دریا سے ابھری وہ نوا ہے روشنی  
جو چھنی انسن ب کے سر سے وہ ردا ہے روشنی روشنی ہے کربلا ہاں کربلا ہے روشنی  
کربلا جب جرأتوں کا امتحان لینے لگی

روشنی عباش کے بازو میں لو دینے لگی  
مجموعہ کے آخری مریئے "العصر" میں امید نے تمام موضوعات سمیت لیا ہے۔ بے شک  
انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنمون نے عمل صالح انجام دیے  
اور ایک دوسرے کو صبر و حق کی وصیت کی۔

امید فاضلی کی زبان روایتی مرثیوں کی طرح مہذب اور شستہ ہے۔ اس میں اتنی  
برجنگی اور بے ساختگی ہے، جو قاری کے ذہن پر خوشنگوار اثر ڈالتی ہے۔ ابوالحنیفی کہتے ہیں:  
"سر نیوا" کے مراثی کے حروف مشعل بدست نظر آتے

ہیں۔ علم و فن کی ہم آہنگی ان کے مراثی کی پہلی اور بنیادی صفت ہے۔ الفاظ چہرہ نما ہیں اور ان کے مرثیوں کی بہت سی ایات اسی ہیں، جن سے صرف دیارِ حیات میں نہیں بلکہ شیر عشق میں بھی چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔<sup>1</sup>

### ہلال نقوی

ہلال نقوی نے اپنی مرثیہ گوئی کا آغاز 1970ء میں کیا۔ بقول ان کے ”1970 میں مرثیے سے میرا تخلیقی رشته قائم ہوا۔“<sup>2</sup> ان کے مراثی کا مجموعہ ”مقتل و مشعل“ 1976ء میں نون اکیڈمی کراچی سے شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ بھی شائع ہونے والا ہے۔ ہلال نقوی نے مرثیہ گوئی کے ساتھ ایک بڑا تحقیقی کام جدید مرثیہ پر ”بیسویں صدی اور جدید مرثیہ“ کی صورت میں کیا۔

ہلال نقوی کے مرثیے ایک طرف اپنے عہد کی متحرک زندگی کی عکاسی کرتے ہیں تو دوسری طرف انہوں نے ہیئت میں چند تبدیلیاں کیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مدرس کے بند کا تیسرا مصرع جو مرثیے کی مشکم ہیئت میں اپنے ما قبل دونوں اور اپنے مابعد چوتھے مصرع سے ہم تفافیہ اور ہم رویف مسلسل آتا تھا مفرک دردیا۔ ”قدیل مبر“ اور ”ایثار و پیکار“ اس نے تجربے کے ساتھ لکھے۔ مثال کے طور پر یہ بند ملاحظہ ہوں۔

موت کا خوف بڑھا، صبح گئی شام ہوئی	تیرگی چھانے لگی، روشنی ناکام ہوئی
انشار اپنے ارادوں کی جودو لے کے بڑھا	قوت نوع بشر لرزہ بر اندام ہوئی
دشت احساس ہلا، فکر کے گھر کا نپ گئے	زندگی کے چمن آثار شجر کا نپ گئے

1۔ مقدمہ ”سرنیوا“، امید فاضلی۔

2۔ ”بیسویں صدی اور جدید مرثیہ“، ہلال نقوی، ص ۶۔

دل ہلا دیتا ہے یہ موت کا خونیں کڑکا  
لیکن اے ہم نفوس ہم سفر و ہم قدمو  
کر بلہ پیش نظر ہے تو ہمیں کیا دھڑکا  
راکھ ہو جاتا ہے ہر پیکر باطل بھن کر  
موت ڈر جاتی ہے پیغام حسینی سن کر

مسدس کے تیرے مصرعے میں تبدیلی پر ہم جیل مظہری کے باب میں بحث کر  
چکے ہیں۔ اکثر ناقدین اس تبدیلی کو درست نہیں سمجھتے کہ تیرے مصرعے کو دیف قافیہ کی قید  
سے آزاد کر دیا جائے۔ پروفیسر عقیل رضوی کا خیال ہے :

” یہ تجربہ کوئی بہتر تجربہ نہیں بلکہ محض تجربہ برائے تجربہ  
ہے... ہلال نقوی کا تیرے مصرعے کو الگ کر لینے کا روایہ خیال کورفتہ  
رفتہ عروج کی طرف لے جانے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اس  
مصرعے پر اسی لیے بیان میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اے ہم جدت  
برائے جدت ہی سمجھیں گے۔ اگر اس طرح کے تجربے کرنے ہی ہیں  
تو عمری مرضیوں کی کوشش کی جاسکتی ہے۔ آزاد نظم کی صورت اختیار کی  
جائے یا بالکل فری ورس اور نشری نظموں میں تجربے کیے جائیں۔ شاید  
کچھ اچھے مریئے نکل آئیں۔ مسدس کے فارم کو بگاڑنا مناسب نہیں  
معلوم ہوتا۔“ <sup>1</sup>

اردو میں آزاد مریئے بھی لکھے گئے۔ جعفر طاہر، عبدالرؤف عروج، سید رضی ترمذی  
اور جلیل ہاشمی وغیرہ نے مریئے میں بیت کے مختلف تجربات کیے ہیں۔ انھیں ہم تجربہ برائے  
تجربہ نہیں کہہ سکتے۔ عقیل صاحب بھی مریئے میں بیت کے تجربات کے حق میں ہیں تو کیا  
صرف قافیہ کی قوت ہی اہم ہے خیال کی قوت نہیں؟

اب ذرا محسن الرحمن فاروقی کی اس بات پر غور کریں۔

” امید تو یہی تھی کہ مسدس کو پھیلا کر اس ایک بیت سے اور

<sup>1</sup> ”مریئے کی سماجیات“، سید محمد عقیل رضوی

ہمیشیں بھائی جائیں گی یا کم سے کم مسدس کی ترتیب قوانی میں کچھ تبدیلیاں کی جائیں گی تاکہ بیت میں کچھ تازگی پیدا ہو، لیکن اس کے بجائے ایک بیت کو اس بری طرح استعمال کیا گیا کہاب مسدس کا نام سننے ہی مسدس حالی یا انہیں دوپیر کے مرثیوں کے علاوہ کچھ ذہن میں آتا ہی نہیں۔ ایک بہت کارآمد اور تنوع کو قبول کرنے والی بیت کثرت استعمال کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بے شکل و صورت، ثیڑھے میڑھے بندوں کا رواج زیادہ ہے، لیکن چھ مصروعوں کا بند کوئی لکھتا ہی نہیں۔<sup>1</sup>

مشہور الحسن فاروقی اس دور کے سب سے اہم نقاد ہیں۔ قدیم اور جدید ادب پر ان کی گہری نظر ہے۔ وہ مسدس کے دائرے میں رہ کر تبدیلیوں کے حق میں ہیں۔ پھر اس تبدیلی کو نظر انداز کرنا شاعر کو پابند بنتا ہے۔ جب کہ شاعر پر پابندیاں لگانا اس کے شعری اظہار میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے۔ ن۔م۔ راشد جنہوں نے مسدس کے تیرے مصروعے میں تبدیلی کا تجربہ سب سے پہلے 1941 میں اپنی نظم ”رخصت“ میں کیا تھا، فرماتے ہیں:

”شاعر کا اصل کام اپنے ہی رنگ میں شعر کہنا ہے اور انھیں قabilوں میں جو اس کے رنگ کی ہبھتر ترجمانی کر سکتے ہوں، یعنی اس بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں کرو، اپنے لیے غزل کا قابل اختیار کرنا ہے۔ یا نظم کا، رباعی کا، یا مسدس کا اور نظم میں مشقی اور موزوں نظم یا غیر مشقی اور غیر موزوں کا۔“<sup>2</sup>

اگر ہلال نقوی اور دوسرے شعر اسی انداز سے مریعے لکھتے رہیں تو ممکن ہے کہ یہ تجربہ کامیاب ہو۔ بہر حال وقت سے پہلے کچھ کہنا مناسب نہیں۔ اسداریب کا خیال ہے:

”یا اور اس قسم کی دوسری تبدیلیاں زمانے کا تقاضا ہیں۔ ہر

<sup>1</sup> ”شعر کی ظاہری بیت“، مشہور الحسن فاروقی، نظم و سخن، ص 48۔

<sup>2</sup> نظم اور غزل، ن۔م۔ راشد، نیا در، کراچی کارشنہ، ص 15۔

ذہین شاعر اپنے اظہار کی راہ میں پیش آنے والی وقوف کا دفعہ چاہے  
گا۔ ہلال نقوی نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اگر کوئی ناک بھوں چڑھاتا  
ہے تو چڑھائے۔<sup>۱</sup>

ہلال نقوی نے مرثیے کو زندگی کے نئے آہنگ سے آشنا کیا ہے۔ ”روح انقلاب“  
میں امام حسین کو انقلابیوں کا رہبر بنا کر پیش کیا ہے۔ اگر ہم باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو  
ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چلانا ہو گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں صحت مند معاشرے کی تشكیل  
کریں تو ہمیں واقعہ کر بلے استقامت اور عزیمت کا سبق لینا ہو گا۔

کیوں ایسے درس عزم سے قوت فزوں نہ ہو      کیوں انتشارِ فکر کو حاصل کوں نہ ہو  
کیوں پاندار قصر عمل کا ستون نہ ہو      ہم انقلابیوں کی نظر تھے پہ کیوں نہ ہو  
ہو گی کی نہ حق کی قسم آب وتاب میں  
خوب بھر دیا ہے تو نے رُگ انقلاب میں

ہلال نقوی کو مضمون کے اظہار پر قدرت حاصل ہے۔ لفظوں پر گرفت، لمحے میں  
وہی طنز ہے، جو جوش کی خصوصیت ہے۔ اس اعتبار سے وہ جوش سے قریب نظر آتے ہیں۔  
انھوں نے مرثیے کو فکر جدید اور نئے علوم سے آشنا کیا ہے۔ ہلال نقوی اس راز سے واقف  
ہیں کہ اگر سیاسی اور سماجی مسائل سے مرثیے کو دور رکھا گیا تو اس کی ترقی رک جائے گی۔

انسان کا یہ خروش، یہ مقتل، یہ گیرودار      اور پھر ہوا کے دوش پہ اڑتے یہ راہ وار  
شاہی کا رعب داب، حکومت کا یہ جلال      یہ عسکری ادا، یہ سیاست، یہ اقتدار  
اور پھر شکوہ زر یہ جو کرسی کے ساتھ ہے

اس ساری دھوم دھام میں طاقت کا ہاتھ ہے

طاقت ہزار رنگ سے ہوتی ہے جلوہ گر      سیل منافقت تو کہیں خلفشار زر  
چلتی ہے بن کے پیکر داروں کبھی      مقتل کے بھی بیاس میں کرتی ہے یہ سفر

یہ ہے رواں جو قہر و غضب کی کمک کے ساتھ

لرزائیں بستیاں بھی قدم کی دھمک کے ساتھ

<sup>۱</sup> ”اردو مرثیے کی سرگزشت“، اسداریب، ص 134۔

طااقت ہی آج را گذر بھی سفر بھی ہے طاقت ہے جس کے پاس وہی معتبر بھی ہے  
چرچے اسی کے قریب قریب ہیں روز و شب اخبار کی یہ سب سے نمایاں خبر بھی ہے  
اک شرح جنگ مملکتوں کے قلوب میں

### تخفیف اسلحہ کے مباحث بھی خوب ہیں

ان بندوں میں روزانہ کی عالمی زندگی میں ہونے والے واقعات اور مسائل کی طرف اشارہ ہے۔ ہلال نقوی نے اس دور کے جبرا کا سلسلہ واقعہ کر بلائے جوڑا ہے۔

ہے اقتدار منصب حق علم کا مزاج تیغوں کی کب ہے حرف صداقت کو احتیاج لشکر ہزار پست ہیں، خود حق کی گونج سے اس گونج کے جلال سے لزاں ہے تخت و تاج

اس شان سے سپاہ بھی کوئی لڑی نہیں

اقدام حق سے کوئی بھی طاقت بڑی نہیں

تجھ پر سلام اے دلی حقانیت شعار گرچہ کھلا ہے سامنے میدان کار زار وجہ کمال یہ ہے کہ مقصد دعا نہیں حد کمال یہ ہے کہ رکھتے ہیں ذوالفقار

پوچھئے کوئی سپاہ شہ مشرقین سے

اک مرحلہ تھارن کی اجازت حسین سے

امام حسین نے تخفیف اسلحہ کی یہ صورت اختیار کی کہ حضرت عباس کو صرف ایک نیزہ لے کر پانی لانے کی اجازت دی، جنگ کی نہیں۔

تلوار سب کو دی انھیں نیزہ دیا گیا

مقصد یہ تھا، یہاں بھی رہے حسن اعتدال



ہتھیار کم اثر ہو جو مضبوط ہاتھ ہو

طااقت کا صرف ہوتا تو ازن کے ساتھ ہو



غیظ و غصب کے ساتھ نکرکشی کے ساتھ  
آئے ہیں رزم گاہ میں کس سادگی کے ساتھ  
غرض ہلال نقوی اپنے دور کے سیاسی و سماجی مسائل سے باخبر ہیں۔ ڈاکٹر اسد  
اریب لکھتے ہیں:

”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے اپنے شعروں کو صرف  
شعری تخلیق کے ساتھ میں نہیں ڈھالا بلکہ ان کی تخلیق کا عمل اس  
انہاک، توجہ اور مطلب برآری کے جذبے سے پایہ تکمیل تک پہنچایا  
کہ ان کا حرف حرف اپنی تخلیق کی صداقتوں کی گواہی دے رہا ہے۔  
ہلال نقوی نے جدید مرثیے کے اس سفر میں جس سبک روی، فلسفیانہ  
شائگی، عزم اور حزم و اختیاط کا ثبوت فراہم کیا، وہ ان کے مرثیوں  
”قدیل صبر“، ”ایثار و پیکار“ اور ”روح انقلاب“ میں اپنے کمال پر نظر  
آتا ہے۔“<sup>1</sup>

### تصویر فاطمہ

رثائی شاعری میں شاعرات کا بھی حصہ رہا ہے۔ عصمت آراء، دیوی روپ کماری،  
اکرام النساء، علوی بیگم، پروین کچ کلاہ، معصومہ نیم زیدی اور بانو سید پوری وغیرہ نے صدق  
مرثیہ میں طبع آزمائی کی۔ پاکستانی شاعرات میں تصویر فاطمہ کا نام اس لیے اہم ہے کہ انہوں  
نے مرثیے کی ہیئت میں تجربہ کیا اگرچہ تجربہ نیا نہیں۔ ن۔ م۔ راشد کی ایک لکھم ”رخصت“  
(1941) میں کچھ حصے مسدس کی شکل میں تھے اور انہوں نے مسدس کے تیرے مرصع کو  
قافیہ اور دیف سے آزاد رکھا تھا۔ جمیل مظہری نے بھی تین مرثیوں ”لمحہ غور“، ”علمدار وفا“  
اور ”حقیقت نوروناڑ“ میں مسدس کا تیرا مصرع قافیہ اور دیف سے آزاد رکھا تھا۔ ہلال نقوی

<sup>1</sup> ”اردو مرثیے کی سرگزشت“، ڈاکٹر اسد اریب، ص 132-133۔

نے بھی اس طرح کے تجربات کیے۔ تصویر فاطمہ جو جیل مظہری کی نواسی ہیں، انہوں نے بھی مسدس کے تیر سے مصرے کو قافیہ اور رویف سے آزاد کر دیا۔ انہوں نے اپنے پہلے مرثیے ”بصیرت“ میں اس بات کا خود اعتراف کیا ہے کہ وہ جیل مظہری کی پیرو ہیں۔ جیل مظہری نے یہ تجربہ اس وقت کیا جب وہ اپنے شاہکار مرثیے لکھنے کے تھے اور مسدس کی ہیئت میں کوئی تجربہ نہیں کیا تھا۔ انھیں اس تجربہ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، شاید انہوں نے اب مسدس کی ہیئت میں ترمیم کی ضرورت محسوس کی ہو۔ ان کے بعد کے پیروکاروں میں تصویر فاطمہ بھی شامل ہو گئیں۔ اس تجربے میں انھیں کہیں کامیابی بھی ملی ہے۔ ان کے پانچ مرثیوں پر مشتمل مجموعے ”رداۓ صبر“ ۱ سے کچھ بدل لاحظہ ہوں:

یہ امامت جونہ ہوتی تو اک آفت آتی      نوع انسان کی بقا پر بھی مصیبت آتی  
 آج سجاد نہ ہوتے جو یہاں بعد حسین کرہ ارض بکھر جاتا قیامت آتی  
 ہوتا کچھ اور ہی دنیا کا فسانہ سارا  
 گھور انڈھیرے میں چھپا ہوتا زمانہ سارا  
 لے کے انگڑائیاں اب عابد بیمار اٹھے      اپنے تیور میں لیے عظمت کردار اٹھے  
 برش تنخ خطابت ہی کا اب وار چلے      نہ بنے بات تو پھر دھوم سے تکوار چلے  
 نقشِ جنگ بدلتے ہوئے حالات میں ہے  
 دن کا اعلان ہے اور کتنی سر رات میں ہے

(”حضرت سید سجاد“، ص 46)

”رداۓ صبر“ کے سبھی مراثی ( بصیرت، ماں، ردا، خواب اور حضرت سید سجاد) موضوعاتی ہیں اور ان میں رزمیہ عناصر کی تجھاشنیں۔ یوں بھی جدید مرثیوں میں رزمیہ روحان کم رہا ہے۔ اس کے علاوہ تصویر فاطمہ کے مراثی زیادہ تر شہادت حسین کے بعد کے ہیں۔ رزمیہ عناصر کے تین پہلوؤں، جہاد بالسیف جہاد بالقلم اور جہاد باللسان میں، جہاد باللسان کو تصویر فاطمہ نے زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس کے علاوہ خطبہ نسب میں بھی اس بات

۱۔ ”رداۓ صبر“، تصویر فاطمہ، حلقة، فکر و نظر، کراچی، 1996ء

کی کوشش نظر آتی ہے۔

ڈھل گئی حرف دعا میں جو شجاعت ان کی گونج اٹھی طوق و سلاسل میں قیادت ان کی  
مُسکراتے رہے جھنکار میں زنجروں کی اور ابھرتی رہی چہروں پر جلالت ان کی  
اس جلالت پر سورخ کا قلم لرزائی ہے

اور قلم کیا ہے حکومت کا حشم لرزائی ہے (ص 52)

آج سجاد کا خطبہ سر دربار یزید زعم شاہی کے لیے ہو گیا اک ضرب شدید  
ان کی ہمت نہ ہوئی ان سے جو بیعت مانگے یہ بھی امکان نہ تھا ان پر کرے ظلم مزید  
لئے فکر تھا یہ اہل سیاست کے لیے  
ضرب یہ سخت تھی ارباب حکومت کے لیے

(”حضرت سید سجاد“، ص 46)

اس کے علاوہ مرثیے کے روایتی اجزاء کی مثالیں بھی ان کے مراثی میں نظر آتی ہیں۔ سراپا نگاری اور منظر نگاری میں وہ اکثر کامیاب ہیں۔

یہ کہہ کے خیمہ گاہ سے نکلے جو دل ملوں مقتل بھی کچھ اداں تھا اور اڑاڑی تھی دھول  
سارا چمن مرقع دوڑ خزاں جو تھا دشت بلا کی خاک پر بکھرے ہوئے تھے پھول  
ہر سانس ایک سلسلہ کرب و آہ تھی  
حضرت بھری نگاہ سوئے قتل گاہ تھی

(”بسمیرت“، ص 13)

تصویر فاطمہ کا سب سے بہتر مرثیہ ”سید سجاد“ ہے جو چاروں مرثیوں کے بعد کا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر فاطمہ کا تخلیقی سفر جاری ہے۔ مستقبل میں ان سے اور بہتر مرثیہ کی توقع کی جا سکتی ہے۔



## اختیامیہ

مرشیہ ابتدا سے انیس تک موضوع اور بیت کے تجربے سے دوچار رہا۔ انیس تک آتے آتے درجہ کمال پر پہنچ گیا۔ انیس کے بعد شاد عظیم آبادی (1846-1927) سے آج تک مرشیے کے موضوع میں تیز اس کے اجزاء میں مختلف تجربات ہوتے رہے لیکن مرشیہ میر انیس کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ شمس الرحمن فاروقی نے اپنے مضمون ”مرشیے کی معنویت“<sup>1</sup> (1998) میں مرشیے کی شعریات از سر نومرتب کیے جانے کی ضرورت محسوس کی ہے، ان کا خیال ہے کہ ”ممکن ہے کسی صنف یا کسی بیت میں کوئی خاص کارنامہ یا کارناٹے ایسے ہوں، جن میں اس صنف یا بیت کو ایسی ادبی بلندی پر پہنچا دیا گیا ہو کہ آئندہ آنے والوں کے لیے جائے قیام ہی نہ رہے۔ اگر مثلاً میر انیس نے مسدس کی بیت میں مرثیوں کو اس عروج پر پہنچا دیا جس کے آگے کوئی منظر ہی نہ رہ گیا، تو اس بات میں کیا تجھ کہ مسدس کی بیت میں مرشیہ اب اپنی معنویت کو بیٹھا ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہو گا کہ مسدس کی بیت والی نظم ہی اب اپنے امکانات سے فارغ ہو چکی ہے۔“

فاروقی صاحب کے مندرجہ بالا خیالات سے اتفاق کیا جائے یا نہ کیا جائے لیکن ہر قسم کے تجربے کا خیر مقدم لازمی ہے کیونکہ نئے تجربات ہی سے کسی بھی صنف میں تنوع کے امکانات ممکن ہیں۔



1. مرشیے کی معنویت، شمس الرحمن فاروقی، 1998.

## کتابیات

اس مقالے کی تیاری میں حسب ذیل کتابوں اور رسالوں سے مدد لی گئی۔

آغوش مادر	-1
آمین وفا	-2
ایشات فقی	-3
ادب اور زندگی	-4
ادب اور نظریہ	-5
ادبی مقالے	-6
اردو شاعری پر ایک نظر	-7
تجربے	-8
اردو کی ادبی تاریخ	-9
اردو مرثیہ	-10
اردو مرثیہ	-11

12-	اردو مرثیہ انیس کے بعد	ڈاکٹر سید طاہر حسین کاظمی	ایران میں آرٹ پرنسپلز، دہلی، 1997
13-	اردو مرثیہ پاکستان میں	ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی	شیخ شوکت علی ایڈمنز، آفیش پرنسپلز، دہلی، 1982
14-	اردو مرثیے کا ارتقا (ابتداء سے انیس تک)	ڈاکٹر مسح ازماں	کتاب گر، دین دیال روڈ، لکھنؤ، 1968
15-	اردو مرثیے کی روایت	ایضاً	ایضاً، 1969
16-	اردو مرثیہ کی سرگزشت	اسداریب	عاف بک ڈپ، دہلی، 1991
17-	اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک	خلیل الرحمن عظیمی	ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، 1996
18-	اعجاز ناطق	جدید بارہ بیکوی	نای پریس، لکھنؤ، 1978
19-	انیس شخصیت اور فن	پروفیسر فضل امام	مودرن پبلیکیشن ہاؤس، نئی دہلی، 1984
20-	انیس شناسی	مرتبہ: پروفیسر فضل امام	ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، 1981
21-	انیس شناسی	مرتبہ: گوپی نارنگ	ایجوکیشنل پبلیکیشن ہاؤس، 1981
22-	انیس کی مرثیہ نگاری	جعفر علی خاں اثر	دانش محل، لکھنؤ، 1957
23-	انیس کے غیر مطبوعہ مرثیے	شہاب سرمدی	مکتبہ جامعہ لمیڈیا، نئی دہلی، 1990
24-	انیس کے مرثیے جلد اول	مرتبہ: صالح عابد حسین	ترقی اردو پیورو، نئی دہلی، 1977
25-	انیس کے مرثیے جلد دوم	ایضاً	ایضاً 1980

انیسیات	- 26	سید مسعود حسن رسوی ادیب	اٹر پر دلیش اردو اکیڈمی، لکھنؤ، 1976
اوہہ میں اردو مرثیہ کا ارتقا	- 27	ڈاکٹر اکبر حیدری کاشمیری	نظمی پر لیس، لکھنؤ، 1981
ایلیٹ کے مضامین	- 28	ایلیٹ، مترجم: جیل جاہی	ایجوب کشمائل پبلشنگ ہاؤس، نقی دہلی، 1978
بیسویں صدی اور جدید اردو مرثیہ	- 29	ہلال نقوی	محمدی ٹرست، لندن و کراچی، 1994
بیچان اور پرکھ	- 30	آل احمد سرور	مکتبہ جامعہ لمبیٹ دہلی، 1990
تاریخ ادب اردو	- 31	رام بالوسکینہ	خاتون مشرق، اردو بازار، دہلی، 1966
تاریخ اوہہ جلد دوم	- 32	محمد الغنی رام پور	
تاریخ مرثیہ گوئی	- 33	حامد حسن قادری	ہمالیہ بک ہاؤس، دہلی، 1973
تذکرہ شعرائے اردو	- 34	میر حسن، مرتبہ شیروانی	اجمن ترقی اردو ہند، علی گڑھ، 1931
تذکرہ مرثیہ نگاران اردو	- 35	امیر علی بیگ جونپوری	سرفراز قومی پر لیس، لکھنؤ، 1985
تلائی دیر	- 36	کاظم علی خاں	نفترت پبلشرز، لکھنؤ، 1997
تلائی میر	- 37	شاراحمد فاروقی	مکتبہ جامعہ لمبیٹ، نقی دہلی، 1974
تلقیدی جائزے	- 38	سید احتشام حسین	الله آباد پبلشنگ ہاؤس، الہ آباد، 1951
جدید اردو مرثیہ	- 39	محمد رضا کاظمی	مکتبہ ادب، کراچی، 1981

پاکستان ریڈس گلزار کراچی، 1977	ہلال نقوی	ہلال نقوی	جدید مرثیے کے تین معمار	-40
عالمگیر پچرزا، کراچی، 1981	مرتبہ: ضمیر اختر نقوی	جوش کے مرثیے	-41	
مطح تھوئی نول، لکھنؤ، 1922	آغا شہر	حضرت رشید	-42	
بہار قاؤندیش، عظیم آباد، پشاور، 1996	بہار حسین آبادی	خاصان خدا	-43	
حسیر اختر پرانہ، ناظم آباد، کراچی، 1985	صبا اکبر آبادی، مرتبہ: مشق خواجہ	خونتاب	-44	
شمیم بک ڈپ، لکھنؤ، 1966	ڈاکر حسین فاروقی	دبستان دبیر	-45	
بیشل کتاب گھر، الہ آباد، 1973	ڈاکر جعفر رضا	دبستان عشق کی مرثیہ گوئی	-46	
نامی پریس، لکھنؤ، 1962	فیض الدین ہائی	دکن میں اردو	-47	
ترقی اردو پیور و تی دبیلی، 1989	ڈاکٹر رشید موسوی	دکن میں مرثیہ اور عزاداری	-48	
مکتبہ جامعہ لمبیڈنی دبیلی، 1986	علی جواد زیدی	دہلوی مرثیہ گو (جلد اول)	-49	
الیضا، 1987	الیضا	دہلوی مرثیہ گو (جلد دوم)	-50	
سرفراز توی پریس، لکھنؤ، 1953		دیوان صفائی (صحیفہ الغزل)	-51	
بہار قاؤندیش، عظیم آباد، پشاور، 1996	بہار حسین آبادی	ذہن رسما	-52	
حلقة فکر و نظر کراچی 1994	تصویر فاطمہ	روائی صبر	-53	

رزم نگاران کربلا	رزم نگاران کربلا	ڈاکٹر سید صدر حسین	سگ میل پبلیکیشنز، لاہور، 1977	-54
ساز حریت	شیم امر و ہوی	شیم بک ڈپو، لکھنؤ، 1942ء، اشاعت سوم	زولی ہاؤس، لکھنؤ، 1942ء، اشاعت سوم	-55
سینچ مشانی	سید سردار حسین خبیر	سید سردار حسین خبیر	شیم بک ڈپو، لکھنؤ، 1960ء، لکھنؤ	-56
سرنیوا	اسید فاضلی	اسید فاضلی	سیپ پبلیکیشنز، کراچی، 1982	-57
سرمایہ حسین	بہار حسین آبادی	بہار حسین آبادی	بہار فاؤنڈیشن، عظیم آباد، پٹنس، 1996	-58
شاگردان انس	تقام حسین جعفری	تقام حسین جعفری،	کتبخانہ جعفریہ، نارکھنا ظم آباد، کراچی، 1979	-59
شام شہریاران	فیض احمد فیض	فیض احمد فیض	کتبخانہ جامعہ لمبیڈ، دہلی، 1978ء	-60
شعر، غیر شعر اور نثر	مش من کاروچی	مش من کاروچی	شب خون کتاب گھر، اللہ آباد، 1973	-61
شعله و شنم	جوش پیغ آبادی	جوش پیغ آبادی	1936	-62
عرفانِ جیل	جمیل مظہری، مرتب: سیدار شاد حیدر	جمیل مظہری، مرتب: سیدار شاد حیدر	اصغریہ پبلیکیشنز، اللہ آباد، 1979	-63
غبار خاطر	ابوالکلام آزاد	ابوالکلام آزاد	آزاد اکیڈمی، دہلی،	-64
فردوسی ہند	ڈاکٹر صدر آہ	ڈاکٹر صدر آہ	کتاب کدھ، سمنی، 1958ء، سیتاپوری	-65

1990	اجمن ترقی اردو ہند، نئی دہلی،	رجب علی بیگ سرور	فسانہ عجائب	-66
		نتوںی لال و حشی	فکر رسا	-67
	ایجو کیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ	نور احسن ہائی	فلسفہ جمال اور اردو شاعری	-68
1977	اجمن ترقی اردو ہند، دہلی،	مترجم: عزیز احمد	فن شاعری (بوطیقا)	-69
1996	بہار فاؤنڈیشن، عظیم آباد پٹیاں،	بہار حسین آبادی	قصر جناب	-70
1990	زرافشان، دود پور، علی گڑھ،	ڈاکٹر وحید اختر	کربلا تا کربلا	-71
1961	لیبل آرٹ پرنس، دہلی،	فضلی	کربل کھنا	-72
1994	ایجو کیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ،	فیض احمد فیض	کلام فیض	-73
1996	بہار فاؤنڈیشن، عظیم آباد پٹیاں،	بہار حسین آبادی	کیمیاے خجن	-74
			گنج شہیدان	-75
1976	اسلام پورہ، لاہور،	ڈاکٹر صفیہ حسین	لب فرات	-76
1968	شب خون، کتاب گر، الہ آباد	مش احمد فاروقی	لفظ و معنی	-77
1965	مکتبہ علم و فن،	ابوالیث صدیقی	لکھنؤ کا دبستان شاعری	-78

			مختصر تاریخ ادب اردو	- 79
جاوید پبلیشرز، نیشن، ال آباد، 1984	ڈاکٹر سید اعجاز حسین			
غلام علی ایڈنسنر، لاہور نقوی	مرتبہ نائب حسین		مراٹی انیس جلد اول	- 80
پشن، 1973	مرتبہ حمید عظیم آپادی		مراٹی شاد جلد اول	- 81
بہار اردو اکیڈمی، پشن، 1990	نقی احمد شاد		مراٹی شاد	- 82
حافظ اردو بک ڈپو، لکھنؤ	مہذب لکھنؤ		مراٹی مہذب	- 83
نوں کشور پریس، کانپور، 1917	میر منس		مراٹی میر منس جلد سوم	- 84
سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور، 1971	ڈاکٹر صدر حسین		مرشیہ بعد انیس	- 85
نصرت پبلیکیشنز، لکھنؤ، 1993	ڈاکٹر سید محمد عقلی رضوی		مرشیہ کی تاجیات	- 86
اردو اکیڈمی لاہور، 1975	قیصر بارہوی		مرشیہ معراج البشر	- 87
سرفراز قومی پریس، لکھنؤ، 1985	امیر علی بیگ جونپوری		مرشیہ نگاران اردو	- 88
ادارہ فروغ اردو لکھنؤ، 1964	ڈاکٹر محمد احسن قاروی		مرشیہ نگاری اور میر انیس	- 89
نظمی پریس، لکھنؤ، 1985	سکندر آغا		مرزا محمد جعفر اون حیات اور کارتائے	- 90
	خلیف احمد		مرزا محمد رفیع سودا	- 91

مطالعہ انس	ناظر کا کوروی، شجاعت علی سندھیوی	شانتی پریس، الہ آباد، 1963	- 92
معراج فکر	جم جنمدی	سرفراز قومی پریس، لکھنؤ، 1960	- 93
مقدمہ شعرو شاعری	الاطاف حسین حالی	طبع انوار احمدی، واقع الہ آباد، 1924	- 94
موازنہ انس و دیر	شبی نعمانی، مرتب: ڈاکٹر سعید ازمان	رام نرائن لال بینی مادھو، الہ آباد، 1970	- 95
مهدی نقشی فن اور شخصیت	مرتبہ: ناشر نقوی	غازی آباد پیپلز پرنٹرز، 1988	- 96
میرا نیں بحیثیت رزمیہ شاعر	اکبر حیدری کاشمیری	اویستان، سری گر	- 97
میرا نیں سے ایک تعارف	صالح عبدالحسین	مکتبہ جامعہ لمبیڈن، نئی دہلی، 1975	- 98
میرا نیں	سفراش حسین رضوی	مکتبہ جامعہ لمبیڈن، نئی دہلی	- 99
نوائے رضا	سید آل رضا	نظمی پریس لکھنؤ، 1929	- 100
نمودخن	بہار حسین آبادی	بہار فاؤنڈیشن، عظیم آباد، پٹنہ 1996	- 101
نئے تقیدی گوشے	متاز حسین	آزاد کتاب گھر، دہلی، 1964	- 102
والاجر	پیام عظمی	تنظيم المکاتب، لکھنؤ، 1998	- 103
یادگار انس	امیر احمد دہلوی	سرفراز قومی پریس، لکھنؤ، 1960	- 104

## رسائل و جرائد

- 1 "آج کل" دہلی، انیس نمبر (جون 1975)، جیل مظہری نمبر (اگست 1982)، جوش نمبر (اپریل 1995)
- 2 "ارشاد" کراچی، جون 1962
- 3 "ادبی کائنات" ہدایت گڑھ، اپریل 1982 (جیل مظہری نمبر)، اکتوبر 1988، جولائی 1989
- 4 "اعلم" بمبئی، فروری 1992ء، اپریل 1992ء، اگست 1992ء، اکتوبر 1992ء، جون 1993ء، اکتوبر 1993ء
- 5 "پیام اسلام" لکھنؤ، محرم نمبر 1368ھ
- 6 "ترجمان" پٹشن، جنوری 1999ء، نومبر 1999ء
- 7 "زبان و ادب" (شادنمبر) پٹشن، فروری، مارچ، 1979
- 8 "سب رس" حیدر آباد، جنوری 1977
- 9 "سمیل" گیا، مارچ 1982 (جیل مظہری نمبر)، شمارہ، مارچ 1985
- 10 "شاعر" بمبئی، شمارہ 1، 1982
- 11 "شب خون" الہ آباد، شمارہ 112، اگست 1989، نومبر 1986 شمارہ 146، اگست 1987، شمارہ 206، مئی 1997
- 12 "عالی اردو ادب" دہلی، جلد 2
- 13 "کتاب نما" ستمبر 1977 (مرزا اسلامت علی دیرنمبر)
- 14 "نقوش" لاہور، انیس نمبر، 1981
- 15 "نگار" جولائی 1943، نومبر 1943، دسمبر 1943
- 16 "نیادور" کراچی، ن۔م۔ راشدنمبر
- 17 "ہما" دہلی جوش نمبر، جولائی 1982



## اشاریہ

- |   |   |
|---|---|
| آزاد، ابوالکلام، 31، 203، 242، 351،<br>احسن رضوی داناپوری، 288،<br>احسن فاروقی، 36، 37، 43، 124، 132،<br>احمد ہدایی، 138، 215، 272، 352،<br>ادب، 175،<br>ارسطو، 31، 90، 144، 153،<br>استفنسن بری، 32،<br>اسدالیب، 329، 340، 342، 347،<br>اشرف، 45، 65،<br>افرادہ، مرتضیٰ علی یگ، 88، 92، 96،<br>افضل، 16، 47، 63،<br>افضل حسین ثابت، 174،<br>افلاطون، 31،<br>اقبال، 201، 117، 165،<br>احسان، 202، 203، 204، 225، 250، 334،<br>آغا شہر، 198، 349،<br>آغا حسین آغا، 270،<br>آغا شاعر دہلوی، 175،<br>آل احمد سرور، 30، 132، 172، 250،<br>آل رضا سید، 35، 193، 226، 253،<br>ابوالیث صدیقی، 100، 105، 352،<br>اثر، جعفر علی خاں، 81، 91، 124، 125،<br>احسان، مرتضیٰ علی، 88، 96، 97،<br>ابو الحیرشی، 337،<br>ابوالیث صدیقی، 132، 215، 216، 231، 241،<br>ایضاً، 347 | آزاد، ابوالکلام، 31، 203، 242، 351،<br>آزاد، محمد حسین، 166،<br>آصف الدولہ، 78،<br>آغا اشہر، 198، 349،<br>آغا حسین آغا، 270،<br>آغا شاعر دہلوی، 175،<br>آل احمد سرور، 30، 132، 172، 250،<br>آل رضا سید، 35، 193، 226، 253،<br>ابوالیث صدیقی، 100، 105، 352،<br>اثر، جعفر علی خاں، 81، 91، 124، 125،<br>احسان، مرتضیٰ علی، 88، 96، 97،<br>ابو الحیرشی، 337،<br>ابوالیث صدیقی، 132، 215، 216، 231، 241،<br>ایضاً، 347 |
|---|---|

- اکبر حیدری کاشمیری، 100، 96، 95، 16،  
184، 183، 182، 180، 179  
191، 190، 188، 187، 185  
198، 197، 196، 195، 194  
215، 210، 207، 203، 202  
255، 250، 247، 231، 220  
298، 293، 290، 285، 272  
339، 333، 324، 322، 312  
353، 352، 348، 347، 345  
اوچ گیا وی، 167  
اوچ، مرزا محمد جعفر، 34، 161،  
165، 184، 183، 174، 173، 170  
230، 205، 204، 187، 186  
اوچ گیا وی، 167  
ایلیٹ، ٹی۔ ایس۔، 348، 44، 28  
باقر امانت خانی، 305، 287  
بزم اکبر آبادی، 175  
بزم آفندی، 270  
بیش، 39، 38  
بلین، 270  
بولو، 31
- امام رضا نقی، 266، 264  
امید فاضلی، ارشاد احمد، 25، 309،  
332، 309، 25  
امیر علی بیگ جونپوری، 205، 271  
انتظار حسین، 24  
انس، میرزا، 157، 173، 195، 229  
انیس، میر بزرگ علی، 16، 32، 30، 29،  
17، 16، 34، 33، 79، 65، 64، 55، 37،  
34، 33، 352، 231  
اپانی، 49  
اپانی، 121، 119، 118، 117، 116  
اپانی، 128، 126، 125، 123، 122  
اپانی، 134، 133، 131، 130، 129  
اپانی، 139، 138، 137، 136، 135  
اپانی، 144، 143، 142، 141، 140  
اپانی، 154، 152، 148، 147، 145  
اپانی، 161، 160، 158، 157، 156  
اپانی، 169، 168، 167، 166، 165  
اپانی، 178، 177، 176، 174، 173





- ز
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| ریاض الدین ریاض،          | 174   |
| زار سنتا پوری، محمد اطہر، | 214، 267  |
| سید ارشاد حیدر،           | 26، 208، 221، 240   |
| سید اعجاز حسین،           | 105، 352  |
| سید اولاد حسین،           | 289   |
| سید بر حسین حسین،         | 259   |
| سید حسن رضا،              | 323   |
| سید سلیمان ندوی،          | 25  |
| سید رضی ترمذی،            | 338   |
| سید صدر حسین،             | 16، 23، 173، 156، 156، 204، 192، 188، 182، 174، 240، 239، 226، 215، 257، 254، 247، 246، 242، 326، 325، 324، 323، 309، 350، 346، 329، 328، 327 |
| سید ضمیر حسن دہلوی،       | 81  |
| سید طاہر حسین کاظمی،      | 194، 324، 293، 324  |
| سید عارف،                 | 347   |
| سید محمد عقیل رضوی،       | 27، 60، 230، 232، 253، 256، 274، 252، 246، 282، 288، 286، 284، 283، 282، 290، 307، 306، 291، 290  |
| سید احتشام حسین،          | 91، 132، 136  |
| سید اظہبیر،               | 171   |
| سید جباری،                | 280   |
| سید مجید اے۔ بخاری،       | 270، 269، 268   |
| سید مجید الدین قادری،     | 75، 73  |
| ساجدہ زیدی،               | 139   |
| سید مظہر،                 | 31  |
| سید رجب علی بیگ،          | 110   |
| سید رحیم جعفری،           | 285، 284  |
| سید رودا،                 |   |
| سفارش حسین رضوی،          | 16، 68، 86، 89  |
| سکندر آغا،                | 183، 152  |
| سکندر محمد علی،           | 65، 88، 93، 94، 95، 96  |
| سلیمان،                   | 353، 346، 196، 152، 105   |
| سلیمان،                   | 100، 98، 97   |
| سلیمان،                   | 179، 177، 157   |
| سلیم احمد،                | 202، 311، 312، 333  |
| سودا، مرتضی احمد رفعی،    | 64، 65، 69، 73  |
| سید عارف،                 | 77، 78، 79، 80، 81، 86  |
| سید احتشام حسین،          | 95، 96، 148، 167، 170   |
| سید احتشام حسین،          | 207، 239، 328، 352  |
| سید احتشام حسین،          | 173، 204، 249، 251، 276   |

- شیم امروزه‌ی، 175، 179، 259  
 شوکت تھانوی، 193  
 شیخ آذری، 39  
 شیخ شوستری، 38  
 شیر علی افسوس، 83  
 صادق، 29، 63، 228  
 صبا کبرآبادی، خواجہ محمد علی، 309، 311  
 صدر راه، 90، 351  
 صغیر بلگرامی، 174  
 صفائی کھننوی، 161، 204، 346، 350  
 صلاح الدین، 70  
 ضمیر اختر نقوی، 232، 239، 334  
 ضمیر، میر مظفر حسین، 60، 65، 79، 88  
 ضیاء، 64، 272، 310  
 طالب جوہری، 317، 319  
 طالب حسین طالب، 183  
 طاہر فاروقی، 197  
 ظفر، 78، 64
- 331، 338، 352  
 سیدنا ظریف حسین نقوی، 214  
 سیدہ جعفر، 221  
 سیوک، 47  
 شاد عظیم آبادی، 115، 165، 170، 173  
 ، 174، 188، 189، 190، 191  
 شارب رو دلوی، 90، 105، 347  
 شاپنگ نقوی، 309، 311، 310  
 شاهی، 47، 48  
 شبی نعمانی، 16، 100، 104، 150  
 شرکت کھننوی، 166، 168، 169، 353  
 شبیہ احسن، 166، 167  
 شدید، بجاد حسین، 175، 195، 227  
 شرکت کھننوی، 154  
 شفق اکبر آبادی، 29، 329  
 شکیل الرحمن، 239  
 شمس الرحمن فاروقی، 36، 37، 157  
 ، 339، 345، 346  
 شیخ احمد امروزه‌ی، 175، 179، 259  
 شیخ شوستری، 38  
 شیر علی افسوس، 83  
 صادق، 29، 63، 228  
 صبا کبرآبادی، خواجہ محمد علی، 309، 311  
 صدر راه، 90، 351  
 صغیر بلگرامی، 174  
 صفائی کھننوی، 161، 204، 346، 350  
 صلاح الدین، 70  
 ضمیر اختر نقوی، 232، 239، 334  
 ضمیر، میر مظفر حسین، 60، 65، 79، 88  
 ضیاء، 64، 272، 310  
 طالب جوہری، 317، 319  
 طالب حسین طالب، 183  
 طاہر فاروقی، 197  
 ظفر، 78، 64

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| غلاب، اسد اللہ خاں، 165، 132، 64، 16، | ظہیر، 64، 65،                         |
| 170، 169                              | عارف، سید علی محمد، 65، 64، 174، 179، |
| غلام سرور، 63                         | 182، 181، 180                         |
| غمگن، 71، 68                          | عاصی، 63                              |
| فائز، اصغر حسین، 157، 175             | عبد اللہ قطب شاہ، 47                  |
| فائز، سید فرزند حسین، 289             | عبد القادر سروری، 52، 346             |
| فارغ سیتاپوری، 174                    | عرفان، بادشاہ حسین، 183               |
| فائز، 47، 174                         | عرفان صدیقی، 26                       |
| فال، بابو صاحب، 174، 227، 260         | عروج، دولہا صاحب، 174                 |
| فراست زید پوری، 174، 183، 227         | عروج، عبد الرؤف، 319، 260، 226        |
| فرق، 64                               | 338                                   |
| فرزدق، 38، 123، 259                   | عروج، محمد جان، 16                    |
| فرید، 174                             | عزیز احمد، 351                        |
| فتح، مرزا جعفر علی، 88، 92، 102، 103، | عزیز لکھنوی، 204، 208، 214            |
| 270، 106، 110، 110، 207               | عشق، حسین مرزا، 90، 157، 158          |
| فضل امام رضوی، پروفیسر، 110، 17، 110  | 195، 173                              |
| 132                                   | عظمیم امردوہوی، 306                   |
| فضلی، فضل علی، 62، 63، 66، 67، 68،    | علی ثانی، 49                          |
| 351، 85                               | علی جواد زیدی، 16، 38، 43، 44، 60،    |
| فخار، 64                              | 62، 64، 65، 68، 78، 83،               |
| فوٹ، نظر الحسن، 16، 184               | 85، 107، 299، 305، 349                |
| فیض احمد فیض، 277، 279، 280، 281،     | علی عباس حسینی، 16، 241               |
| 282، 283، 284، 285، 350، 351          | عوان چشتی، 249، 346                   |

قادر، 65، 49	قادم تدرت اللہ، میر، 64، 68، 72، 68، 100، 207، 98
قاضی عبدالودور، 192	گوپی چند نارگ، 117، 201، 241، 207، 100، 98
قائم، 64	گوئے، 24، 347
قدیر، 65	لطف علی خاں، 68
قدیم، 174	لطیف، 47
قربان علی، 70، 63	مالک رام، 67
قسم، 175	ماہر، مہدی حسن، 157، 196
ققماں حسین جعفری، 350، 179	مجتبی حسین، 196، 203، 253
قیصر عباس بارہوی، 309، 311، 320، 352، 323، 322	مجنوں گورکھپوری، 172، 346
کاظم، 47	محب، 63، 73، 74، 75، 76، 77، 64، 63
کاظم علی خاں، 346، 146	86
کرام حسین، 334	محتشم کاشی، 39، 60، 82
کرم علی، 63	محمد اکیم، آقا، 260
کروچے، 32	محمد حسن، ڈاکٹر، 77، 80
کریم الدین، 68	محمد رضا، رضا، 63
کلیم، 70، 63	محمد رضا کاظمی، 185، 186، 186، 190، 193، 216
کلیم الدین احمد، 23، 36، 132، 144	216، 230، 235، 242، 256، 261، 268، 271، 272، 273، 273
کوثری، دلورام، 204، 205، 206، 208	349
کیش، ڈبلو-بی-، 129	محمد قطب شاہ، 45، 46
گدا، مرزا گدا علی، 88، 92، 95، 96، 96	مختار الدین احمد، 67

- |  |   |
|--|---|
| مرزا حسین، 253، 280  | مرزا، 49، 50، 51، 52، 89                              |
| مودودی، 214  | مرزا جان جناب مظہر، 72                                |
| مودب کھنوی، 260  | مرزا رضا حسین، 197                                    |
| موی، 63  | مرزا محمد علی، 63                                     |
| موسی، سید محمد نواب، 100، 173، 160، 100، 352، 196، 195     | مسعود حسن رضوی ادیب، 82، 63، 62، 102، 100، 96، 92، 83 |
| مهاراپ سید محمد علی خاں ساحر، 174                          | مسعود رضا خاکی، 348، 241، 154، 104                    |
| مہدی نقی، سید ابن الحسین، 289، 353، 306، 291، 290          | مسکین، میر عبداللہ، 68، 66، 64، 63                    |
| مہذب کھنوی، 227، 228، 228، 260، 287                        | مسعود رضا خاکی، 207، 73، 72، 71، 70، 69               |
|  | 250   |
| میر تقی میر، 82، 81، 25، 24، 22، 244، 243، 215، 95، 86، 83 | سچ الارام، 16، 59، 57، 51، 49، 45                     |
| میر حسن، 100، 95، 93، 85، 83، 65                           | سچ الارام، 92، 89، 88، 86، 82، 78، 65                 |
|  | 102، 101، 100، 97، 96، 93                             |
| میر حسن دہلوی، 81  | 116، 114، 111، 105، 104                               |
| میر حسین، 64   | 153، 149، 148، 132، 130                               |
| میر سوز، 65  | 353، 347، 251   |
| میر محمد باقر، 72  | شیر کھنوی، 198  |
| میر محمد صالح صلاح، 63                                     | مظفر علی خاں کوثر، 174                                |
| میر محمد صمی، 68   | معین الدین، 198                                       |
| میر بن بزرگواری، 64  | معین الدین چشتی، 62                                   |
| میرزا حسن رضوی، 280  | ملا حسین واعظ کاشفی، 66، 39                           |
|  | بلح، 270  |

- نوری، 48، 47، 45  
 نیر مسعود، 240  
 واجد علی شاہ آخر، 154  
 وامق جو پوری، 305  
 وجہی، 47، 46، 45  
 وحید، 196، 157  
 وحید آخر، ڈائسر، 28،  
 293، 292، 288، 28،  
 298، 297، 296، 295، 294  
 303، 302، 301، 300، 299  
 306، 351، 305، 304  
 ہاشم علی، 55، 54، 53  
 ہدایت، 64، 63  
 ہلال نقی، 17، 166، 166،  
 205، 201، 193، 193، 166،  
 252، 241، 231، 209، 208  
 277، 268، 259، 258، 255  
 309، 307، 294، 293، 284  
 339، 338، 337، 321، 310  
 349، 348، 342، 341، 340  
 ہیکل، 32  
 یاور عباس، 309، 330، 331  
 کیتا، سید حیدر حسین، 259  
 یونس زید پوری، 183  
 نج، 159، 158، 133  
 نشستوی، 353، 305، 288  
 ناصر الملک، 260  
 ناصر زید پوری، 287  
 نظم، 110، 78  
 نخوی لال دشی، 288، 217،  
 216، 193  
 شمار احمد فاروقی، 349،  
 243  
 محمد آفندی، چل حسین،  
 270، 226، 204  
 محمد الغنی، 353، 320، 273،  
 271  
 محمد الغنی، 348، 87  
 محمد الملک، 260  
 ندیم، 68، 63، 53  
 نیم امر و ہوی، سید قاسم رضا،  
 118، 119، 263، 261، 259،  
 216، 208  
 نصرتی، 49  
 نصیر الدین ہاشمی، 45  
 نصیر حسین خیال، 197  
 نفس، خورشید علی، 157،  
 177، 178  
 نقی احمد ارشاد، 188، 182،  
 180، 179  
 نقی احمد ارشاد، 352، 211،  
 188  
 ن - م - راشد، 339  
 نور الحسن ہاشمی، 351، 63



# قومی کوسل برائے فروغ اردو زبان کی چند مطبوعات

نوت: طلبہ و اساتذہ کے لیے خصوصی رعایت۔ تاجر ان کتب کو حسب ضوابط کمیشن دیا جائے گا۔

## اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ



مصنف:

محمد حسن

صفحات : 334

قیمت : 98/- روپے

## دکن میں مرشیدہ اور عزاء ڈاری



مصنف:

رشید موسوی

صفحات : 315

قیمت : 17/- روپے

## انیس کے سلام



مصنف:

علی جواد زیدی

صفحات : 307

قیمت : 60/- روپے

## اردو ادب کی تقیدی تاریخ




مصنف:

سید اعتماد حسین

صفحات : 341

قیمت : 85/- روپے

## سوئدیس کے روحانی نغمے



مصنف:

جعفر رضا زیدی

صفحات : 263

قیمت : 91/- روپے

## ہند۔ ایرانی ادبیات (چند مطالعے)



مصنف:

کبیر احمد جائی

صفحات : 190

قیمت : 250/- روپے

ISBN:978-81-7587-299-8

کاؤنسلی کا اولین باراں فرستہ اے۔ اے۔ جا۔



## القومی کوسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

National Council for Promotion of Urdu Language  
West Block-1, R.K. Puram, New Delhi-110066

ISBN:978-81-7587-299-8